

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي  
أَنْزَلَ هَذِهِ السُّورَةَ  
وَعَلَّمَ قَوْمَهُهَا  
وَالَّذِي هُوَ  
الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

کہ دین نامان تحت آقران مہل  
ایز و مٹان تحفہ عجائب و ہدیہ غرات رب الی اللہ  
مقبول بارگاہ شہ کوین حضرت محمد ﷺ  
مستعملی بہ

# صورتوں کے سوال

الجزء السابع

فِي آسَانِهِ وَصِفَاتِهِ ﷺ

أَنْزَلَ هَذِهِ السُّورَةَ  
وَعَلَّمَ قَوْمَهُهَا  
وَالَّذِي هُوَ  
الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

حضرت خواجہ نوبگان خواجہ محمد عبدالرحمن صاحب

ساکن چھوہر شریف ضلع ہری پور  
صوبہ سرحد پاکستان

## فہرست مجموعہ صلوات الرسول

- 1- الجزء السابع (ساتواں پارہ) حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ناموں اور صفات کے بارے میں۔
- 2- الجزء الثامن (آٹھواں پارہ) حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی سرداری اور سردار ہونے کے بارے میں۔
- 3- الجزء التاسع (نواں پارہ) حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی تعریف اور بزرگی کے بارے میں۔
- 4- الجزء العاشر (دسواں پارہ) حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی معراج کے بارے میں۔
- 5- الجزء الحادی عشر (گیارواں پارہ) حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی تسبیح و تہلیل کے بارے میں۔
- 6- الجزء الثاني عشر (بارواں پارہ) حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے حلم اور خواب کے بارے میں۔



## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِأَسْمَاءِ

اسے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بطریق تیرے اسماء کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بطریق تیرے حبیب کے

حَبِيبِكَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِأَسْمَاءِ جَمِيعِ أَنْبِيَائِكَ

اسماء کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بطریق تیرے تمام انبیاء و

وَرُسُلِكَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِأَسْمَاءِ عِبَادِكَ

رسل کے اسماء کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بطریق تیرے تمام نیک بندوں کے

الصَّالِحِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مُحَمَّدٍ الْمُعْطَى بِذَاتِهِ

اسماء کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ عطا کرنے والے ہیں اپنی ذات

وَصِفَاتِهِ لِجَمِيعِ خَلْقِ اللَّهِ مَا سِوَى اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ

اور صفات کے طفیل تمام مخلوق خدا کو ما سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز ہے جو کہ رحمن

الرَّحِيمِ ط الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ط الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط مَالِكِ

رحیم ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا۔ بہت رحم فرمانی والا مہربان ہے قیامت کے

يَوْمِ الدِّينِ ط إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ط إِهْدِنَا الصِّرَاطَ

دن کا مالک ہے۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی توفیق طلب کرتے ہیں۔ چلا ہمیں راہ

الْمُسْتَقِيمِ ط صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ط غَيْرِ الْمَغْضُوبِ

راست پر۔ راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام فرمایا نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا ہے

عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ط الْحَمْدُ لِلَّهِ مَنْ قَالَ لِإِظْهَارِ رَبِّ بُؤْبَيْتِهِ

اور نہ گمراہوں کی۔ سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے اپنی ربوبیت کے اظہار کیلئے

بِحَمْدِهِ ط الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ جَمِيعِ الْعَالَمِينَ ط لِكُلِّ مَا سِوَى اللَّهِ

اپنی حمد کرنے کو کہا سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا ما سوائے اپنی ذات کے



بِرِزْقِ رَازِقِ الرَّحْمَنِ وَبِرَحْمِ مَغْفِرَةِ الرَّحِيمِ مَالِكِ الظَّاهِرِ

ساتھ رزق دینے کے (ازروئے) رازق و رحمن ہونے کے۔ اور ساتھ رحم و مغفرت کے (ازروئے) رحیم ہونے کے۔ جو مالک الظاہر

وَالْبَاطِنِ فِي الدُّنْيَا وَالدِّينِ يَوْمَ الدِّينِ بِأَحْسَنِ الْحُبِّ أَيْكِي

کا اور باطن کا دنیا و آخرت میں، قیامت کے دن میں ساتھ خوبترین محبت کے۔ تیسری ہی

وَأَيْكَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ لِأَنَّ نَحْنُ عِبَادُكَ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ فِي

تیسری ہی، تیسری ہی عبادت کرتے ہیں کیونکہ ہم تیرے ہی بندے ہیں۔ اور تجھ سے ہی توفیق طلب کرتے ہیں

الْأُمُورِ كُلِّهَا اللَّهُمَّ كَمَا صُنْتَ وَجُوهَنَا أَنْ تَسْجُدَ لغيرِكَ

تمام امور میں۔ اے اللہ جیسے تو نے بچایا ہے ہمارے چہروں کو فیروں کے آگے سجدہ ریز ہونے سے

فَصْنِ أَيْدِيَنَا أَنْ نَمُدَّ لِلسُّوَالِ إِلَى غَيْرِكَ وَأَنْتَ الْكَافِي وَ

پس (ایسے ہی) بچا ہمارے ہاتھوں کو کہ انھیں پھیلائیں سوال کے لیے تیرے علاوہ کسی کے سامنے۔ اور تو ہی کفایت کرنے والا ہے اور

أَنْتَ أَنْتَ الْهَادِي إِيَّاكُمْ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ بِأَلْسِنَتِكُمْ

تو ہی ہدایت دینے والا ہے۔ ہمیں چلا صراط مستقیم پر ساتھ استقامت کے

إِلَى صِرَاطِ سَبِيلِكَ صِرَاطِ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَهُوَ صِرَاطُ الْمُحْسِنِينَ

واسطے اپنی راہ طے کرنے کے۔ راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام فرمایا اور وہ راستہ ہے محبتوں

وَالْمُحِبِّينَ يَبْشِرُهُمُ بِبَشِيرَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالْمُطِيعِينَ لِرَسُولِكَ

اور محبوبوں کا۔ انھیں بشارت دیتا ہے اللہ تعالیٰ محبت خداوند تعالیٰ کے حصول کی اور اطاعت رسول علیہ السلام کی

وَلَا الضَّالِّينَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ كُرْبِكَ وَسَخَطِكَ وَ

اور نہ گمراہوں کے راستہ کی۔ اے اللہ بے شک ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں تیری رنجیدگی۔ ناراضگی اور

غَضَبِكَ أَمِينَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

غضب سے۔ آمین اے اللہ قبول فرما ہم سے بے شک تو ہی سمجھنے والے اور

وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

اور ہم پر نظر رحمت فرما۔ بے شک تو ہی نظر رحمت فرمانے والا مہربانی کرنے والا ہے۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں



بِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا أَدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي

بطفيل ان اسماء کے کہ دعا کی ان کے ساتھ تجھ سے آدم علیہ السلام نے اور بوسیدہ ان اسماء کے

دَعَاكَ بِهَا نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا هُودٌ

کہ دعا کی تجھ سے لوح علیہ السلام نے ان کے ساتھ اور بطفیل ان اسماء کے کہ جن کے ساتھ ہود

عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

علیہ السلام نے تجھ سے دعا کی۔ اور بطفیل ان اسماء کے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ تجھ سے دعا کی

وَ بِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا صَالِحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ بِالْأَسْمَاءِ

اور توسل ان اسماء کے کہ جن کے ساتھ تجھ سے دعا کی صالح علیہ السلام نے۔ اور بطفیل ان اسماء کے

الَّتِي دَعَاكَ بِهَا يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ بِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ

کہ ان کے ساتھ تجھ سے دعا کی یعقوب علیہ السلام نے۔ اور بطفیل ان اسماء کے کہ دعا کی تجھ سے ان کے وسیلے

بِهَا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ بِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا يُوسُفُ

حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ اور بطفیل ان اسماء کے کہ دعا کی تجھ سے ان کے وسیلے سے یوسف

عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ بِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ

علیہ السلام نے۔ اور بطفیل ان اسماء کے کہ دعا کی ان کے وسیلے سے موسیٰ علیہ السلام نے

وَ بِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا هَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ بِالْأَسْمَاءِ

اور بطفیل ان اسماء کے کہ دعا کی تجھ سے ان کے وسیلے سے حضرت ہارون علیہ السلام نے اور بطفیل ان اسماء کے

الَّتِي دَعَاكَ بِهَا شُعَيْبٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ بِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا

کہ جن کے وسیلے سے تجھ سے شعیب علیہ السلام نے دعا کی اور بطفیل ان اسماء کے کہ جن کے وسیلے سے دعا کی تجھ سے

أَيُّوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ بِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا إِسْمَاعِيلُ عَلَيْهِ

ایوب علیہ السلام نے۔ اور بطفیل ان اسماء کے کہ دعا کی ان کے توسل سے حضرت اسماعیل علیہ

السَّلَامُ وَ بِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ بِالْأَسْمَاءِ

السلام نے۔ اور بطفیل ان اسماء کے کہ دعا کی ان کے وسیلے سے داؤد علیہ السلام نے۔ اور بطفیل ان اسماء کے



الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَلِيمَانٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ

کے توکل کیا ان کے ساتھ دُعا میں سلیمان علیہ السلام نے اور بطفیل ان اسماء کے کہ جن کے توکل سے دُعا کی تجھ سے

بِهَا زَكْرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا يَحْيَى عَلَيْهِ

ذکر یا علیہ السلام نے۔ اور بطفیل ان اسماء کے کہ جن کے توکل سے دُعا مانگی یحییٰ علیہ

السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا أَرْمِيَاءُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ

السلام نے۔ اور بطفیل ان اسماء کے کہ جن کے توکل سے دُعا مانگی تجھ سے ارمیاء علیہ السلام نے اور بطفیل ان اسماء کے

الَّتِي دَعَاكَ بِهَا شُعْبَاءُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا

کہ جن کے وسیلہ سے تجھ سے دُعا مانگی شعبان علیہ السلام نے۔ اور بطفیل ان اسماء کے کہ جن کے وسیلہ سے تجھ سے دُعا

الْيَسَعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا ذُو الْكِفْلِ عَلَيْهِ

کی یسع علیہ السلام نے۔ اور بطفیل ان اسماء کے کہ دُعا کی تجھ سے ان کے توکل سے ذوالکفل علیہ

السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا يَوْشَعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ

السلام نے اور بطفیل ان اسماء کے کہ دُعا کی ان کے توکل سے یوشع علیہ السلام نے اور بطفیل ان اسماء کے

الَّتِي دَعَاكَ بِهَا الْيَاسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ

کہ جن کے وسیلہ سے دُعا مانگی تجھ سے الیاس علیہ السلام نے۔ اور بطفیل ان اسماء کے کہ جن کے توکل سے دُعا کی

بِهَا الْخَضِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا عِيسَى

تجھ سے خضر علیہ السلام نے اور بطفیل ان اسماء کے کہ جن کے توکل سے تجھ سے دُعا کی عیسیٰ

عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا خَيْرُ الْوَرَى شَفِيعُ

علیہ السلام نے۔ اور بطفیل ان اسماء کے کہ جن کے توکل سے تجھ سے دُعا کی خیر الوریٰ شفیع

الْمُذَنْبِينَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ

الْمُذَنْبِينَ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے



كُتِبَ اللهُ اسْمُهُ وَصِفَتُهُ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالرَّبُّورِ

نام اقدس اور صفات کو اللہ تعالیٰ نے لکھوایا تورات و انجیل اور ربور

وَالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَفِي مِائَةِ صَحِيفَةٍ وَرَفَعَهُ اللهُ اسْمَهُ فَوْقَ

و قرآن کریم میں اور سو صحیفوں میں۔ اور تحریر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے اسم گرامی کو

الْعَرْشِ قَبْلَ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَصَلَّ

عرش اعظم پر آسمانوں، زمینوں وغیرہ کی تخلیق سے قبل۔ اور درود بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمَّا اهْتَزَّ الْعَرْشُ وَاضْطَرَبَ كُتِبَ

سیدنا محمد پر کہ جب رزا عرش اعظم اور مضطرب ہوا تو اس محبوب کا نام نامی

عَلَيْهِ اسْمُهُ فَسَكَنَ وَطَرَبَ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اس پر لکھا گیا پس اس کو سکون و قرار اور خوشی اور مسرت حاصل ہو گئی اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر کہ

أَوَّلُ مَا كُتِبَ الْقَلَمُ اسْمُهُ الْكَرِيمُ وَأَعْلَنَ عَلَيْهِ بِالصَّلَاةِ

سب سے پہلے قلم قدرت نے انھیں کے اسم کریم کو لکھا اور اعلان فرمایا ان پر صلوات

وَالسَّلَامِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كُتِبَ اللهُ اسْمُهُ

و سلام بھیجنے کا اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ لکھا اللہ تعالیٰ نے ان کے لالہ

الْمَنْعُوتِ عَلَى فُصُوصِ اللُّوْلُؤِ وَالْيَاقُوتِ وَصَلَّ عَلَى

نعت و توصیف اسم گرامی کو موتیوں اور یاقوت کے نگینوں پر۔ اور رحمت کاملہ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كُتِبَ اللهُ اسْمُهُ فِي الْأَلْوَاحِ وَالْكِتَابِ

سیدنا محمد پر کہ جن کے نام مبارک کو اللہ تعالیٰ نے الواح اور کتاب میں تحریر فرمایا

وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كُتِبَ اللهُ اسْمُهُ عَلَى أَطْرَافِ

اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کے نام مقدس کو اللہ تعالیٰ نے جہات عظمت کے

الْحُجُبِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كُتِبَ اللهُ اسْمُهُ

اطراف پر تحریر فرمایا۔ اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کے نام مبارک کو اللہ تعالیٰ نے



عَلَى نُحُورِ الْخُورِ الْعَيْنِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَتَبَ

حور عین کے سینوں پر نقش فرمایا۔ اور رحمت کا ملہ نازل فرماستیدنا محمد پر کہ جن کا نام نامی

اللَّهُ اسْمُهُ بَيْنَ أَعْيُنِ الْمَلَائِكَةِ الْخَافِيْنَ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا

اللہ تعالیٰ نے نقش فرمایا ان ملائکہ کی آنکھوں میں جو عرش کے گرد گھبراڈالے ہوئے ہیں اور رحمت نازل فرما

مُحَمَّدٍ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ اسْمَهُ عَلَى أَوْسَاقِ الْجَنَانِ وَصَلَّ

سیدنا محمد پر جن کا اسم گرامی اللہ تعالیٰ نے جنتوں کے پتوں پر لکھا۔ اور درود بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ اسْمَهُ عَلَى وَرَاقِ الْوُرْدِ

سیدنا محمد پر کہ جن کا نام مبارک اللہ تعالیٰ نے گلاب اور ریحان کی پتیوں

وَالرَّيْحَانِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ اسْمَهُ

پر لکھا اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کا نام مبارک اللہ تعالیٰ نے لکھا

عَلَى لِسَانِ الْقَلَمِ الْمَنْصُوبِ وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

نصب کی ہوئی قلم قدرت کی زبان پر۔ اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر کہ

كَتَبَ اللَّهُ اسْمَهُ عَلَى قَدَّةِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ الْمَكْتُوبِ وَصَلَّ عَلَى

تحریر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لوح محفوظ مکتوب کے بلند تر حصہ پر اور صلوات بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ اسْمَهُ عَلَى وَرَاقِ شَجَرَةِ طُوبَى

سیدنا محمد پر کہ جن کا اسم گرامی اللہ تعالیٰ نے تحریر فرمایا شجرہ طوبی کے پتوں پر

وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ اسْمَهُ عَلَى وَرَاقِ

اور صلوات نازل فرماستیدنا محمد پر کہ جن کا نام مقدس اللہ تعالیٰ نے لکھا

سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ اسْمَهُ

سدرة المنتہی کے پتوں پر۔ اور صلوات بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کا اسم گرامی اللہ تعالیٰ نے تحریر فرمایا

عَلَى مَفَارِقِ تَيْجَانَ النَّوْرِ وَالْبَهَا وَصَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اسْمُهُ

تاجمانے نور و حسن کی چوٹیوں پر۔ اور رحمت نازل فرماستیدنا محمد پر کہ جن کا اسم گرامی



مَكْتُوبٌ عَلَى الْغُرَفَاتِ وَالْقُصُورِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

مکتوب ہے (جنت کے) بالا خانوں اور محلات پر اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کا

اسْمُهُ مَكْتُوبٌ عَلَى قُبَابِ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اسم شریف بیت المعمور کے قبہ جات پر مرقوم ہے۔ اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِي اسْمُهُ مَكْتُوبٌ عَلَى فَذْنِ الْأَغْصَانِ وَالْأَشْجَارِ وَصَلِّ

کہ جن کا اسم گرامی مرقوم ہے سیدھی شاخوں اور درختوں پر۔ اور رحمت نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اسْمُهُ مَكْتُوبٌ عَلَى طَرِيزِ الْأَجَارِ وَالْأَنْهَارِ

سیدنا محمد پر کہ جن کا اسم مبارک مرقوم ہے (جنتی) پتھروں اور نہروں کے نقش و نگاروں میں

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اسْمُهُ مَكْتُوبٌ فِي دِيْوَانِ

اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کا اسم مقدس لکھا ہوا ہے ابدی مخلوق کے دیوان

الْمُؤَبَّدِينَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اسْمُهُ مَكْتُوبٌ عَلَى

میں۔ اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا نام مقدس لکھا ہوا ہے

أَطْرَافِ خِيَامِ أَهْلِ عِلْيَيْنَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اسْمُهُ

اہل علیین کے خیموں کے اطراف پر۔ اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا اسم گرامی مرقوم ہے

مَكْتُوبٌ عَلَى خَاتَمِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی پر۔ اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا نام

الَّذِي اسْمُهُ مَكْتُوبٌ عَلَى الْكَنَافِ الْخِيَامِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مقدس مرقوم ہے (جنتی) خیموں کے اطراف پر۔ اور رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِي اسْمُهُ مَكْتُوبٌ عَلَى خَاتَمِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

جن کا اسم گرامی مرقوم ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی انگوٹھی پر۔ اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي اسْمُهُ مَكْتُوبٌ عَلَى خَاتَمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِسْمَاعِيلَ

جن کا اسم شریف مرقوم ہے حضرت داؤد اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کی انگوٹھوں پر



وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اسْمُهُ مَكْتُوبٌ عَلَى جَانِبِ السَّفِينَةِ

اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا اسم شریف مرقوم ہے کشتی (فوج) کے کنارے پر

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اسْمُهُ مَكْتُوبٌ فِي لَوْحٍ مِّنْ ذَهَبٍ

اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا اسم شریف مرقوم ہے سونے کی تختی پر

تَحْتَ الْجُدَارِ لِعَلَّامِينَ يَتِيمِينَ فِي الْمَدِينَةِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

دو یتیم بچوں کی دیوار کے نیچے جو شہر کے اندر تھی۔ اور رحمت نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي اسْمُهُ مَكْتُوبٌ بِالْتُّورِ الْأَحْمَرِ عَلَى شَاطِئِ الْقُرَاتِ

محمد پر جن کا نام نامی مکتوب ہے سرخ تور کے ساتھ بہت میٹھے اور کثیر پانی والے دریا کے

الْكُوْتِرِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اسْمُهُ مَكْتُوبٌ بِالْتُّورِ

کنارے پر۔ اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا نام مقدس لکھا ہوا ہے تور کے ساتھ

فِي التُّورَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تورات و انجیل اور زبور میں۔ اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِي اسْمُهُ مَكْتُوبٌ عَلَى جَبِينِ مَلِكِ الْمَوْتِ وَصَلِّ

جن کا نام مقدس لکھا ہوا ہے ملک الموت کی جبین پر۔ اور رحمت نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اسْمُهُ مَكْتُوبٌ بِالْقَلَمِ الْمُنِيرِ عَلَى

فرما سیدنا محمد پر جن کا نام نامی مکتوب ہے نورانی قلم کے ساتھ

مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اسْمُهُ مَكْتُوبٌ

منکر اور نکیر پر اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا اسم مبارک لکھا ہوا ہے

عَلَى جُيُوبِ حُلِيِّ السُّنْدُسِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

باریک و نفیس ختی لباس کے گریازوں پر۔ اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا

اسْمُهُ مَكْتُوبٌ عَلَى أَبْوَابِ حِطَّائِ الْقُدْسِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

نام مبارک لکھا ہوا ہے حیتوں کے دروازوں پر۔ اور رحمت نازل فرما سیدنا



مُحَمَّدٍ الَّذِي اسْمُهُ مَكْتُوبٌ عَلَى كُلِّ عَلَمٍ فِي الْجَنَّةِ وَصَلِّ عَلَى

محمد پر جن کا اسم مبارک لکھا ہوا ہے جنت کے ہر پرچم پر۔ اور رحمت نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ الْإِسْرَاءُ بِهِ فِي رَجَبٍ قَبْلَ الْهَجْرَةِ بِسَنَةِ

سیدنا محمد پر کہ جن کا اسراء (معراج) رجب میں واقع ہوا ہجرت سے ایک سال پہلے

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اصْطَفَاهُ اللَّهُ مِنْ وَلَدِ

اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے جن لیا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی

إِسْبُعِيلَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اسْمُهُ مَكْتُوبٌ

اولاد سے۔ اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا اسم مبارک لکھا ہوا ہے

عَلَى جِبْهَةِ جِبْرَائِيلَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي عَلَّمَهُ

جبرئیل علیہ السلام کی پیشانی پر۔ اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جنہیں اللہ تعالیٰ

اللَّهُ الْأَسْمَاءَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اسْمُهُ مَكْتُوبٌ

تعلیم دی تمام اسماء کی (مانند آدم علیہ السلام کے) اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا ام گرامی مرقوم ہے

عَلَى بَابِ كُلِّ سَمَاءٍ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اسْمُهُ

ہر آسمان کے ہر دروازے پر اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جن کا اسم شریف

مَكْتُوبٌ عَلَى بَابِ جَنَّةِ الْمَأْوَى وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مکتوب ہے جنت الماویٰ کے دروازے پر اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر

الَّذِي عَنِ الْمَعْنَى بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فِي مُحْكَمِ التَّنْزِيلِ

جو مصداق ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول کا جو وارد ہے محکم تنزیل میں۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا

جو لوگ اتباع کرتے ہیں رسول، نبی امی کی جن کے اوصاف و کمالات اور علیہ وسلم کو لکھا ہوا پاتے ہیں

عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ) وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اپنے ہاں تورات و انجیل میں " اور رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر کہ



الَّذِي مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَزْكَى السَّلَامِ مِنْ قَبْلِ أَنْ

جن پر افضل صلوات اور پاکیزہ ترین تیلیات مکتوب ہیں جب میں علیہ السلام کی

يُخْلَقُ جِبْرَائِيلُ بِالْفَيْ عَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

تخلیق سے بھی دو ہزار سال قبل۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْأَسْمَاءِ الْعِظَامِ وَالصِّفَاتِ الْكِرَامِ

آپ کی آل پر جو محبوب موسوم ہیں عظیم اسماء کے ساتھ اور موصوف ہیں صفات جلیلہ کے ساتھ

بِأَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

یعنی ساتھ اسماء باری تعالیٰ اور اس کے صفات کے (بطور ظل و کس اور ظہرت کے) اور صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْجَامِعِ لِمَرَاتِبِ الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ وَالْأَسْمَاءِ

اور آپ کی آل پر جو محبوب جامع ہیں مراتب ذات و صفات اور اسماء کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب

الَّذِي بَدَاتِهِ وَصِفَاتِهِ مَعْ كِنَايَةٍ وَصَرَا حَةٍ فِي اللَّهِ مَلَادٌ وَلَا

اپنی ذات اور صفات کے ذریعے بطور کنایہ ثابت ہیں خواہ بطور صراحت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ خلاق ہیں اور آپ کے

مَلَادٌ وَلَا مَلْدٌ وَهُوَ صَاحِبُ الْأَسْمَاءِ كَالْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى بِمَوْثَرَةٍ ط

ملاوہ دوسری جائے پناہ نہیں اور نہ جائے فرار۔ وہ مالک ہیں اسماء کے مانند اسماء حسنی اللہیہ کے تاثیر میں

وَالصِّفَاتِ كِصْفَاتِ ذَاتِ الْعُلَى بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ وَبِرَكَّةٍ وَ

اور مالک ہیں صفات کے جو مانند صفات جل و علی کے ہیں باعتبار مغفرت اور رحمت اور برکت کے موجب ہونے کے

أَسْأَلُكَ بِاسْمِ الَّذِي فَتَحَتْ بِهِ عَالَمَ الْأُمُورِ وَالْخَلْقِ يُسْرًا

اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس اسم کے وسیلہ سے جس کے ساتھ تو نے آغاز کیا عالم امور و خلق کا تسہیر و سہولت کا

لِتَجَلِيَ الْحَقُّ الْمُظْهِرِ بِسَبَبِ التَّنْزِيلِ وَالْمُتَعَالِ أَمْرًا وَوَجُودًا

واسطے تحمل تجلی حق کے جس کو ظاہر کیا گیا ہے بسبب تنزیل کتاب کے اور (وہ فی الحقیقت) بالاتر ہے از روئے امر و وجود کے



وَبَطُونًا وَمَعْقُولًا ذَلِكَ حَسًّا لِمَنْ أَيْدَتْ بَلْ مَعْلُومًا لِمَنْ

اور بطون وحقان اور معقولیت کے (وہ بجلی) محسوس ہے جس کو تو نے قوت بخشی ہے بلکہ قطعی طور پر معلوم ہے اسے جس کو تو نے

أَشْهَدَتْ مَجْهُولًا لِمَنْ شَدَّتْ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ لَا تَقْدَحُ فِي وَحْدَةٍ

مشاہدہ کرایا۔ مجہول ہے اس کے لیے جس کے حق میں تو نے چاہا مجہول رکھا۔ جو اس سے متشابه ہے نہیں نقصان پیدا کرتی

مَا أَحْكَمْتَ مِنَ الْحِكْمَةِ يَا كَافِلُ يَا كَافِيُ يَا وَفِيُّ أَعْطِنِي

اس حکمت کی وحدت میں جس کے مستحکم کرنے کا تو نے ارادہ فرمایا۔ اے کانل۔ اے کفیل۔ اے کافی۔ اے وفی مجھے عطا فرما

حِفْظًا فِي الدَّارَيْنِ وَعِزًّا فِي الْكُونَيْنِ بِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ

حفظ و امان دونوں جہان میں اور عز و جاہ دنیا و آخرت میں بطریق اسم اعظم کے۔ اے اللہ رحمت کاملہ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي انْتَضَمَ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ مرتبط فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ

اللَّهُ بِاسْمِهِ وَأَسْمِ حَبِيبِهِ بِقَاءَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ لِكُلِّ خَلْقٍ

نے اپنے اسم اور اپنے حبیب کے اسم کے ساتھ تمام مخلوق کے اسماء و صفات کی

اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَدَّ أَحْرُوفَهُ

بقیاد و دوام کو۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر کہ جن کے اسم گرامی کے حروف کی روشنائی

مِنْ نُورِ ذَاتِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اللہ تعالیٰ کے نور ذات سے ہے۔ اے اللہ صلوات بھیج سیدنا محمد پر کہ جن کی

مَدَّ أَحْرُوفَهُ مِنْ كُنُوزِ مَكْنُونِ سِرِّ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

شکل و تصویر کی روشنائی اللہ تعالیٰ کے مخفی راز کے خزانوں سے ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ هَمْزَةً أَلْفٍ الْبَدَائِيَّتِ وَالْغَايَاتِ أَلْفَةً

سیدنا محمد پر جو ہمزه ہیں بدایات اور غایات کی الف کا از روئے الفت کے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِأَبْرِهَانَ الدَّلَائِلِ

اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر جو باد ہیں سنایات کی دلائل کے برہان کی



النَّهَائِيَّاتِ بِرَكَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَاءً تَكْوِينٍ

از روئے برکت کے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جو مخلوقات کی ایجاد و تکوین کی تاء ہیں

الْمُكُونَاتِ تَوْبَةً اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَاءً ثَوَابِ

از روئے نگاہ لطف کے۔ اے اللہ صلوات بھیج سیدنا محمد پر جو ثناء ہیں اعمال صالحہ کے

الْأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ جِيمٍ لَجْنًا

ثواب کی۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جو جیم ہیں واسطے دونوں

الْجَنَّتَيْنِ جَمَالًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَاءً حِكْمَةً

جنتوں کے جناب یعنی چننے کے لائق میوہ جات کی از روئے جمال کے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جو حکمت کی حاء ہیں

بِحِمَايَةِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاءً

بسبب دنیا و دین کی حمایت کے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جو کہ خاء ہیں

خَيْرٍ بِخِتَامِ الْخَيْرَاتِ وَالْخَيْرَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

خیر کی بسبب خاتم ہونے کے واسطے خیرات و اختیارات کے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر

ذَالِ دَلِيلِ النَّجَاتِ وَالْمُنْجِيَّاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جو ذال ہیں نجات اور نجات دلانے والے امور کی دلیل کی۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر

ذَالِ ذُرْوِ الْمَعَالِي وَالْمُتَعَالَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَاءً

جو ذال ہیں معالی اور بلند مرتبت مخلوق کے ذرورہ (بلندی) کی۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جو راء

رَحْمَةٍ بِرَوَاجِ الشَّرَفِ الْعَالِي وَالْمَعَالَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

رحمت ہیں بسبب رواج کرنے شرف عالی کے اور بلند مراتب کے (اسباب) اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ رَاءً زَكَاةٍ بِزَهْرَةِ السَّنَاءِ وَالْأَسْنَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

محمد پر جو زاء ہیں زکوٰۃ، یعنی نشوونما کی بسبب چمک کی زینت ہونے کے اور عقود و کشتیوں کے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ سَيِّدِينَ سَعَادَةٍ بِسَعَةِ الْمَحَبَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمد پر جو سین سعادت ہیں بسبب وسعت محبت کے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر



شَيْنِ شِفَاءٍ بِشَرَفِ الشَّرَافَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جو شین شفاء ہیں بسبب شرف شرافت کے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جو

صَادِ صِدْقٍ بِصُرْحِ الصَّرَاحِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ضَادٍ

صا و صدق ہیں صراحت کے بلند محل میں۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جو ضاد ہیں

ضَوْءٍ وَضِيَاءٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طَاءِ طَرَاوِطِ بَطْرَانِ

ضوء اور ضیاء کے۔ اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو طراوت و تازگی کی طاء ہیں بسبب اعلیٰ

التُّورِ الْأَسْنَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ظَاءِ ظَفْرِ بِظُهُورِ

نورانی نگارشی کے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جو ظاہر ظفر ہیں بسبب ظہور

الْأَيَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَيْنِ عِلْمِ لَدُنِّي نَافِعِ

آیات کے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جو عین ہیں علم لدنی نافع کی بمع دیگر

مَعَ الْكَمَالَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ غَيْنِ غِنَى

کمالات کے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جو غناء کی عین ہیں

بِالْمَغْفِرَةِ وَالْغُفْرَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فَاءِ

مع مغفرت اور غفران کے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جو فاء ہیں

فَوْزٍ عَظِيمٍ بِفَوْزِ الرَّحْمَنِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

فوز عظیم کی بمع فوز عظیم کی بمع فوز و کمال رحمن کے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر

قَافِ قُرْبَةٍ وَقَرَابَةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَافِ كَافِي

جو کاف ہیں قربت و قرابت کی۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جو کاف ہیں کافی کا

يَا كَرَامَ الْكَرِيمِ كَرَامَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لَامِ لَوَائِعِ

مع کریم کے اکرام کرامت نشان کے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جو لام ہیں انوار لوائع

الْأَنْوَارِ بِلُطْفِ اللَّطِيفِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

انوار (پلکنے والے) کا لطیف کے لطافت کے لطف سے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر



مِیْمِ مَوَادِّ الْأَسْرَارِ الْمَقْرَفِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جو میم ہیں اسرار کے نمایاں اور غیر مستور مواد کے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر

تُونِ نُورٍ بِنِعْمِ الْأَبْرَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

جو تون ہیں نور کے بمع نییم ابرار کے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر جو وصلت کی واؤ

وَصَلِّ بِوَصَالِ وَصِلِ الْأَحْبَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہیں بمع وصل احباب کے وصال کے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر

هَاءَ هِدَايَةِ بَهْدِ آيَاتِ أُولِي الْأَلْبَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

جو ہاء ہیں ہدایت مطلقہ کے بمع اہل عقول خالصہ کی ہدایات کے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ لَا مَرَأِفَ الْأَسْبَابِ الْمَوْصَلَةِ إِلَى مَعْرِفَةِ رَبِّ الْأَرْبَابِ

محمد پر جو لام ہیں اسباب کی الفت کا جو اسباب کہ پہنچانے والے ہیں رب الارباب کی معرفت تک۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ يَا بَدِ الْأَنْعَامِ السَّامِيَةِ مِنْ ذِي

اے اللہ صلوات نازل فرما سیدنا محمد پر جو یاد ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام کے انعام والے

الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَيَقِينِ صَادِقٍ وَمُصَدِّقٍ لِحَالِ الْيَقِينِ وَالْحَالِ وَصَدِّقِ

بند مرتبت بد (ہاتھ) کی۔ اور یقین صادق و مصدوق کی بمع حال کے یقین اور کمال

الْكَمَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صدق کے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ

كُتِبَتْ إِسْمُهُ عَلَى الْعَرْشِ مَعَ إِسْمِهِ وَرَفَعَتْ ذِكْرُهُ مَعَ ذِكْرِهِ

جس محبوب کا نام تحریر فرمایا عرش پر اپنے نام کے ساتھ اور بلند کیا تو نے آپ کے ذکر کو ساتھ اپنے ذکر کے

اللَّهُمَّ أَجِبْ سُؤَالَي بِحُرْمَتِهِ وَبِعَظْمَةِ ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ

اے اللہ میرے سوال کو پورا فرما بظہیر ان کی حرمت اور عظمت ذات کے اور ان کے صفات و اسماء کے

وَأَجْلَائِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور ان کے جلووں کے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر



السَّبِيحِ الْأَسْمَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ طَهَّرَ اللَّهُ اسْمَهُ وَشَرَّفَ اسْمَهُ وَكَرَّمَ اسْمَهُ وَأَسْأَلُكَ

کہ جس محبوب کے اسم مقدس کو اللہ تعالیٰ نے طاہر بنایا اور مشرف و مکرم بنایا اور میں سوال کرتا ہوں

بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَىٰ وَصِفَاتِكَ الْعُلْيَا وَبِنِعْمِكَ الَّتِي لَا تُحْصَىٰ

تیرے اسماء حسنیٰ اور بلند شان صفات کے طفیل۔ اور تیری ان گنت نعمتوں کے صدقے میں

وَبِأَكْرَمِ اسْمَائِكَ عَلَيْكَ وَأَحَبِّهَا إِلَيْكَ وَبِأَسْمَائِكَ الْمَكْنُونَةِ

تیرے انتہائی کرامت والے اور محبوب ترین نام کے طفیل اور ان اسماء کے طفیل جو مخفی و مستور

الْمَخْرُؤُنَةِ الْجَلِيلَةِ وَبِأَسْمِكَ الْأَجَلِّ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ وَبِكُلِّ اسْمٍ

بھی ہیں اور جلیل بھی اور بظیفیل تیرے اس اسم کے جو اجل عظیم و اعظم ہے اور تیرے ہر اس اسم کے طفیل

هُوَ لَكَ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَالْفُرْقَانِ وَبِكُلِّ اسْمٍ هُوَ

جو تورات۔ انجیل۔ زبور اور فرقان میں ہے اور تیرے ہر اس اسم کے طفیل جو تو نے

لَكَ عَلِمْتَهُ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ أَوْ لَمْ تُعَلِّمَهُ أَحَدًا وَبِكُلِّ اسْمٍ

اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی سکھلایا۔ اور جو کسی کو بھی نہیں بتلایا۔ اور بظیفیل ہر اس نام کے کہ

دَعَاكَ بِهِ حَمَلَةٌ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتِكَ وَأَصْفِيَاءِكَ وَأَنْبِيَاءِكَ

دعا کی تجھ سے ساتھ اس کے تیرے حاملین عرش اور تمام ملائکہ اور مخلوق میں سے

مِنْ خَلْقِكَ وَبِحَقِّ الْأَسْمَاءِ الْأَعْظَمِ الَّذِي هُوَ مِنْ كُلِّ الْأَعْظَمِ

اصفیاء و انبیاء نے۔ اور بظیفیل اسم اعظم کے حق کے جو ہر عظمت والے نام سے

أَعْظَمُ وَبِاسْمِ اللَّهِ وَاسْمِ ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَبِاسْمِ جَبِيئِهِ مُحَمَّدٍ

عظیم تر ہے۔ اور بظیفیل اللہ تعالیٰ کے اسم اور اس کے اسم ذات و اسم صفات کے۔ اور بظیفیل اس کے حبیب محمد

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ يَا كَثِيرَ التَّوَالِ وَيَا دَائِمَ الْوَصَالِ

صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم کے۔ اے اللہ بہت عطا کرنے والے، اے ہمیشہ کے لیے شرف و صل بخشنے والے



وَيَا حَسَنَ الْفَعَالِ وَيَا رَازِقَ الْعِبَادِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَيَا بَدِيْعَ

لے خوبترین افعال والے۔ لے بندوں کو ہر حال میں رزق دینے والے۔ لے ایجاد کرنے والے

بِلا مِثَالٍ وَيَا بَاقِي بِلَا زَوَالٍ وَيَا رَاحِمَ بِلَا وَبَالٍ نَجِّنَا مِنَ الشَّرِّ

بغیر مثال اور نمونہ سابقہ کے۔ لے ہمیشہ باقی رہنے والے۔ لے رحم فرمانے والے بغیر بوجہ اور مشقت ڈالے ہیں کفر و شرک

وَالْكَفْرِ وَالضَّلَالِ بِحَقِّ شَرَفِ مُحَمَّدٍ وَوَصْفِ مُحَمَّدٍ وَشَغْفِ

اور اگر ہی سے نجات دے بظیفیل حق محمد کریم کے شرف کے اور ان کے وصف اور ان کی

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

راخ محبت کے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَبِي الْقَاسِمِ وَالْأَرَامِلِ وَالْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ

اور آپ کی آل پر جو آقا کہ حضرت قاسم کے باپ ہیں اور بیوگان اور تمام اہل ایمان کے۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِلَّا بَطْحَاجِي

صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ بطحاء ممتہ والے

الْأَبْلَجِ الْأَبْيَضِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اور روشن چہرے اور سفید رنگت والے ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اتَّقَى النَّاسِ وَأَجُودَ النَّاسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر جو آقا کہ سب سے زیادہ پرہیزگار اور سب سے زیادہ سخی ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِلَّا جَلَّ الْأَجُودِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا بہت بڑی جلالت والے اور بہت زیادہ صاحبِ جود ہیں

الْأَجِيدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور اجر دینے والے ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ وَعَلَى وَصْفِهِ فِي الْأَوْصَافِ وَنَعْتِهِ فِي النَّعُوتِ وَصِفَتِهِ

آل پر اور آپ کے ہر وصف پر اوصاف میں اور ہر نعت پر نعتوں میں اور ہر صفت پر



فِي الصِّفَاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

صفات میں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الْاَحْسَنِ وَالْاَحْسَنِ النَّاسِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

پر جو محبوب بذات خود اعلیٰ حسن والے ہیں اور سب لوگوں سے حسین تر ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْاَحْسَمِ الْاَخْوَانِ الْاٰخِرِ اَللّٰهُمَّ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا بہت بڑی حسنت والے ہیں۔ اخوان آخر الزمان ہیں۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْاَدْعَجِ

رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کے بہت سیاہ اور موٹی آنکھوں والے

الْاَدْوِ وَالْاَنْرَجِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ

سیدھی قامت والے۔ باریک ابروؤں والے۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْاَمْجَجِ وَالْاَمْجَجِ النَّاسِ عَقْلًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ

پر جو بذات خود وزنی تخفیفیت ہیں اور سب سے زیادہ وزنی بھی ہیں از روئے عقلمندی کے۔ لے اللہ رحمت و

سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْاَرْحَمِ وَالْاَرْحَمِ

سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو بہت رحم کرنے والے ہیں اور سب سے زیادہ

النَّاسِ بِالْعِبَادِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ

رحمت والے ہیں بندوں پر۔ لے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ هُوَ اَذُنٌ خَيْرٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آل پر جو آقا سرسراکان ہیں بھلائی کی باتوں کے لیے۔ لے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْاَذْكٰى الْاَنْرُ هَرِ الْاَسَدِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور آپ کی آل پر جو آقا بہت پاکیزہ، روشن تراور ثابت قدمی والے ہیں۔ لے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَسْلَمِ النَّاسِ وَاَشْجَعِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا سب سے زیادہ صلح جو ہیں اور سب سے



النَّاسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

شجاع۔ اے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما سیتنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الْأَشَدِّ حَيَاءً مَنِ الْعَدْرَاءُ فِي عَدْبَرَاهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جو آقا کہ زیادہ شرمیلے ہیں کنواری لڑکیوں سے ان کے کنوارے پن میں۔ اے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِلَّا سَلِمَ الْأَشْنَبِ

سیتنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا بہت دور ہیں بیوب سے۔ روشن پھیکیلے دانتوں والے

الْأَطْيَبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور بہت پاکیزہ۔ اے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما سیتنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ أَصْدَقِ النَّاسِ لِهَجَّةِ اللَّهِ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

جو آقا سب سے زیادہ سچے ہیں ازروئے گفتگو کے۔ اے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما سیتنا محمد

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَطْيَبِ النَّاسِ رِيحًا اللَّهُمَّ صَلِّ

پر اور آپ کی آل پر جو آقا سب سے پاکیزہ ہیں ازروئے نکت کے۔ اے اللہ رحمت

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِلَّا عَزَّ الْأَعْظَمِ

و سلامتی نازل فرما سیتنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ عزیز تر۔ عظیم تر

الْأَعْلَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور انتہائی بلند شان ہیں۔ اے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما سیتنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ إِلَّا عَزَّ الْأَكْرَمِ وَالْأَكْرَمِ النَّاسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

جو آقا کہ انتہائی عزیز و کریم ہیں اور سب لوگوں سے زیادہ عزت والے۔ اے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما سیتنا

مُحَمَّدٍ أَفْصَحِ الْعَرَبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

محمد پر جو محبوب کہ سب اہل عرب کی فصیح ترین ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلامتی نازل فرما سیتنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَكْثَرَ النَّاسِ تَبَعًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

کی آل پر جو آقا کہ سب سے زیادہ متبعین والے ہیں۔ اے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما سیتنا



مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَكْرَمِ وُلْدِ أَدَمَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا تمام اولاد آدم سے بزرگ تر۔ لے اللہ رحمت و سلامتی نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِحُرْمَةِ اللَّهِ الْمَرَّةِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر بطریق حرمت اللہ التکرار

التَّكْرَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

التکرار کے۔ لے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الْأُمَّةِ الْأَمْجِدِ الْأَرْقِيِّ الْأَرْقِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

پر جو محبوب (تھنا پوری) اُمت ہیں اور بہت بزرگ مخلوق سے نہیں پڑھے اور ام القرئی (مکہ) والے ہیں۔ لے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِلَّا لِمَعِي الْإِمَامِ الْأَمِينِ اللَّهُمَّ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ روشن دماغ اور قابل اعتماد امام ہیں۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْإِمْنَةِ

رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ سراپا امان ہیں

وَأَمْنَةِ أَصْحَابِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اور اپنے اصحاب کیلئے بھی امان ہیں۔ لے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَنْفُسِ الْعَرَبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

آل پر جو تمام اہل عرب سے نفیس تر ہیں۔ لے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِلَّا نُورِ الْأَوَّاهِ الْأَوْسَطِ اللَّهُمَّ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو بہت نورانی۔ بہت زاری کرنے والے اور بہت فضیلت والے ہیں۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوْفَىٰ

رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو سب سے زیادہ ذمہ داروں کو

النَّاسِ ذِمًّا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

نجانے والے ہیں۔ لے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر



مُحَمَّدٍ الْأُولَى الْأَوَّلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

جو قریب تر ہیں (ہر امتی کیلئے) اس کی جان سے اور سب مخلوق سے اول ہیں۔ لے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوْلِ شَافِعِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ

آل پر جو سب پہلے شفاعت کرنے والے ہیں۔ لے اللہ بے شک میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں ہر اس گناہ سے

قَوْمِي عَلَيْهِ بَدَنِي بِعَافِيَتِكَ وَنَالَتَهُ قُدْرَتِي بِفَضْلِ نِعْمَتِكَ

کہ قوت پاؤں اس پر میرے بدن نے بسبب تیری عافیت کے۔ اور پالیا اس کو میری قدرت نے تیری وافر نعمتوں کی وجہ سے

وَأَبْسَطْتُ إِلَيْهِ يَدَيَّ بِسَعَةِ رِزْقِكَ وَأَحْتَجَبْتُ عَنِ النَّاسِ

اور کشادہ ہوا اس کی طرف میرا ہاتھ تیرے رزق کی فراخی سے اور پردے میں رہا میں لوگوں سے بسبب

بِسِتْرِكَ وَأَتَكَلَّمْتُ فِيهِ عِنْدَ خَوْفِي مِنْكَ عَلَى أَمَانِكَ وَوَقَّعْتُ

تیری پردہ پوشی کے۔ اور اعتماد کیا میں نے تیرے خوف کے وقت تیری امان پر اور بھروسہ کیا میں نے

مِنْ سَطْوَتِكَ عَلَيَّ بِحِلْمِكَ وَعَوَّلْتُ فِيهِ عَلَى كَرَمِ وَجْهِكَ وَ

تیرے غلبہ و قہر سے تیری بردباری پر اور اعتماد کیا میں نے تیری ذات کے کرم اور

عَفْوِكَ وَمِنْ كُلِّ ذَنْبٍ يَدْعُو إِلَى غَضَبِكَ أَوْ يُدِنِي مِنْ سَخَطِكَ

عفو پر۔ اور (استغفار کرتا ہوں) ہر گناہ سے جو بسبب ہونیرے غضب کا، یا تیری ناراضگی کے قریب کرے۔

وَيَسِيلُ بِي إِلَى مَا نَهَيْتَنِي عَنْهُ وَيُبَاعِدُنِي عَمَّا دَعَوْتَنِي إِلَيْهِ

اور مانگ کرے مجھے تیرے ممنوع امور کے۔ اور بعید کرے مجھے تیرے مامور افعال سے۔ اور مغفرت چاہتا ہوں

وَمِنْ كُلِّ ذَنْبٍ أَسَلَمْتُ إِلَيْهِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ بِغَوَايَتِي أَوْ

ہر اس گناہ سے کہ جس کے حوالے کیا میں نے کسی کو تیری مخلوق سے بسبب اپنی گمراہی کے یا

خَدَعْتَهُ بِحِيلَتِي فَعَلِمْتُهُ مِنْهُ مَا جَهِلَ وَنَرَيْتُهُ لَهُ مَا قَدَّرَ عَلَيَّ

دھوکہ دیا میں نے اسے اپنی جیلہ گری سے پس سکھایا میں نے اس کو جس سے وہ جاہل تھا اور مزن کیا اس کیلئے جو اسے معلوم تھا

وَلَقَيْتُكَ غَدًّا بِأَوْثَرِ أَرْمِي وَأَوْثَرِ أَرْمِي مَعَهُ أَوْ نَارِي وَمِنْ كُلِّ ذَنْبٍ

در ملاقات کروں کل تیری ایسے گناہوں کے ساتھ اور درمزل کے گناہوں کے ساتھ مجھ اپنے گناہوں کے۔ اور مغفرت طلب کرتا ہوں اس گناہ سے



يُدْعُو إِلَى الْغَيِّ وَيُضِلُّ عَنِ الرُّشْدِ وَيُقِلُّ الْوَفْرَ وَيَمْحُقُ التَّالِدَ

جو بلائے طرف گمراہی کے اور ٹھکانے بھلائی سے۔ اور کم کرے منفعت اور فائدہ کو اور نیست و نابود کرے موروثی مال و ترکہ

وَيُحِيلُ الذَّاكِرَ وَيُقِلُّ الْعَدَدَ فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کو۔ اور ذکر کو اٹھا دے۔ اور افراد کو کم کر دے۔ پس درود بھیج۔ اے میرے رب اور سلام سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا مُنْكَرَاتِ الْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ

اور آپ کی آل پر۔ اے اللہ ہمیں دور رکھ برے اعمال و اخلاق سے

وَالْأَهْوَاءِ وَالْأَادُ وَأَعِ اللَّهُمَّ اهْدِنَا مِنْ عِنْدِكَ وَأَفِضْ عَلَيْنَا مِنْ

اور خواہشات نفس اور بیماریوں سے۔ اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے مخصوص ہدایت عطا فرما۔ اور ہم پر

فَضْلِكَ وَأَنْشُرْ عَلَيْنَا مِنْ شَرِّ حُمَيْتِكَ وَأَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ

اپنا فضل خاص فرما۔ اور ہم پر اپنی رحمت خاص پھیلا اور اپنی برکات نازل فرما

وَنَجِّنَا مِنْ عَذَابِكَ وَجَنِّبْنَا مِنْ سَخَطِكَ وَلَا تَنْسِنَا ذِكْرَكَ وَ

اور اپنے عذاب سے نجات دے۔ اور دُور رکھ ہمیں اپنی ناراضگی سے۔ اور نہ بھولنے دے ہمیں اپنا ذکر اور

اذْكَرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِّي رَبِّي لِأَقْرَبَ

یاد کر اپنے رب کو جب بھول جائے اور کہو قریب ہے کہ مجھے میرا رب ہدایت دے تاکہ قریب ہو جاؤں میں

مِنْ هَذَا ارشداً اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اس کے از روئے بھلائی کے۔ اے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلِ الرُّسُلِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ

آل پر جو محبوب کہ اول ہیں رسولوں سے (نبوت و رسالت میں) اور اول ہیں مؤمنین و مسلمین سے (ایمان و اسلام میں) پہلے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ إِلَّا مَانَ الْبَارِئِ

اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا سراپا امان ہیں اور نیکوکار

الْبَارِ قَلِيْبِ الْبَارِئِ الْبَاطِنِ الْبَالِغِ وَبِالْبَاطِنِ الْبَيِّنِ الْبَاهِرِ الْبَاهِي

مخلص، کیتا۔ فراخی فرمانے والے۔ معنی (حقیقت والے) مراد کو پہنچنے والے۔ کامل بیان والے۔ غالب۔ فخر کے قابل



الْبَحْرُ الْبَدَاءُ الْبَدْرُ الْبَدِيعُ الْبَشِيرُ الْبَرْقُطَيْسُ الْبُرْهَانُ الْبُشْرَى الْبُشْرَى

بحر سفا، آغاز خلق۔ ماہ تمام۔ آنر کے اور عمدہ۔ بشارتیں سنانے والے، برقطیس، برہان خداوندی، ظاہر جلد والے۔ سراپا

وَبُشْرَى عَيْسَى وَالْبَصِيرُ الْبَلِيغُ الْبَهَاءُ الْبَهِي الْبَيِّنَةُ الْبَاسِلُ الْبَازِلُ

بشارت۔ بشارت عیسیٰ۔ اور بصیر، بلیغ، حسن سراپا۔ حسین و جمیل۔ سراپا دسیل۔ قوی و توانا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ التَّالِي

اے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کتاب اللہ کی تلاوت فرماتے والے

التَّذْكِرَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ہیں اور سراپا نصیحت ہیں۔ اے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ التَّقِيُّ التَّلْقِيْطُ التَّنْزِيْلُ التَّهَامِيُّ التَّابِعُ الْجَامِعُ الْجَبَّارُ

آل پر جو آقا متقی، سراپا رفعت سر بلند، مجسم تنزیل، تہامہ والے، تابع حق والے، جمع کرنے والے، ٹوٹے ہوؤں کو جوڑنے والے

الْجَبِيْلُ الْحَدَّ الْجَوَادُ الْجَهْظُمُ الْخَاتِمُ الْحَاشِرُ الْحَافِظُ الْحَامِدُ يَا

جلالت والے۔ حق و باطل کی حد قائل۔ صاحب جود۔ آخری نبی۔ صاحب شہر۔ حافظ۔ حامد۔ اے

مَنْ هُوَ بِالْمِرْصَادِ يَدْعُو الْعِبَادَ إِلَى الْمَعَادِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

وہ ذات جو تاک میں ہے بلاتا ہے بندوں کو بازگشت کے مقام کی طرف۔ اے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَاطُ حَاطٌ وَحَنْبَطٌ وَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ حاط حاط اور حنبطا ہیں اور

حَامِي الْحَيِيْبُ إِلَى الْحَيِيْبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پناہ میں دینے والے ہیں دوستوں کے طرف دوست کے۔ اے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْحَجَّازِيُّ الْحَرَمِيُّ الْحَرِيْصُ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ

اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ صاحب حجاز اور صاحب حرم ہیں رامت کی ہدایت پر احرص ہیں کمال حجت و

وَحُجَّتِهِ عَلَى الْخَلَائِقِ وَحَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَوْفٌ رَّحِيْمٌ

برہان ہیں۔ اللہ کی برہان ہیں مخلوقات پر ”احرص ہیں تم پر مؤمنین کے ساتھ مہربان رحم فرمانے والے ہیں“



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حُرِّزْ

لے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محمد اُمت امیر کیلئے

الرُّمِّيِّينَ وَالْحَرِيصِينَ عَلَى الْإِيْمَانِ الْحَسِيْبِ الْحَفِيْبِ الْحَلَالِ

پناہ ہیں اور ان کے ایمان پر حرص فرمانے والے ہیں۔ حساب لینے والے شفیق، حفاظت فرمانے والے، سردار

الْحَمْدِ الْحَمْدُ الْحَمْدُ يَا بِالْحَمْدِ وَالْحَمِيدُ الْحَنَّانُ الْحَنِيفُ الْحَيُّ الْحَيُّ

بہت حمد کرنے والے۔ سراپا حمد حمد کی گہرائی تک پہنچنے والے ہمیشہ کیلئے لائق ستائش۔ بہت مہربان جن کی طرف بہت مائل۔ زندہ جاوید اور رحمت

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْخَاتِمِ

کی گھٹا لے اللہ رحمت اور سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب مہربانوت ہیں

الْخَاتِمِ وَخَاتِمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَالْخَاشِعِ

اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے اور آخری نبی و رسول اور مرسل۔ صاحب خشوع و خضوع اور صاحب تواضع

الْخَاضِعِ الْخَافِضِ الْخَالِصِ الْخَبِيرِ الْخَيْرِ الْخَيْرِ الْخَيْرِ الْخَيْرِ الْخَيْرِ الْخَيْرِ

صاحب خلوص۔ باخبر۔ خیر۔ خیر کو اختیار کرنے والے اور ام و انبیاء کے

وَالْأَنْبِيَاءِ اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي عَنِ الضَّلَالَاتِ مِنَ الطَّبَائِعِ الْبَشَرِيَّةِ

خاطیاب۔ لے اللہ پاک فرما میرے دل کو گمراہیوں سے یعنی بشری طبائع

وَالْخَصَائِلِ الرَّدِيَّةِ الدِّنِيَّةِ الْمَرْكُوزَةِ فِي الطَّبَائِعِ الْبَشَرِيَّةِ مُتَّصِرًا

ردی گھٹیا خصلتوں سے جو مرکوز ہیں بشری طبائع میں درآئینہ میں تصرف کرنے والا ہوں

فِي مُلْكِكَ دَائِمًا مِنْ غَيْرِ عَزَلٍ فِي تَصَرُّفٍ دُونَ تَصَرُّفٍ بَلْ فِي

تیرے ملک میں ہمیشہ کے لیے بلکہ سبھی میں تصرف ہو بغیر معزولی کے اور بغیر تحدید و تقید کے بعض تصرفات میں

الْكُلِّ بَاقِيًا إِلَى أَجَلٍ أَجَلْتَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ تَجْعَلَنِي

اس مدت تک کے لیے جوڑنے (اس کائنات کیلئے) مقرر فرمانا ہے۔ لے اللہ قادر ہے اس پر کہ مجھے

دَائِمًا حَيًّا إِلَى نَزُولِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ غَيْرِ وَهْنٍ فِي قَوَائِي

زندہ رکھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے تک بغیر کسی ضعف و ناتوانی کے میرے قری میں مآد



وَأَنْتَ هَذَا الْإِسْمُ حِينَ دَعَوْتُ بِهِ لِصَالِحِ عَبْدٍ مِّنْ عِبَادِكَ وَبَرَّئْتَهُ

مؤثر بنا اس اسم کو جب میں دُعا کروں اس کے ساتھ تیرے کسی نیک بندے کے لیے۔ اور بری فرما اس کو

عَنِ الْأَمْرَاضِ وَالْأَخْلَاطِ الْفَاسِدَةِ وَاجْعَلْ كُلَّ حَيٍّ تَحْتَ جُودِ

امراض اور فاسد اخلاط سے۔ اور ہر جاندار کو میری زندگانی کے فیض و جود کے تحت کر دے

حَيَاتِي لِأَيُّصَالِ النَّفْعِ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ عِشِّ وَحَسَدٍ وَسَائِرِ الشُّكُوكِ

واسطے نفع رسائی کے طرف اس کے بغیر کسی کینہ و حسد اور دیگر شکوک کے

فِي حَقِّهِ وَإِنْ دَعَا عَبْدُكَ هَذَا فِي حَقِّ أَمِيرٍ بِهَذَا الْإِسْمِ الْأَعْظَمِ

اس کے حق میں۔ اور اگر دُعا کرے تیرا بندہ تجھ سے حاکم وقت کے حق میں ساتھ اس اسم اعظم کے

لِبِقَاءِ أَمَارَتِهِ وَتَصَرُّفِهِ وَحَيَوَةِ شَخْصِهِ إِلَى مُدَّةٍ فَاجِبُهُ مِنْ

اس کی حکومت اور تصرف کے بقاء کے لیے اور اس کی زندگانی کی درازی کے لیے تو اس کو قبول فرما بغیر

غَيْرِ تَوْقِفٍ وَمَنْعِ أَمِينٍ يَا قَيُّومُ فَلَا يَفُوتُ شَيْءٌ مِّنْ عِلْمِهِ

توقف کے اور محروم اجابت کرنے کے۔ لے قیوم کہ کوئی چیز باہر نہیں رہتی اس کے دائرہ علم سے

وَلَا يُؤَدُّهُ إِجْعَلْنِي قَائِمًا فِي تَجَلِّيَاتِ أَسْمَائِكَ مِنْ غَيْرِ فَايَةٍ

اور نہ اس کو تھکاتی ہے مجھے قائم رکھ اپنے تجلیات اسماء میں بغیر محروم ہونے کے ان سے

حِينَئِذَا وَسَخَّرْ لِي كُلَّ كَوْنٍ أَيَّا كَانَ مُنْقَادًا فِي ظُهُورِ الْأَثَرِ مِنْهُ

کسی لمحہ کے لیے اور مسخر فرما میرے لیے ہر موجود کو جیسا بھی ہو در آنحالیکہ وہ تابعدار ہو ظہور اثر میں وقت

حِينَ الطَّلَبِ وَازْدِيَادِ التَّجْرِبَةِ وَأَخْذِ الْكَلِمَاتِ الَّتِي هِيَ غَيْرُ

طلب کرنے کے اس سے اور بڑھنے تجربہ کے اور حاصل کرنے کلمات کے جزئیات سے جو کہ ان سے

مُتَخَلِّفَةٌ عَنْهَا إِلَى الْجُزْئِيَّاتِ الْكَائِنَةِ عَلَى نَهْجِ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ

جدا ہونے والی نہیں ہیں اور وہ جزئیات سرزد ہونے والی ہیں خوارق عادات کے طریقے پر

مِنْ غَيْرِ التَّنْفَاتِ إِلَى جَاهٍ فِي خَلْقِكَ أَوْ صَدَارَةٍ فِي عِبَادِكَ بَلْ

بغیر التفات کے طرف جاہ و مرتبہ کے تیری مخلوق میں یا طرف صدارت کے تیرے بندوں میں بلکہ



مُعْطِيًا الْإِنصَافَ لِخَلْقِكَ أَيَّا كَانَ مِنْ غَيْرِ قُوْتٍ حَقِّ مَا مَنِي لَأَ

انصاف متیا کرتے ہوئے تیری مخلوق کو جس قسم کی بھی ہو بغیر قوت ہونے کسی کے حق کے مجھ سے اور

طَالِبًا مَنَّهُ ذَلِكَ وَاجْعَلْنِي عَالِمًا بِالْعُلُومِ الْيَقِينِيَّةِ الَّتِي صَارَتْ

بغیر مطالبہ کرنے حق کا اس سے اور مجھے علوم یقینیہ کا عالم بنا جو میرے لیے

مَلَكَهٗ حَاضِرَةً كَالْوُجُوْهِ فِي الْبُرَاتِ عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ مَعَ أَحْكَامِ

مستحضر ہوں بطور صلاحیت دائمہ کے مثل نظر آنے چہروں کے آئینوں میں وقت مقابل ہونے کے مع لوح محفوظ کا حکم

اللُّوْحِ مِنْ غَيْرِ انْحِرَافٍ وَفَقَدْ حَرَفَ يَا قِيَوْمَ أَنْتَ جَاعِلُ الْعَبْدِ

کے بغیر کسی طرح کے انحراف کے اور کسی حرف کے اوچھل ہونے کے۔ اے قیوم تو بنانے والا ہے اپنے بندے کو

وَجِيْهًا فِي الْمَلِكَةِ الْمُتَعَبِّدَةِ الْمُسَبِّحَةِ عِنْدَ حَضْرَتِكَ وَلَا تَجْعَلْهُمْ

آبرو مند ان ملائکہ میں جو عبادت و تسبیح کرنے والے ہیں تیری بارگاہ میں اور نہ بنانا انہیں

عِنْدَ نَفْسِي الْكِبْرَ شَيْءٌ سِوَى خِدْمَتِكَ بِحَيْثُ لَا يُؤَدُّهُ عَلَيَّ

میرے نزدیک بڑی اہم شئی سوا اپنی خدمت کے جو نہ بوجھل کرنے والی اور تھکانے والی ہو مجھے

أَمِيْنٌ يَا خَالِقَ النَّيِّرِيْنَ وَالْكَوَاكِبِ الشَّاقِبَةِ الدَّرِّيَّاتِ الْمَرْبِيَّةِ

آمین۔ اے پیدا فرمانے والے سورج و قمر کے اور چمکتے روشن ستاروں کے جن کے ساتھ مزین کئے گئے ہیں

بِهَا الْأَفْلَاقُ الدَّوَّارَاتُ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ الْأَوَّلِيَّاتِ وَالْآخِرِيَّاتِ

گردش کرنے والے افلاک پہلی اور پچھلی مخلوقات میں سے بنا

اجْعَلْنِي أَوْحِدِيًّا فِي الطَّاعَاتِ وَالتَّسْبِيْحَاتِ وَفَهُمْ مَفْهُومَاتِ

مجھے یکتا اپنی طاعات و تسبیحات میں اور انوع خطابات کے مفہومات کو سمجھنے میں

أَنْوَاعِ الْخَطَابَاتِ مَعَهُمْ مَعْنَى الْوَحْدَةِ الْمَطْلُوقَةِ الَّتِي هِيَ أَوَّلُ

مع سمجھنے وحدت مطلقہ کے معنی کو جو کہ سب اولیات و

الْأَوَّلِيَّاتِ وَأَسْبَقُ الْإِضَافِيَّاتِ وَالصِّفَاتِ الْفِعْلِيَّاتِ الظَّاهِرَةِ

بدیہیات سے مقدم ہے اور سابق ہے تمام اضافی اور فعلی صفات سے اور سب مظاہر میں



فِي الْمَظَاهِرَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

ظہور فرما ہے۔ اے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوَّلِ مُشَفِّعِ اللَّهِ إِيَّانِي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ تُبْتُ

آل پر جو محبوب پہلے شفیع بنائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ بیشک میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں ہر گناہ سے جس میں میں نے

إِلَيْكَ مِنْهُ وَأَقْدَمْتُ عَلَى فِعْلِهِ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْكَ وَأَنَا عَلَيْهِ

تیری طرف توبہ کی۔ اور میں نے اس کے کرنے کا اقدام کیا ہے میں نے حیا کیا تجھ سے اور میں اسی ارادہ پر ہوں

وَرَهَيْتُكَ وَأَنَا فِيهِ ثُمَّ اسْتَقَلْتُ مِنْهُ وَعُدْتُ إِلَيْهِ وَلِكُلِّ ذَنْبٍ

اور میں ڈر گیا تجھ سے جبکہ میں اسی میں ہوں پھر میں نے رجوع کیا اور لوٹا طرف اس کے۔ اور ہر اس گناہ سے

تَوَدَّكَ عَلَيَّ أَوْ وَجِبَ فِي شَيْءٍ فَعَلْتُهُ بِسَبَبِ عَهْدِ عَاهِدَاتِكَ عَلَيْهِ

استغفار کرتا ہوں جس کا الزام مجھ پر عائد ہوا یا لازم ہوا مجھ پر اس امر کے کرنے سے جسے کیا میں نے بسبب عہد کے جو تیرے

أَوْ عَقْدٍ عَقَدْتَهُ لَكَ أَوْ ذِمَّةٍ أَلَيْتُ بِهَا مِنْ أَجْلِكَ لِأَحَدٍ مِنْ

ساتھ کیا یا پیمانہ کے جو تیرے لیے باندھا یا ذمہ داری کے جو میں نے اٹھائی تیری خاطر تیری مخلوق میں سے کسی

خَلْقِكَ ثُمَّ نَقَضْتُهَا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ لَزِمْتَنِي بَلِ اسْتَزَلَّنِي

کے لیے پھر میں نے اس کو توڑ دیا بغیر کسی مجبوری کے جو لازم آنے بلکہ پھیلایا مجھے اس

عَنِ الْوَفَاءِ بِهَا الْبَطْرُ وَأَسْخَطَنِي عَنْ رِعَايَتِهَا الْأَشْرُوكِلْ ذَنْبٍ

عہد کی وفاداری سے غرور کرنے اور ناراض کیا مجھے اس کی نگہداشت سے تنہا کرنے اور واسطے ہر گناہ کے

لِحَقْنِي بِسَبَبِ نِعْمَةٍ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَتَقَوَّيْتُ بِهَا عَلَيَّ مَعَاصِيكَ وَ

جو لاحق ہوا مجھے بسبب اس نعمت کے جس کا تو نے انعام کیا پس میں نے اس کے ساتھ معاصی پر تقویت حاصل کی۔ اور

خَالَفْتُ فِيهَا أَمْرَكَ وَأَقْدَمْتُ بِهَا عَلَيَّ وَعَيْدِكَ وَلِكُلِّ ذَنْبٍ

تیرے امر کی مخالفت کی اور اس کے سبب تیری وعید تک آپہنچا۔ اور واسطے ہر گناہ کے

قَدَّمْتُ فِيهِ شَهْوَتِي عَلَى طَاعَتِكَ وَأَثَرْتُ فِيهِ مَحَبَّتِي عَلَى أَمْرِكَ

جس میں میں نے اپنی خواہش نفس کو مقدم رکھا تیری طاعت پر اور ترجیح دی اپنی محبت و پسند کو تیرے امر پر



فَارْضَيْتُ نَفْسِي بِغَضَبِكَ وَعَرَضْتَهَا لِسَخَطِكَ إِذْ نَهَيْتَنِي وَقَدَّمْتَ

پس میں نے راضی کیا اپنے نفس کو تجھے ناراض کر کے اور میں نے پیش کیا اسے تیرے غصے پر جبکہ تو نے مجھے منع کیا تھا۔ اور تو نے

إِلَيَّ فِيهِ إِذْ أَرَاكَ وَتَحَجَّجْتَ عَلَيَّ فِيهِ بِوَعِيدِكَ اللَّهُمَّ يَا مَنْ

پیلے پہنچا میری طرف اس میں وعید کو اور مجھ پر حجت پوری کر دی اپنی وعید کے ساتھ۔ اے اللہ اے کہ جسے

لَهُ إِطْنَةُ عَلَى الْعِبَادِ وَرَاحِمُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَفِي يَوْمِ الْمَعَادِ نَسُئُكَ

بندوں پر شفقت ہے اور رحم فرمانے والا ہے ان پر دنیا میں اور قیامت کے روز ہم سوال کرتے ہیں

بِحَقِّ ذَاتِكَ الَّتِي لَا تُنْكَرُ وَأَسْمَائِكَ الَّتِي لَيْسَ لِمَعَانِيهَا حُدٌّ

تجھ سے تیرے حق ذات کے تو سب سے جس ذات میں اجنبیت نہیں اور تیرے اسماء کے وسیلہ سے جن کے معانی کی حواص

يُحْصِرُ أَنْ تَذِيقْنَا بَرْدَ عَفْوِكَ وَحَلَاوَةَ مُنَاجَاتِكَ وَلَا تَشْغَلْنَا

نہیں کر چکھا ہمیں اپنی عفو کی ٹھنڈک اور اپنی مناجات کی چاشنی۔ اور ہمیں اپنے ماسواہ کے ساتھ مشغول نہ فرما

بِغَيْرِكَ وَاسْتَعْمَلْنَا فِي مَرْضَاتِكَ الْهَتَا إِنَّ ظُلْمَةَ الذُّنُوبِ قَدْ

اور ہمیں اپنی رضامندی کے مطابق عمل پیرا فرما۔ اے ہمارے خدا گناہوں کی ظلمت نے

أَعْمَتِ الْبَصِيرَةَ وَتَنَاوَلِ الشَّهَوَاتِ قَدْ أَطْفَأْنَا نُورَ السَّرِيرَةِ وَ

ہماری بصیرت کو اندھا کر دیا ہے اور خواہشات نے نور باطن و فطرت کو گل کر دیا ہے

نَحْنُ عِبِيدُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ مُعْتَرِفُونَ بِوَحْدَانِيَّتِكَ وَمُتَمَثِّلُونَ

ہم تیرے بندے ہیں، تیرے حضور حاضر ہیں، تیسری وحدانیت کا اعتراف کرتے ہیں

لَا وَآمِرِكَ وَنَوَاهِيكَ وَنَسْتَشْفِعُ إِلَيْكَ بِكُلِّ حَبِيبٍ وَخَلِيلٍ وَبِكُلِّ

تیرے اوامر و نواہی پر کاربند ہیں اور شفیع بناتے ہیں تیری بارگاہ میں تیرے ہر حبیب و خلیل کو اور ہر

مُقَرَّبٍ إِلَيْكَ قَرَبًا بَلَا تَمَثِيلٍ أَنْ تَهَبَ لَنَا نُورًا فِي الْبَصِيرَةِ لَا

مقرب کو جس کو تیرا قرب حاصل ہے بغیر کسی تشبیہ و تمثیل کے کہ تو ہمیں ایسا نور بصیرت عطا کرے

يُوصَفُ وَعِلْمًا يُصَرِّفُ لَنَا قَلْبًا مُؤْمِنًا مُطْمَئِنًّا وَلَا تُؤَاخِذْنَا

جو بیان سے باہر ہو۔ اور ایسا علم جو ہمارے دلوں کو صاحب ایمان و اطمینان بنا دے۔ اور نہ مؤاخذہ فرما ہم سے



بِمَا وَقَعْنَا مِنَ اللَّهِ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

نسب اس کے جو سرزد ہوا ہم سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الْخَلِيفَةَ الْخَلِيلَ وَخَلِيلَ الرَّحْمَنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

پر جو آقا کہ تیرے نائب و خلیل ہیں اور خلیل رحمن ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرَ النَّبِيِّينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا تمام انبیاء علیہم السلام سے بہتر ہیں۔ اے اللہ رحمت

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْأَوْلِيَيْنِ وَخَيْرِ الْآخِرِينَ

و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا سب اولین و آخرین سے بہتر و برتر ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ وَخَيْرِ الْبَرِيَّةِ وَخَيْرِ الْخَلْقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

جو آقا کہ سب انبیاء۔ ساری مخلوق اور سب کائنات سے افضل ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْعَالَمِينَ طَرَا اللَّهُمَّ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا تمام جہانوں سے افضل ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ النَّاسِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا سب لوگوں سے افضل ہیں

وَخَيْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اور رہا مخصوص اس امت سے افضل ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ذَارِ الْحِكْمَةِ وَذَاعِيهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

آل پر جو آقا کہ دار حکمت ہیں اور اس کی طرف بلائے والے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الدَّاعِي الدَّلِيلِ اللَّهُمَّ صَلِّ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو مٹانے والے ہیں (باطل کے) اور داعی و رہبر ہیں (حق کے)۔ اے اللہ صلوٰۃ



وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ دَعْوَةَ اِبْرَاهِيْمَ وَ

ز سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو دعائے خلیل علیہ السلام ہیں اور

دَعْوَةَ التَّوْحِيْدِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ

سراپا دعوت توحید ہیں۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ دَعْوَةَ النَّبِيِّۦنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آل پر جو آقا تمام انبیاء علیہم السلام کی دعا ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ دَلِيْلَ الْخَيْرَاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

اور آپ کی آل پر جو آقا تمام تر خیرات کی طرف رہبر ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل کر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَللّٰهُمَّ وَاوْدَ الْمَحْمُوْدِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو نرم خو اور قابل ستائش داؤد ہیں۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَلذِّكْرُ

اے اللہ درود و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو بہت زیادہ ذکر کرنے والے

الذِّكْرُ اَلذِّكْرُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ

بلکہ میں ذکر ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَلذِّخْرُ وَذِي الْحُرْمَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

پر جو آقا کہ ذخیرہ ہیں (خیرات کا) اور صاحب حرمت و کرامت ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ذِي النَّجْدِ وَذِي الْجِهَادِ اَللّٰهُمَّ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا صاحب تاج ہیں اور صاحب جہاد ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ذِي

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا

الْحَطِيْمِ وَذِي السَّكِيْنَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

حطیم والے ہیں اور سکینت والے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر



وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ذِي الْحَوْضِ الْمُرْوُودِ وَذِي الْخَلْقِ الْعَظِيمِ

اور آپ کی آل پر جو مالک ہیں حوض کوثر کے جس پر شنگان مشرور ہوں گے۔ اور صاحب خلق عظیم ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ذِي

اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو کہ

الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَذِي السَّيْفِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ بِكَلِمَاتِ

صراط مستقیم والے ہیں اور صاحب سیف ہیں۔ اے اللہ میں تیرے ساتھ پناہ حاصل کرتا ہوں اور

اللَّهِ الثَّمَامَاتِ وَالْأَسْمَاءِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ مَا ذَرَأَ وَبَرَأَ

اللہ تعالیٰ کے کلمات تامر کے ساتھ اور جملہ اسماء کے ساتھ ہر اس چیز کے شر سے جسے تو نے پیدا کیا اور تخلیق فرمایا اور ہر شر کے

وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذَا بِيَّةٍ أَنْتَ اخَذْنَا صِيَّتَهَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ

شر سے اور ہر جانور کے شر سے کہ تو جس کی پیشانی کو کپڑے والہ ہے۔ بے شک میرا پروردگار راہ

مُسْتَقِيمٍ اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِإِسْلَامٍ قَائِمًا وَقَاعِدًا أَوْ رَاقِدًا أَوْ لَا

راست پر ہے۔ اے اللہ اسلام کے ساتھ میری حفاظت فرما حالت قیام و قعود اور حالت نوم میں اور نہ

تَشُبُّتُ بِي عَدُوًّا وَلَا حَاسِدًا اللَّهُمَّ بِتَوْفِيقِكَ قَدْ أَبْصَرْتُ نَبِيًّا وَ

نوش فرما میرے ساتھ میرے دشمن کو اور نہ ہی کسی حاسد کو۔ اے اللہ تو نے اپنی توفیق سے مجھے صاحب بصیرت بنایا اور

أَحْضَرْتُ نَبِيَّ النَّجَاةِ وَجَعَلْتَنِي مِنْكَ فِي وِلَايَةِ الْعَصْمَةِ فَلَمْ أَبْرَحْ

میرے پاس نجات کو موجود کیا اور کیا تو نے مجھے اپنی حفاظت کے تصرف میں۔ پس میں ہمیشہ

مِنْكَ فِي سُبُورِ نِعْمَاتِكَ وَتَتَابِعُ الْآيَاتِكَ مَحْرُوسًا مِنَ الرَّدِّ وَ

تیری کامل نعمتوں اور لگاتار انعامات کی بدولت محفوظ رہا رو کئے جانے اور

الْإِمْتِنَاعِ وَمَحْفُوظًا مِنَ الْمَوَانِعِ وَالِدَّفَاعِ وَلَمْ تُكَلِّفْنِي فَوْقَ

روکے جانے سے اور محفوظ رہا رکاوٹوں سے اور ممانعت سے اور تو نے مجھے میری طاقت سے زیادہ

طَاقَتِي وَلَمْ تُرْضَ عَنِّي إِلَّا طَاعَتِي فَإِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ

تکلیف نہ دی۔ اور نہ پسند کیا مگر میرے اطاعت گزار بننے کو۔ پس بیشک تو ہی اللہ ہے تیرے سوا کوئی



إِلَّا أَنْتَ لَمْ تَغِبْ وَلَا تَغِيبُ عَنْكَ غَائِبَةٌ وَلَا تَخْفَى عَنْكَ خَافِيَةٌ

معبود برحق نہیں نہ تو خود غائب ہوا ہے اور نہ کوئی شئی تجھ سے پوشیدہ ہو سکتی ہے نہ مخفی رہ سکتی ہے کوئی مخفی رہنے والا شئی

وَلَكِنْ تَضِلُّ عَنْكَ فِي ظُلُمَاتِ الْخَفِيَّاتِ ضَالَّةٌ إِنَّمَا أَمْرُكَ إِذَا

اور نہ ہرگز کم ہوگی تجھ سے پوشیدہ اشیاء کی ظلمتوں میں کوئی کم ہونے والی شئی تیرا امر صرف یہی ہے جب

أَرَدْتَ شَيْئًا أَنْ تَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي بِمَا

تو کسی شئی کا ارادہ کرے کہ اسے کہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اے اللہ مجھے رزق بخش بطفیل

دَعْوَتِكَ بِهِ وَأَعْطِنِي هَيْبَتَكَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ مَنْ يَرَانِي

میری دعا کے اور عطا کرے مجھے اپنی ہیبت اپنی تمام مخلوق پر جو ان سے مجھے دیکھتے ہیں

مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يَرَنِي وَتَعْصَمْتُ بِالتَّوْرَةِ عَنِ يَمِينِي وَالْإِنجِيلِ

اور جنہوں نے نہیں دیکھا۔ شانہ سے بچاؤ حاصل کیا میں نے تورات کے ساتھ دائیں جانب سے اور انجیل کے ذریعے

عَنْ يَسَارِي وَالزَّبُورِ خَلْفِي وَالْقُرْآنِ أَمَامِي وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ

باہیں سے زبور کے صدقے میں پیچھے سے اور قرآن کی بدولت آگے سے۔ محمد صلی اللہ علیہ

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شَفِيعِي وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى رَفِيقِي وَوَضَعَهُ

وآلہ وسلم میرے شفیع ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا رفیق ہے اور مطلع ہے

عَلَى مَنْ يَحْفَظُنِي وَيُرْعَانِي مِنْ كُلِّ مَا أَخَافُهُ أَنْ يَضُرَّنِي وَ

ان پر جو میری حفاظت اور نگرانی کرتے ہیں ہر خوف ناک شئی سے کہ مجھے ضرر پہنچائے اور

اللَّهُ مِنْ وَسْوَئِهِمْ مُحِيطٌ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ

اللہ تعالیٰ ان سب کا احاطہ کرنے والا ہے۔ بلکہ وہ قرآن مجید ہے (جو مرقم و محفوظ ہے) لوح محفوظ میں۔

وَعَقَدْتُ عَنِّي الْحَدَّ وَالْحَدِيدَ وَالْبَأْسَ الشَّدِيدَ وَكُلَّ إِنْسَانٍ

اور میں نے دور کیا اپنے سے تیز دھار کو اور لوہے کو اور انتہائی شدت کو اور ہر معاند انسان کو اور

عَنِّي وَالْجَنِّ عَلَى التَّكْيِيدِ وَكُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ وَعَقَدْتُ

ہر جن کو سختی کے ساتھ اور ہر سرکش شیطان کو اور روکا میں نے اپنے سے



السُّيُوفُ الْهِنْدِيَّاتِ وَالرِّمَاحُ الثَّالِيَّاتِ وَالسِّهَامُ الطِّيَّارَاتِ وَ

ہندی تلواروں کو اور ان کے بعد آنے والے نیزوں کو اور اڑتے تیروں اور

السَّكَاكِينِ الْوَادِيَّاتِ الْحَادَاتِ الصَّارِمَاتِ الْجَنْدَلِيَّاتِ بِسُيُوفِهِمْ

ان چھریوں کو جو ہلکے، تیز اور کاٹنے والی ہیں اور غالب ہیں ان (اعلاء) کی تلواروں پر پس

فَاعْدَأْنِي مَا لَوْ أَوْ بِرِمَاحِهِمْ وَأَحْجَارِهِمْ تُرْجَرُوا وَارْجَعُوا خَائِبِينَ

میرے اعلاء میدان سے ہٹ گئے اور بیچ اپنے نیزوں اور پتھروں کے ہانکے گئے اور لوٹے نامراد ہو کر

فَرَّقَ اللَّهُ جَمْعَهُمْ بِأَتْمِهِمْ صَمٌّ بَكْمَ عَمِي فَمَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ فَمَهُمْ لَا

اللہ نے ان کی جمعیت کو پراگندہ کیا بسبب اس کے کہ وہ بہرے۔ گونگے اور اندھے ہیں پس وہ راہ راست کی راہ

يَرْجِعُونَ فَمَهُمْ لَا يَتَكَلَّمُونَ وَلَا يَنْطِقُونَ إِلَّا بِخَيْرٍ أَوْ يُصِيتُونَ

نہیں لوٹتے۔ پس وہ نہ کلام کریں اور نہ بولیں مگر ساتھ بھلائی کے یا خاموش رہیں

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ

اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ پس جب دیکھا ان عورتوں نے انہیں تو ان کو بہت بڑا جانا اور کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ۔ اور

حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ بِسُوسِمِ سُسُومِ

پکارا اٹھیں۔ خدا کی قسم یہ تو بشر ہیں ہی نہیں۔ یہ تو صرف اور صرف بزرگ فرشتے ہیں بظہیل سوسم سوسم

دُوسِمِ حُوسِمِ بَرَّاسِمِ كَاهِ بَرَّكَاهِ اِهْيَا شَرَاهِيَا اذْوَ نَايَ اَصْبَاءُ وَاوَتْ

دوسم۔ حوسم۔ براسم۔ کاہ۔ برکاہ۔ اہیا شراہیا۔ آذونای اصباوت

اَلشَّدَايَ تَوَكَّلْ يَا عَنُقُودُ وَيَنْفُودُ الْمَلِكُ وَيَا عَيْدُ النَّارِ بَعْقُدْ

اے شداہی وکالت قبول کرے عنقود اور نفوذ بادشاہ اور اے بندہ آتش تمام

اَلسَّنَةِ النَّاسِ اَجْمَعِينَ هُ بِسْمِ اللّٰهِ اَلْجَمْتِ اَعْدَايَ وَبَعْصَا

لوگوں کی زبانیں بند کرنے کی۔ اللہ کے نام سے میں نے گام دیدی اپنے اعلاء کو اور عصا

مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ضَرَبْتَهُمْ وَبِالْفِ اَلْفِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ

موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کو مارا۔ اور ساتھ دس لاکھ قل ہو اللہ احد کے



أَصْبَتْهُمْ وَأَبْكَمْتَهُمْ لَا يَجُورُونَ عَلَيَّ وَلَوْ كَانُوا مِثْلَ الْجِبَالِ وَ

انہیں بہرہ اور گونگا بنایا نہ جوڑستم کر سکیں مجھ پر اگرچہ ہوں پہاڑوں کی مانند اور

دَكَّتَهُمْ كَمَا دَكَّتِ الْأَرْضُ تَحْتَ الْأَقْدَامِ هُمُ الثَّاقِفَةُ وَأَنَا

میں نے ان کو کچل ڈالا جیسے پھلی گئی زمین نیچے قدموں کے وہ (اعلاء) اونٹنی کی مانند ہیں اور میں

الْأَسَدُ لَخَلَقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ

شیر۔ البتہ آسمان و زمین کی تخلیق بہت بڑی ہے انسان کی تخلیق سے لیکن

أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا رَجَالَ الْغَيْبِ يَا أَرْوَاحَ

اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ سلام ہو تم پر اے رجال غیب۔ اے مقدس

الْمُقَدَّسَةِ أَعْيُنُونِي بِغَيْثُوتِي وَأَنْظُرُونِي بِنَظْرَةِ يَا رُقَبَاءِ يَا نِقَبَاءِ

روح، میری فریاد رسمی کرو خاص مدد کے ساتھ اور مجھے مخصوص نظر سے مشرف کرو اے رقبا اے نقبا۔

يَا نَجَبَاءِ يَا أَبْدَالَ يَا أَوْتَادَ يَا غُوثَ يَا قُطْبَ رَحِمَكُمُ اللَّهُ أَعْيُنُونِي

اے نجبا۔ اے ابدال۔ اے اوتاد۔ اے غوث۔ اے قطب۔ اللہ تم پر رحمت کرے میری مدد کرو

فِي هَذِهِ الْأُمُورِ سَلِّمَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ

ان امور میں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے دنیا و آخرت میں بطفیل حق محمد کے اور

إِلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِحَقِّ يَا اللَّهُ صَدِيٌّ مِنْ عِنْدِكَ

آپ کے تمام آل و اصحاب کے، بطفیل حق (ان کلمات کے) اے اللہ اے میرے بے نیاز تیری طرف سے ہی ہے

مَدِدْنِي وَعَلَيْكَ مُعْتَمِدِي اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

امداد میری اور تجھی پر ہے بھروسہ میرا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هُوَ بَلَّغَ الْعُلَى بِكَمَالِهِ كَشَفَ

آپ کی آل پر جو محبوب کر پہنچے بلند یوں تک اپنے کمال کی بدولت اور نور کیا

الدُّجَى بِجَمَالِهِ حَسَنَتْ جَمِيعَ خِصَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَإِلَيْهِ وَ

تاریکیوں کو اپنے جمال سے۔ سراپا حسن بن گئیں ان کی تمام خصلتیں۔ درود بھیجو ان پر اور ان کے تمام آل و



أَصْحَابَهُ أَجْمَعِينَ بِجَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ اللَّهُمَّ اعْطِنِي

اصحاب پر جمع انبیاء و مرسلین کے۔ لے اللہ مجھے عطا فرما

وَأَدْرِ كُنِّي بِحَقِّ لُطْفِكَ الْخَفِيِّ الْخَفِيِّ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ

اور میری ہر طرف سے حفاظت فرما بطیفیل اپنے لطف کے جو ہمارے حال زار کی بہت خیر رکھنے والا ہے اور مخفی بھی

أَكْبَرُ بِحَقِّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ يَا أَبَا الْغَيْثِ اغْثِنِي

ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر بطیفیل ایسا کہ نعبد و ایسا کہ نستعین کے، لے ابو الغیث میری فریاد کو پہنچ

يَا أَبَا الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَيَا خَالِقَ الْحُسَيْنِ وَالْحُسَيْنِ أَحْسَنُ

لے ابو الحسن و ابو الحسین اور لے خالق حُسن کے اور حسینوں کے مجھے عطا فرما اپنے کامل حسن کے طفیل

لِي فِي حُسْنِ حُسْنِكَ يَا أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ حُسْنًا مُبْلَغًا كَامِلًا

لے خوبترین خالق ایسا حسن جو تمام اور کامل و

مُكْمَلًا يَقْرَنُ الْمَلَاحَةَ حُسْنَهُ وَالْحُسْنَ صَارَ قَرِينَهُ وَصَادَ

مکمل ہو قرین ہو جاذبیت و کشش اس حسن کے اور حسن اس کا قرین ہو اور شکار کیا ہے

الْقُلُوبَ جَمَالَهُ وَشَاءَ الْأَفَاقَ جَلَالَهُ وَالْبَدْرَ نُورَهُ إِذَا مَا

دلوں کو محبوب کریم کے جمال نے اور عام ہے آفاق میں جلال ان کا۔ اور چودھویں کا چاند ان کا نور ہے جبکہ

اسْتَبَانَ ظُهُورَهُ وَمَرَبُوعٌ قَدْ كَانَتْهُ وَاللَّهُ عَظَمَ شَانَهُ لَكِنْ

بے حجاب ہو ظہور اس کا اور درمیانہ قد ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے عظمت دی ہے ان کی شان کو " لیکن

يُطَاوِلُ جَارَهُ وَهُوَ الْمَفِيضُ بِحَارَهُ إِذَا مَا يَمِثُّ شَيْبَهُ أَحَدٌ قَدْ

بلند و بالا معلوم ہوتے ہیں اپنے ساتھیوں پر۔ اور وہ جاری کرنے والے ہیں اپنے وجودوں والے کے ہمندوں کو، نہیں ان کے ساتھ چلتا

يُعْلِيهِ الصَّبَدُ وَالْعُظْمُ كَانَ لَهَا مَتَهُ وَالْحُسْنُ كَانَ لِقَامَتَهُ

شخص (مگر) بلند کرتا ہے آپ کو اس پر، اللہ بے نیاز اور بڑائی حاصل مٹھی آپ کے سزا کو۔ اور حسن دلربائی آپ کے سراپا کو

كَاللَّيْلِ سَوْدٌ شَعْرُهُ وَفَاضَ الْعَجَائِبُ بِحَرَّةِ شَعْرِ الْجَيْبِ تَكَثُرًا

مانند شب تار کے سیاہ مٹھے بال آپ کے اور جاری کیا عجائبات کو ان کے بحر جود سے مٹھے۔ بال محبوب کریم کے مٹھے



رَجُلًا مَلِيحًا فِي الْوَرَى شَعْرًا مَشِيظًا لَا قَطْطَ سَوْدٍ وَدَوْدٌ لَا سَبْطَ قَدْرٍ

درمیانے گھنگھریالے پرکشش مخلوق کے لیے۔ ایسے بال جو گنگھی کے جا سکتے تھے نہ سخت جنگھ مو۔ سیاہ دربانہ بالکل سیدھے

كَانَ أَبْيَضَ مُشْرَبًا وَلِعَاشِقِيهِ مُطْرَبًا بِالْوُسْعِ كَانَ جَبِينُهُ فِي

آپ سفید مٹھی مائل تھے اور اپنے مشتاق کے لیے بہت طرب انگیز تھے۔ آپ کی پیشانی مبارک کشادہ تھی

الْعَشِقِ كَانَ جَبِينُهُ تَعْلُوهُ نُورًا بِالْيَقِينِ يَسْبِي قُلُوبَ

منبع عشق تھی آپ کی پیشانی مبارک جس پر غالب تھا نور آپ کا۔ آپ یقیناً قید کرتے تھے

الْعَاشِقِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَعَلَى حَبِيبِهِ وَعَلَى حَبِ

عاشقوں کے دلوں کو۔ صلی اللہ علیہ و علی آلہ۔ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے آپ پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے

حَبِيبِهِ وَأَحْبَابِهِ اللَّهُمَّ اعْطِنِي نَظْرًا رَحْمَةً رَحْمَةً بِحُرْمَةِ

محبوبوں پر اور ان کے احباب اور احباب پر۔ اے اللہ مجھے عطا فرما ایسی نظر جو سراسر رحمت ہو بطفیل حرمت

يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا كَلِيمَ اللَّهِ يَا أَسَدَ اللَّهِ يَا سَهْمَ اللَّهِ يَا عِلْمَ اللَّهِ

(ان کلمات کے) اے رسول خدا۔ اے کلیم خدا۔ اے شیر خدا۔ اے تیر خدا۔ اے علم خداوند تعالیٰ

الْحَاضِرُ وَالنَّاطِرُ اللَّهُ نَظْرَةً مِّنْكَ تَكْفِينًا وَقَطْرَةً مِّنْ شَرَابِكَ

اے حاضر و ناظر واسطہ اللہ کا تمہاری ایک نگاہ ہمیں کافی ہے۔ اور ایک قطرہ تمہارے شراب عشق کا

تُعِينِنَا فِي الْوُصُولِ بِاللَّهِ أَنْتَ وَرَأَى الْعُقُولِ وَأَمْرٌ مِّنْ أَمْرِ

ہمیں کفایت کرنے والا ہے وصول الی اللہ میں۔ تم عقول کی رسائی سے بالاتر ہو۔ اور امر

اللَّهُ يَا شَيْرَ اللَّهِ يَا نَائِبَ رَسُولِ اللَّهِ وَأَنْتَ الْفَضْلُ وَالْكَرَمُ

خداوندی ہو۔ اے اللہ کے حسین نائب اے رسول اللہ کے نائب۔ اور تم ہی سراپا فضل و کرم اور

وَالْإِحْسَانُ وَالْهَدَايَةُ وَالْأَمْنُ وَالْأَمَانُ مِنْ صَدَمَاتِ قَهْرٍ

احسان و ہدایت ہو۔ اور سراسر امن و امان ہو اللہ تعالیٰ کے قہر کے صدمات و

اللَّهُ وَأَنْتَ الْحَفِظُ وَالْجِرَاسَةُ فِي طَرِيقِ شَرِيعَةِ اللَّهِ أَرْشِدُنِي

حوادث میں۔ اور تم ہی سراپا حفظ و حفاظت ہو اللہ تعالیٰ کی راہ شریعت میں۔ مجھے اپنی طرف رہنمائی فرما



إِيَّاكَ بِدَلِيلٍ يَدُلُّنِي إِلَيْكَ يَا فَتْحَ اللَّهِ أَرْحَمَنِي بِجَبَالِكَ

ساتھ ایسی دلیل کے جو تیری طرف راہ دکھلائے اسے اللہ تعالیٰ کی مدد مجھ پر احسان فرما ساتھ اپنے جمال کے

لِلَّهِ وَأَظْلَمَنِي بِظُلَامِكَ لِلَّهِ قَبُولًا بِكَ مَا مَوْلَا إِلَيْكَ مَسْئُولًا

اللہ کے لیے۔ اور مجھ اپنے سایہِ ماطفت میں لے لے اللہ کے لیے۔ مقبولیت کا سوال ہے تمہارے مدد سے تم سے ہی

مِّنْكَ قُرْبَ اللَّهِ أَخْرَجَنِي مِنْ ظُلْمَتِ النَّاسِ سَوْتِيَّةً عَلَى طَرِيقِ

امید ہیں اور تمہیں سے سوال ہے قرب خداوندی کا۔ مجھے جسمانی ظلمتوں سے نکالو طرف اللہ تعالیٰ کے راہ

شَرِيعَةِ اللَّهِ وَأَكْسَبَنِي خَلْعَاتِ الْمَلَائِكَةِ بِنُورِ طَرِيقِ

شریعت کے اور مجھے ملوئی خلعیں پہناؤ اللہ کے نور طریقت کے ساتھ

اللَّهُ وَأَحْيَنِي بِالتَّجَلِّيَّاتِ الْجَبَرُوتِيَّةِ عَلَى طَرِيقَةِ اللَّهِ وَاجْعَلْنِي

اور مجھے زندہ فرماؤ جبروتی تجلیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستہ پر اور مجھے

فَارِعًا عَمَّا سِوَى اللَّهِ فَإِنِّيَا عَنِ الْإِرَادَاتِ وَالْخَطَرَاتِ فِي حَقِيقَةِ

فارغ کر دے تمام ماسوی اللہ سے اور فانی کر دے تمام ارادوں اور خیالوں سے اللہ تعالیٰ کی حقیقت

اللَّهُ فِي اللَّهِ يَا شَيْخَ عَبْدِ الْقَادِرِ شَيْخًا لِلَّهِ طُحْتُ بِأَفْلَاسِ عَلَى

میں (متنفر کر کے) اسی کے طفیل۔ اے شیخ عبدالقادر جیلانی کچھ عطا کرو اللہ تعالیٰ کے طفیل میں غلبے کے ساتھ آپ کے

بِأَبِكَ بِقَلْبِ مَسْتَهَامٍ أَعْطِنِي شَيْئًا لَوْجِهَ اللَّهِ يَا شَيْخَ الْأَنَامِ

در پر حاضر ہوں محبت میں دلوانے دل کے ساتھ۔ مجھے عطا کریں کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے طفیل لے تمام مخلوق کے سردار

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْكَ وَأَرْضَاكَ عَنَّا رِضَاءً تَامًا وَأَسْتَرْضَاءً

اللہ آپ سے راضی ہو اور آپ کو ہم سے راضی کرے کامل و اکمل رضا مندی کے ساتھ

عَامًّا إِلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ

نہیں کوئی معبود برحق مگر اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوات اور تسلیات ہوں

عَلَيْكَ الْغِيَاثُ الْغِيَاثُ الْغِيَاثُ أَهْ مِنْ الْعِشْقِ وَحَالَاتِهِ يَجْرُقُ

آپ پر۔ زیادہ ہے۔ فریاد ہے۔ آہ و فریاد ہے۔ عشق سے اور اس کے حالات سے



قَلْبِي بِحَرَارَاتِهِ مَا نَظَرَ الْعَيْنُ إِلَى غَيْرِكُمْ أَقْسَمُ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ

دل میرا جلتا ہے حرارت عشق سے۔ میری آنکھ نے ایک نظر بھی نہیں دیکھا تمہارے غیر کی طرف میں قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ اور اس کی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آیات کی راے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل سیدنا محمد پر

وَعَلَى غَوِّثِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ الصُّلِحِينَ الْمُصْلِحِينَ

اور مومنین و مسلمانین، صالحین و مصلحین

الصَّادِقِينَ الْمُصَدِّقِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور ارباب صدق و تصدیق کے غوث پر۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى غَوِّثِ الْمُجَاهِدِينَ الشَّاهِدِينَ

اور آپ کی آل پر اور مجاہدین، ارباب شہادت و شہرہ

الْمَشْهُودِينَ السُّعُودِينَ الْمُرَاطِبِينَ الْمُنَجِّينَ الْمُنْفِلِحِينَ

اور ارباب سعادت۔ سرحدات کے نگہبانوں نجات دہندگان اور ارباب فلاح

الْمُجْتَبِينَ النَّائِبِينَ الْخَائِفِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

و اجنباء اور نائبین (رسول اور خوف خدار کھنے والوں کے غوث پر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى غَوِّثِ الْقَائِمِينَ الرَّائِعِينَ

محمد پر اور آپ کی آل پر اور اُوپر غوث ان لوگوں کے جو قیام و رکوع کریں گے

السَّاجِدِينَ الْقَاعِدِينَ الْقَائِمِينَ الصَّابِرِينَ الرَّاهِدِينَ

ہیں اور سجد و قعدہ کرنے والے ہیں جو ارباب فوز و فلاح ہیں اور جو اصحاب صبر و زہد

الْمُوقِنِينَ الْمُنَاجِحِينَ الْقَانِعِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اور یقین ہیں جو مناجات اور قناعت والے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى غَوِّثِ الْجَائِعِينَ الْخَاشِعِينَ

محمد پر اور آپ کی آل پر اور اُوپر ان لوگوں کے غوث کے جو خالی پیٹ ہیں اور سراپا خستہ ہیں



الْبَاكِيْنَ الْعَاطِفِيْنَ الْحَافِظِيْنَ الْمُبَارِكِيْنَ النَّاصِرِيْنَ الْمَنْصُورِيْنَ

اور اصحاب اشک رواں۔ مہربان و محافظ ہیں اور بابرکت۔ مددگار ہیں اور منصور۔

الظَّافِرِيْنَ الْمُظْفِرِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ

ارباب ظفر ہیں اور ظفر یافتگان۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى غُوثِ الْمَشْفِقِيْنَ الْمَرْزُوقِيْنَ الْجَوَادِيْنَ الْمُبَادِلِيْنَ

آل پر اور ان کے غوث و فریادرس پر جو ڈرنے والے ہیں۔ رزق دینے ہوئے ہیں۔ اصحاب جو روح عطا ہیں

النَّادِمِيْنَ الْاَوْلٰئِيْنَ الْاٰخِرِيْنَ الصَّائِمِيْنَ التَّوَابِيْنَ الْمُنِيْبِيْنَ اَللّٰهُمَّ

پشیمان ہیں (اپنے اعمال پر) اولین و آخرین روزہ داروں اور توبہ و انابت والوں کے غوث پر۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى غُوثِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اور اُوپر غوث

الْمُوَافِقِيْنَ الْعَابِدِيْنَ الْمَسَاكِيْنَ الْفَائِزِيْنَ الْمَطِيْعِيْنَ الْعَالِمِيْنَ

موافقین و عابدین کے، مساکین اور کامیاب لوگوں کے۔ اطاعت گزاروں۔ ارباب علم

الْعَامِلِيْنَ الْوَارِثِيْنَ الْعَاقِلِيْنَ الْمُعَلِّمِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

و عمل کے اور وارثان (انبیاء) اہل عقل معلمین کے غوث پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى غُوثِ الْمَفْسِرِيْنَ

سیدنا محمد پر۔ اور آپ کی آل پر اور غوث مفسرین پر

الْقَاضِيْنَ الرَّاشِدِيْنَ الْمُرْشِدِيْنَ الْمُسْتَرْشِدِيْنَ الطَّالِبِيْنَ الْمَطْلُوْبِيْنَ

جو ارباب فضل و رشد ہیں صاحب ارشاد بھی اور طالبان رشد بھی۔ طالب بھی ہیں اور مطلوب بھی

الْمُرِيْدِيْنَ الدَّاكِرِيْنَ الْمَذْكُوْرِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مرید بھی اور ذاکر و مذکور بھی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى غُوثِ الْمُسَبِّحِيْنَ الْمَهْلِدِيْنَ الْمُقَدِّسِيْنَ

اور آپ کی آل پر اور ارباب تسبیح و تہلیل کے غوث پر تیری پاکیزگی اور بزرگی بیان کرنے والوں



الْمُجِدِّينَ الْمُوَحِّدِينَ الْحَامِدِينَ الْمُحْمَدِينَ الْوَاهِبِينَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ الْأَوَابِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

تیری توحید و ستائش کرنے والوں حامدین اور محمودین کے غوث پر۔ تمام آسمانوں اور

زمینوں کے بہہ کرنے والوں۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کے غوث پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُعْتَدٍ وَعَلَى غُوثِ الْوَاصِلِينَ الْمُحِبِّينَ الْمُحِبُّوِينَ الْمُدَّوِدِينَ الْمَقْبُولِينَ

اور اُوپر غوث واصلین کے، محبین اور محبوبین کے اور محبوبین و مقبولین کے غوث پر

الْمُشْتَاقِينَ الْعَاشِقِينَ الْمَعشُوقِينَ الْعَارِفِينَ الْمَعْرُوفِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

ارباب شوق۔ عاشقوں و معشوقوں۔ اہل عرفان اور (کوہن میں) جانے پہچانے حضرات کے غوث پر۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى غُوثِ السَّائِلِينَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اور اُوپر غوث سوالیوں کے

الْمُعَاهِدِينَ الْكَامِلِينَ الْمُكْمَلِينَ الْمُحَقِّقِينَ الْمُدَقِّقِينَ الْمُهَيِّدِينَ

جو عہد کرنے والے ہیں اور کامل و اکل، محقق و مدقق ہیں۔ آسانی پیدا کرنے والے

الرَّاضِينَ الْمُرْتَضِينَ النَّاصِحِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اور راضی ہونے والے اور چنے ہوئے اور غلصین ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى غُوثِ الْأَمْرِيْنَ النَّاهِيْنَ الْوَافِيْنَ الْمُوَفِّيْنَ

آپ کی آل پر اور اُوپر غوث امر و نہی کرنے والوں کے اور ارباب وفا و ایفاد کے لوگوں کے بے

الْمَسْئُولِينَ الْمُتَضَرِّعِينَ الصِّدِّيقِينَ الْمُقَرَّبِينَ الْأَقْرَبِينَ الْأَنْجِبِينَ

جائے سوال اشخاص کے زاری کرنے والے۔ صدیقین، مقربان بارگاہ اور قریب ترین و نجیب ترین حضرات کے غوث پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى غُوثِنَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اور ہمارے غوث پر

فِي الْأَكْرَمِينَ الْمُكْرَمِينَ الْأَجْمَدِينَ الْأَشْرَفِينَ الْمُحَلِّقِينَ الْمُقْصِرِينَ

جگہ ارباب شرف و تکریم میں اہل محدود شرف میں۔ ارباب خلق و قصر میں



الْحَاجِزَيْنِ الْعَمَارَيْنِ السَّابِقِينَ الْمَسْبُوقِينَ الْأُولِينَ الْآخِرِينَ الْعَاشِقِينَ

حجاز مقدس والوں۔ عمرہ کرنے والوں۔ سبقت لے جانے والوں۔ سبقت دے جانے والوں میں۔ جملہ عاشقوں

الْمَعْتُوقِينَ الْبُحْبُوبِينَ الْمَحْبُوبِينَ الْوَاصِلِينَ الْمَوْصِلِينَ الْمَشَائِخِينَ

اور معشوقوں میں۔ تمام محبوبین اور محبوبین میں۔ ارباب وصل و ایصال مشائخ میں

الْعَالَمِينَ الْعَامِلِينَ الْوَاهِبِينَ الْفَانِينَ الْبَاقِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ارباب علم و عمل میں۔ اہل عطا و بخشش میں۔ فنا فی التذوق بالشرکے مرتبہ والوں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى غُوثِنَا فِي أَعْلَى

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر اور ہمارے غوث پر اعلیٰ

عَلَيْنِ وَإِلَى يَوْمِ الدِّينِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

علین میں اور یوم قیامت تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى غُوثِ الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَبْرَارِ وَالْأَوْلَادِ

آپ کی آل پر۔ اور اولیاء و ابرار۔ ابدال و اولاد کے غوث پر

الْأَخْيَارِ النَّقَبَاءِ النَّجَبَاءِ الْأَعْمَادِ الْأَقْطَابِ الْأَزْهَادِ وَهُوَ غُوثُنَا الْغُوثُ

اعیار۔ نقباء۔ نجباء۔ اعما۔ اقطاب اور زاہدوں کے غوث پر۔ وہ ہمارے غوث ہیں

الْحَسَنِيُّ الْحُسَيْنِيُّ وَغُوثُ الثَّقَلَيْنِ وَشَيْخُ الْكُونَيْنِ سَيِّدُنَا شَاهُ السَّيِّدِ

حسنی و حسین غوث ہیں اور جن و انس کے غوث۔ دونوں جہان کے غوث ہیں سیدنا شاہ سید

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَأَرْضَاهُ عَنَّا

محمد بن عبد القادر الجیلانی۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور انہیں ہم سے راضی کرے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْقُطْبِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر۔ اور قطب

الرَّبَّانِيِّ وَالْغُوثِ الصِّدْقِيِّ وَالْمَحْبُوبِ السُّبْحَانِيِّ وَالْقُطْبِ الْعَصْرَانِيِّ وَالْغُوثِ

ربانی۔ غوث صدیقی۔ محبوب سبحانی۔ قطب دوران۔ غوث سبحانی



السُّبْحَانِي وَالْعَاشِقُ الْخَنَانِي وَالْمَعْتُوقُ الْمَنَانِي وَالشَّيْخُ السُّلْطَانِي وَالْوَلِيُّ

پر۔ اللہ مہربان کے عاشق اور اللہ محسن کے معشوق پر شیخ سلطانی اور صاحب

الْبِرِّهَانِي وَالْمُحِبُّ الرَّحْمَانِي وَالْمَقْصُودُ السُّلْطَانِي شَيْخُ الْمَلِكِ وَالْبَجْنُ وَ

برہان ولی پر رحمانی محب پر۔ سلطان مقصود پر۔ ملائکہ اور جن و

الرُّسُ عَوْثُ الْأَعْظَمِ قُطْبُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ شَاهُ الْوَلَايَةِ سُلْطَانُ

انس کے شیخ پر۔ عوث اعظم اور مشرق و مغرب کے قطب پر۔ شاہ ولایت۔ سلطان

الْعَرَبِ وَالْعَجْمِ شَاهُ شَاهَانِ الْبَاذِ الْأَشْهَبِ فِي الْعُلْيَا شَيْخُ الثَّقَلَيْنِ كَرِيمِ

عرب و عجم پر۔ بادشاہوں کے بادشاہ۔ بلند یوں پر فائز سفید باز۔ جن و انس کے شیخ۔ بزرگ

الطَّرْفَيْنِ شَيْخُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَضْرَةُ الْفَقِيرِ الْمَخْدُومِ وَالْغَرِيبِ

نخعیال و دوھیال والے۔ تمام آسمانوں اور زمینوں میں شیخ اور بزرگ۔ حضرت و فقیر۔ مخدوم و غریب

مَوْلَانَا وَعَوْثُ السَّيِّدِ شَاهُ مِيرَانَ مُحَمَّدِ الدِّينِ أَبِي مُحَمَّدِ السُّلْطَانِ السَّيِّدِ

ہمارے نام و فریاد رس سیدنا شاہ میران محمد الدین ابو محمد سلطان سید

شَيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ جِيلَانِي صَلَوَاتُ رَبِّكَ عَلَيْنَا رَافِعَةُ كَفَى بِهِ عِبَادَتَهُ

شیخ عبد القادر جیلانی۔ ایسی صلوات جو پاکیزہ ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں اور بلند کرنے والی ہو ان کے درجات کو کافی ہے یہ

وَتَوْجِيدًا وَصَلِّ يَا رَبِّ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَمَلَائِكَتِكَ

ان کی عبادت اور توحید اور رحمت نازل فرمائے میرے پروردگار تمام انبیاء و مرسلین پر اور مقرب ملائکہ پر

الْمُقَرَّبِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصِّدِّيقِينَ وَالصَّالِحِينَ وَعَلَى جَمِيعِ عِبَادِ اللَّهِ

اور شہداء و صدیقین و صالحین پر۔ اور اپنے تمام بندوں پر

الْمُؤْمِنِينَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْمُسْلِمَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

جو مومن و مسلم ہیں مرد ہیں خواہ عورتیں بطفیل اپنی رحمت کے لئے ارحم الراحمین

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذِهِ الصَّلَاةِ أَنْ تُكْرِمَنِي بِرُؤْيَا النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ

اے اللہ بیشک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بطفیل اس صلوات کے کہ تو مجھے عزت بخشے ساتھ دیدار اپنے نبی محمد



خَاتِمَ النَّبِيِّينَ وَنَوَّارِنِي بِأَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِي فِي الْمَنَامِ وَ

آخر الزمان پیغمبر کے اور مجھے نورانیت عطا فرمائے ساتھ (دیدار) ابو محمد عبد القادر جیلانی کے خواب میں اور

أَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَلِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَ

میرے لیے مغفرت و رحمت فرمائے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں اور مسلمان مردوں اور

الْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ وَتُوَصِّلَنِي إِلَى مُرَادِي وَأَتِمِّمْ

عورتوں کے لیے زندہ ہیں یا فوت شدہ اور مجھے میری مراد تک پہنچانے اور پورا کرے

نَيْتِي وَأَخْتِمْ لِي بِخَيْرٍ وَقِنِي شَرَّ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنِي مِنْ تَوَمَةِ الْغَفْلِينَ

میری نیت و ارادہ کو۔ میرا خاتمہ خیر کے ساتھ فرمائے اور بچانے مجھے ظالموں کے شر سے اور نجات دلائے غافلوں والی نیند سے

وَيُخَيِّرَنِي مِنْ عَذَابِكَ وَتُوجِبْ لِي رِضْوَانَكَ وَجَنَانِكَ وَتَقْضِ حَاجَتِي

اور پناہ دے اپنے عذاب سے اور واجب کرے میرے لیے اپنی رضا و خوشنودی اور جنتیں اور پورا کرے میری حاجت

بِكْرَمِكَ وَتَرْفَعْ دَرَجَتِي بِفَضْلِكَ وَتَمْحُ عَنِّي سَيِّئَاتِي بِعَفْوِكَ وَتَوْفِئِي

کو اپنے کرم سے۔ اور بلند کرے میرے درجے اپنے فضل سے اور محو کرے مجھ سے میرے گناہ اپنی عفو سے اور وفات دے مجھے

مُسْلِمًا وَالْحَقْقِي بِالصَّالِحِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اسلام پر اور لائق فرمائے مجھے صالحین کے ساتھ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ رحمت و سلامتی نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ذِي الطَّيِّبَةِ وَالْإِعْزَازِ الْعِزَّةِ اللَّهُمَّ

فرما سیدنا محمد پر اور ان کی آل پر جو طیبہ والے ہیں اور عزت و جاہ والے ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ذِي الْعَطَايَا وَ

رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور ان کی آل پر جو عطاؤں والے ہیں اور

الْفُتُوحِ وَالْفَضْلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

کشاہدگیوں اور فضل و شرف کے مالک ہیں۔ اے اللہ رحمت کاملہ اور سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ ذِي الْقُضَيْبِ وَالْقُوَّةِ وَالْمَكَانَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

جو آقا کہ صاحب عصا اور مالک قوت و عظمت ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد



مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ذِي الْبُدَيْنَةِ وَالْمُعْجَزَاتِ وَالْبَيْسِمِ اللَّهُمَّ

پر اور آپ کی آل پر جو مدینہ والے ہیں اور مالک ہیں معجزات کے اور علامات امتیاز کے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ذِي الْمَقَامِ

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کے صاحب مقام

الْمَحْمُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمود ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

ذِي الْوَسِيلَةِ وَالْهَرَاوَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

جو کہ مقام وسیلہ کے مالک ہیں اور عصا کے۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرَّاجِي الرَّاحِي الرَّاضِعِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سیدنا محمد کی آل پر جو کہ صاحب رجاء و رضا ہیں اور شواہخ۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرَّاعِبِ الرَّافِعِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ راغب الی اللہ ہیں اور بلند بخشنے والے اور کشادہ دل۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَافِعِ الرَّتَبِ وَسَافِعِ الْبُرَاقِ اللَّهُمَّ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کے مراتب کے بلند کرنے والے ہیں اور براق کے سوار۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَافِعِ الْبُعِيرِ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ ازہر تواضع (سواری کرنے والے ہیں اونٹ)

وَالْجَمَلِ وَالثَّاقَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

یعنی تر اور مادہ پر۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الرَّجُلِ الرَّجِيحِ الرَّفِيعِ الرَّاعِيعِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جو وزنی اور باوقار جوان ہیں، بلند مرتبت اور اللہ کے حضور خضوع کرنے والے لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرَّحْمَةِ وَالرَّحْمَةِ الْأُمَّةِ وَالرَّحْمَةِ الْعَالَمِينَ وَالرَّحْمَةِ

اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ سر پر رحمت ہیں اور امت کے لیے رحمت اور سب جہانوں کیلئے رحمت ہیں اور اللہ کی طرف سے



الْمُهْدَاةَ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہدیہ رحمت۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو کہ

الرَّحِيمِ الرَّسُولِ الرَّشِيدِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

رحیم ہیں اور صاحب رشد رسول ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جو کہ راحت

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرَّسُولِ الرَّاحَةِ وَالرَّسُولِ الرَّحْمَةِ وَالْمَلَا حِمِ اللَّهُ صَلَّى

کے پیامبر ہیں اور رحمت کے ساتھ بھیجے ہوئے اور (عزیز و مماندین کے خلاف) جنگوں کے لیے بھیجے ہوئے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرَّضِيِّ الرَّفِيقِ الرَّقِيبِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو پسندیدہ نرم خو۔ نگہبان اُمت۔ اور صاحب

الرَّءُوفِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَفِيعِ

رأفت ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ بلند ذکوے

الذِّكْرِ وَرَفِيعِ الدَّرَجَاتِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اور عالی درجات والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رُكْنِ الْمَتَوَاضِعِينَ وَالرَّهَابِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ

آل پر جو محبوب کہ سہارا ہیں اہل تواضع اور اربابِ خشیت کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرُّوحِ وَرُوحِ الْقُدُّسِ وَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ عین روح اور روح مقدس اور

الْحَقِّ وَالْقِسْطِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

حق و صداقت اور عدل و انصاف کی روح ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو

مُحَمَّدٍ زَعِيمِ الْأَنْبِيَاءِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

تمام انبیاء علیہم السلام کے سردار اور قائد ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرَّاجِرِ الرَّاهِدِ الرَّاهِي الرَّكِي الرَّمُزِيِّ الرَّزِينِ

کی آل پر جو آقا کہ گناہوں سے روکنے والے، دہریزی آسائشوں کے تارک اور روشن و جمیل، پاکیزہ اور صاحبِ زمزم





الرِّفِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

زیب خلعتی اور سب قریب ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

ثَرِينٍ مَنْ وَالَا فِي الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

جو سراپا زینت ہیں اپنے محبوبوں کے لیے قیامت میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السَّابِقِ السَّابِقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آپ کی آل پر جو کہ کریم و فیاض۔ سب سے سبقت لے جانے والے اور دوسروں کو (مقاصد کی طرف) اچلانے والے ہیں۔ اے اللہ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السَّابِقِ بِالْخَيْرَاتِ وَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ خیرات میں سبقت لے جانے والے ہیں (سب سے) اور

سَابِقِ الْعَرَبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

بالمخصوص عربوں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو

مُحَمَّدٍ السَّاجِدِ السَّخِيِّ السَّيِّدِ السَّرِيعِ السَّيِّدِ السَّنْدِ السَّيِّئِ السَّمِيعِ اللَّهُمَّ

کہ ساجد و سخی ہیں۔ پختہ کار اور جلدی کرنے والے ہیں (اور خیر میں) سردار ہیں اور سند و سہارا۔ بلند مرتبت سبب کی شننے والے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سِرْخَلِطُسِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو کہ سرخلیطس ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السَّرَاجِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ سراج ہیں

وَالسَّرَاجِ الْمُنِيرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور روشن چراغ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو

مُحَمَّدٍ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَنَدِ

کہ (ہدایت خود) صراط مستقیم ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر جو کہ سہارا

الْخَلْقِ وَسَعْدِ الْخَلْقِ وَسَعْدِ الْخَلَائِقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

ہیں مخلوق کے اور ساری مخلوق سے نیک بخت ہیں اور سب مخلوقات کیلئے موجب سعادت۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما



سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السَّلَامِ السُّلْطَانِ السَّنَا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو کہ صاحب سعادت اور صاحب سلامت ہیں اور شاہ والا جاہ ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الشَّافِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو خوب کشفادینے والے ہیں جہاں روحانی

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يُؤْتِيهِ الْأَسْقَامُ وَالضَّنَا وَ

امراض سے اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اس گناہ کی جو بیماریاں اور ضعف و ناتوانی پیدا کرے اور

يُوجِبُ النَّقْمَ وَالْبَلَاءَ وَيَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَسْرَةً وَنَدَامَةً وَلِكُلِّ

انتقامی کارروائیوں اور آزمائشوں میں گھرنے کا موجب ہو۔ اور قیامت کے دن (موجب) حسرت و ندامت ہو۔ اور ہر اس

ذَنْبٍ يُعَقِّبُ الْحَسْرَةَ وَيُؤْتِيهِ النَّدَامَةَ وَيُحِبُّ الرِّزْقَ وَيُرْذِلُ الدُّعَاءَ

گناہ کی جو انجام کار حسرت لائے اور ندامت کا باعث بنے اور رزق کو روکے اور دعاء کو قبولیت سے روکے

وَلِكُلِّ ذَنْبٍ مَدُّ حَتَمِهِ بِلِسَانِي وَأَضْمَرْتَهُ بِجَنَانِي أَوْ هَشَّتْ إِلَيْهِ نَفْسِي

اور ہر اس گناہ کی جس کی میں نے تعریف کی اپنی زبان سے یا چھپایا اس کو دل میں یا خوش ہو اطراف اس کے میرا نفس

أَوْ اثْبَتَهُ بِلِسَانِي أَوْ آتَيْتَهُ بِفِعَالِي أَوْ كَتَبْتَهُ بِيَدِي أَوْ ارْتَكَبْتَهُ بِشِدَائِي

یا میں نے ثابت کیا اسے اپنی زبان سے یا اس کا عملی طور پر ارتکاب کیا یا اسے اپنے ہاتھ سے لکھا یا اس کا مرتکب ہوا اپنی قوت سے

أَوْ أَمْرِكَيْتُ فِيهِ عِبَادَكَ وَلِكُلِّ ذَنْبٍ خَلَوْتُ بِهِ فِي لَيْلِي وَنَهَارِي

اور (استغفار کرتا ہوں) ہر ایسے امر سے کہ میں نے گرایا اس میں تیرے بندوں کو۔ اور ہر اس گناہ سے جو میں نے تنہائی میں کیا اپنے شب و روز

وَأَرُحَيْتُ عَلَىٰ الْأَسْتَارِ حَيْثُ لَا يَرَانِي أَحَدٌ إِلَّا أَنْتَ يَا جَبَّارُ فَارْتَابْتُ

میں اور میں نے ٹکائے اپنے اوپر پردے جہاں سے مجھے کوئی نہیں دیکھتا تھا سوائے تیرے اے جبار پس متزدد ہوا

نَفْسِي فِيهِ وَتَحَيَّرْتُ بَيْنَ تَرْكِهِ لَهُ بِخَوْفِكَ وَأَنْتَهَاكِي لَهُ بِحُسْنِ

میرا نفس اس میں اور حیرت زدہ ہوا درمیان ترک کرنے اس کے بسبب تیرے خوف کے اور بسبب کمزور کرنے میرے اس کو بوا اسطرح حسن

الظَّنِّ فِيكَ فَسَوَّلَتْ لِي نَفْسِي الْأَقْدَامَ عَلَيْهِ وَأَنَا عَارِفٌ بِمَعْصِيَتِي فِيكَ

من کے تیرے حق میں پس مزین کیا میرے لیے میرے نفس نے اس کے اقدام کو جبکہ میں جانتے والا ہوں اپنی معصیت کو تیرے حق میں اس گناہ کی وجہ



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السَّيِّفِ اللَّهُمَّ

اے اللہ رحمت و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ سراسر سبقت (حق) ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الشَّارِعِ الشَّافِعِ الشَّاكِرِ

صلوٰۃ و سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو کہ شریعت کے بانی۔ صاحب شفاعت۔ شکر گزار۔

الشَّاهِدِ الشَّائِنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اُمّت کے گواہ اور پر گوشت اور ملائم جلم والے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب کہ

الشَّدِيدِ الشَّدْقِ الشَّرِيفِ الشَّفَاءِ الشَّفِيقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

کہ شدید ہیں (غفار شریعت میں) اور شہید۔ صاحب شرف، سراپا شفاء اور شفیق ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الشُّكْرِ الشُّكْرِ الشُّكْرِ الشُّكْرِ الشُّكْرِ الشُّكْرِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو بہت جزا دینے والے بہت شکر گزار۔ بہت مشہور۔ شمس انوار۔ چمکتے ستارے

الشَّهِيدِ الشَّهِيدِ الشَّهِيدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

بیدار دل۔ گواہ اور بہت بڑے شاہد ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الصَّابِرِ الصَّادِقِ الصَّالِحِ الصَّدِّيقِ الصَّدِّيقِ الصَّدِّيقِ

آل پر جو محبوب کہ صابر۔ صادق۔ صالح۔ سراپا صداقت۔ بہت پیچھے اور صدیق ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاعِدِ البُعْرَاجِ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو کہ شب معراج (فرمانی بیڑھی پر اچھٹے طے میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صِرَاطِ الَّذِينَ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ راہ ہدایت ہیں تیرے

أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

انعام یافتہ لوگوں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ صِحْحِ الْإِسْلَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

پر جو صحیح اسلام والے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب



سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
 کہ صراطِ مستقیم ہیں۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الصَّفْوَةِ عَنِ الزَّلَّاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ  
 اور آپ کی آل پر جو کریم کہ بہت زیادہ درگزر کرنے والے ہیں لغزشوں سے۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الصَّفْوَةِ الصَّفِيِّ  
 سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ بہت درگزر کرنے والے۔ خلاصہ کائنات اور چنے ہوئے

الصُّنْدِيدِ الصَّيِّبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ  
 سردار ہیں اور (عیوب و نقائص سے) بچانے والے ہیں۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الصَّارِبِ بِالْحُسَامِ الْمَكْثُومِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى  
 جو ضرب لگانے والے ہیں ساتھ کاٹنے والی چوڑی تلوار کے۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الصَّارِبِ الصَّيِّبِ  
 سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ ضبط کرنے والے۔ نزاری کرنے والے ہیں

الصَّحَاكِ الصَّحُوكِ الْأَضْحَاكِ الصِّيَاءِ الصِّيَغَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ  
 کفایت کرنے والے بہت ہنسنے والے۔ صمک فرمانے والے۔ بہت ہنسنے والے۔ ہرا باضیاء اور خیرول ہیں۔ لے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الشَّفِيعِ اللَّهُمَّ  
 و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد شفیع کی آل پر۔ لے اللہ

إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ قَصَدَنِي فِيهِ أَعْدَائِي لِهَتِكِي  
 بیشک میں استغفار کرتا ہوں تجھ سے واسطے ہر اس گناہ کے جس میں میرے اعداء نے میری ہتک کا قصد کیا

فَصَرَفْتُ كَيْدَهُمْ عَنِّي وَلَمْ يَعْزِمُوا عَلَيَّ فَضِيحَتِي حَتَّىٰ كَانَتْ لَكَ  
 پس تو نے ان کے مکر کو مجھ سے پھیر دیا۔ اور ان کی اعداء نے میری رسوائی پر حتیٰ کہ گویا کہ میں تیرا

وَلِيٌّ وَلَكَ مُطِيعٌ وَنَصْرَتِي عَلَيْهِمْ كَانَتْ لَكَ وَلِيٌّ فَالِي مَتَى يَا رَبِّ  
 دوست ہوں۔ اور تیرا اطاعت گزار ہوں۔ اور تو نے میری مدد فرمائی ان کے خلاف حتیٰ کہ گویا میں تیرا محبوب ہوں۔ تو کہاں تک لے میرے پروردگار



أَعْصَى فَتَهْلِكُنِي وَطَالَ مَا عَصَيْتُكَ فَلَمْ تُؤَاخِذْنِي وَسَأَلْتُكَ

میں نافرمانی کرتا رہوں گا۔ پھر تو مجھے مہلت دیتا رہے گا۔ اور بہت دفعہ میں نے تیری نافرمانی کی مگر تو نے مواخذہ نہ فرمایا اور میں نے تجھ سے سوال

عَلَى سُوءِ فَعُلِيُّ فَأَعْطَيْتَنِي فَأَمْسَى شُكْرٌ يَقُومُ عِنْدَكَ بِنِعْمَةٍ مِّنْ

کیا باوجود اپنی بد اعمالیوں کے پر تو نے عطا کیا پس میرا کونسا شکر قائم ہو سکتا ہے نزدیک تیرے تیری نعمتوں میں سے صرف

تَعْبِكَ عَلَيَّ وَلِكُلِّ ذَنْبٍ قَدْ مَتُّ إِلَيْكَ تَوْبَتِي مِنْهُ وَوَأَجْهَتُكَ

ایک نعمت کے بدلے میں جو مجھ پر ہیں اور واسطے ہر گناہ کے کہ میں نے پہلے توبہ کی اس سے اور میں نے تیرے روبرو تیری

بِقَسْبِي بِكَ وَالَيْتُ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ

قسم کھائی اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی اور

أَشْهَدُ عَلَى نَفْسِي بِذَلِكَ أَوْلِيَاءُكَ مِنْ عِبَادِكَ أَلَيْ غَيْرِ

گواہ بنایا میں نے اپنے نفس پر اس لوبہ اور قسم میں تیرے اولیاء کرام کو کہ میں نہیں رجوع کروں گا

عَائِدٍ إِلَى مَعْصِيَتِكَ فَلَمَّا قَصَدَنِي إِلَيْهِ بِكَيْدِ الشَّيْطَانِ وَمَالَ

تیری معصیت کی طرف لیکن جب میرا قصد کیا شیطان نے اپنے مکر کے ساتھ طرف اس گناہ کے اور مانگی کیا

بَنِي إِلَيْهِ الْخُدْلَانُ وَدَعَتْنِي نَفْسِي إِلَى الْعِصْيَانِ اسْتَرْتُ حَيَاءً

مجھے طرف اس کے تیری امداد سے محرومی نے اور دعوت دی مجھے میرے نفس نے عصیان کی طرف تو میں نے پردہ کیا حیاء کرتے ہوئے

مِّنْ عِبَادِكَ جُرْأَةً مِنِّي عَلَيْكَ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَكْفِيَنِي مِنْكَ

تیرے بندوں سے جرات کرتے ہوئے تجھ پر حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ نہیں روک سکتا مجھے تیرے (علم و احاطہ سے)

سَتْرٌ وَلَا بَابٌ وَلَا يَحْجُبُ نَظْرَكَ عَنِّي حِجَابٌ فَمَا لَفُتُّكَ فِي الْعِصْيَةِ

کوئی پردہ اور نہ کوئی دروازہ اور نہیں روک سکتا تیری نظر کو مجھ سے کوئی حجاب پس میں نے تیری مخالفت کی نافرمانی برداری

إِلَى مَا نَهَيْتَنِي عَنْهُ ثُمَّ مَا كَشَفْتَ السِّتْرَ عَنِّي وَسَاوَيْتَنِي بِأَوْلِيَاءِكَ

کرنے میں طرف اس امر کے جس سے تو نے منع فرمایا تھا پھر بھی تو نے میری پردہ دری نہ فرمائی اور مجھے برابر ٹھہرایا اپنے اولیاء کے

حَتَّىٰ كَأَنِّي لَا أَنْزِلُ لَكَ مُطِيعًا وَإِلَى أَمْرِكَ مُسْرِعًا وَمِنْ وَعِيدِكَ

حتیٰ کہ گویا میں ہمیشہ سے تیرا اطاعت گزار رہا۔ اور تیرے احکام کی جلد تعمیل کرنے والا۔ اور تیری وعید سے







عِنْدَ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَبْدُ الْكَرِيمِ وَعِنْدَ أَهْلِ النَّارِ عَبْدُ الْجَبَّارِ وَعِنْدَ

اہل جنت کے ہاں عبد الکریم ہے اور اہل دوزخ کے ہاں عبد الجبار اور تمام ملائکہ کے ہاں

سَائِرُ الْمَلَائِكَةِ عَبْدُ الْمَجِيدِ وَعِنْدَ أَهْلِ الْعَرْشِ عَبْدُ الْحَمِيدِ وَ

عبد المجید۔ اہل عرش کے نزدیک عبد الحمید۔ اور انبیاء کرام

عِنْدَ الْأَنْبِيَاءِ عَبْدُ الْوَهَّابِ وَعِنْدَ الْجِنِّ عَبْدُ الرَّحِيمِ وَعِنْدَ الشَّيَاطِينِ

کے نزدیک عبد الوہاب۔ جنوں کے ہاں عبد الرحیم۔ اور شیاطین کے ہاں

عَبْدُ الْقَهَّارِ وَفِي الْجِبَالِ عَبْدُ الْخَالِقِ وَفِي الْبَرِّ عَبْدُ الْقَادِرِ وَفِي الْبَحْرِ

عبد القہار۔ پہاڑوں میں عبد الخالق۔ خشکی میں عبد القادر اور تری میں

عَبْدُ الْمُهَيَّبِ وَعِنْدَ الْحَوْتِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ وَعِنْدَ الْهَوَامِ عَبْدُ

عبد المہیب۔ مچھلیوں کے نزدیک عبد القدوس۔ زہریلے جانوروں کے نزدیک عبد الغیاث

الْغِيَاثِ وَعِنْدَ الْوَحُوشِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعِنْدَ السِّبَاعِ عَبْدُ السَّلَامِ

جنگلی جانوروں کے نزدیک عبد الرزاق۔ اور درندوں کے نزدیک عبد السلام

وَعِنْدَ الْبَهَائِمِ عَبْدُ الْمُؤْمِنِ وَعِنْدَ الطُّيُورِ عَبْدُ الْغَفَّارِ اللَّهُمَّ

چار پائیوں کے نزدیک عبد المؤمن اور پرندوں کے نزدیک عبد الغفار۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْعَطُوفِ

رحمت کاملہ اور سلامتی نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو بہت مہربان

الْعَظِيمِ الْعَفِيفِ الْعَلِمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيِّ الْعَمَدَةِ الْعِمَادِ

عظیم المرتبت۔ درگزر فرمانے والے پاکدامن۔ علم (ہدایت) ہیں علیم و عالیقدر۔ سہارا اور ستون ہیں

الْعَيْنِ الْعَيْنِ وَعَيْنُ الْعَزِّ وَالْعِزِّ وَالنِّعَمِ وَالنِّعْمِ اللَّهُمَّ

موجودات کی آنکھ۔ اور نورانی روشن لوگوں کی چشم بینا۔ مجسمہ عز و جاہ مجسمہ انعامات و نعم۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلِيمِ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر۔ جو آقا کر



الْإِيمَانِ وَالْهُدَى وَالْيَقِينَ وَالْعَلَامَةَ الْغَالِبَ الْغَطُّطِمِ

پرچم ہیں ایمان و ہدایت کا اور یقین کا اور بہت زیادہ علم والے اور غلبہ پانے والے ہیں ناپیدا کنائز مند

الْغُفُورِ الْغَنِيِّ الْغُوثِ الْغِيَاثِ الْغَيْثِ يَا وَاحِدُ الْبَاقِيَّ أَوَّلِ

بہت بخشنے والے۔ غنی۔ فریاد رس۔ بارانِ رحمت۔ سے یکتا ہمیشہ رہنے والے۔ ہر چیز

كُلِّ شَيْءٍ وَأَخْرَجَهُ لِجَعَلَنِي مُنْفَرِدًا فِي الْأَشْتِغَالِ بِكَ وَأَوَّلِ مَنْ

سے اقل اور ہر چیز سے آخر بنا دے مجھے منفرد اپنے ساتھ مشغول رہنے میں۔ اور پہلا ایمان

أَمِنَ بِكَ وَأَقْرَبَ بِرَبُّو بَيْتِكَ وَبَاقِيًا إِلَى أَجَلٍ أَجَلْتَهُ مِنْ غَيْرِ

لانے والا ساتھ اپنے۔ اور اقرار کرنے والا اپنی ربوبیت کا۔ اور باقی رہنے والا اس مدت تک جو تو نے مقرر فرمائی بغیر پیش آنے

عَائِقٍ وَقُصُورِي فِي الْأَخْلَاقِ الْكَائِنَةِ عِنْدَ أَصْحَابِ الْحَائِقِ الَّتِي لَهَا

رکاوٹ اور کوتاہی کے اخلاق میں جیسے ہوتے ہیں نزدیک اربابِ حدود و نقض کے جن کے لیے

سَوَاسِيَةٍ فِي الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ فَكَشَفَ كَشْفَ الْبَسَائِطِ وَالْمَجْرَدَاتِ

برابری ہے اول و آخر میں پس کشف عطا فرما بسائط اور مجردات کا

الَّتِي جَعَلْتَ أَوْلَهَا إِخْرَهَا وَأَوْلَهَا وَصَيَّرَ جَسْمِي نُورًا

جن کے اول کو تو نے آخر کی مانند اور آخر کو اول کی مانند بنایا ہے۔ اور میرے جسم کو بنا دے ایسا نورانی

مُنَاسِبًا لِرُوحِ صَادِرٍ مِنْ مَّظَاهِرِ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ أُنْيَةٍ وَلَا إِضَافَةٍ

جو مناسب ہو اس روح کے جو صادر ہونے والا ہو مظاہر اولیہ سے بغیر تاخیر کے اور بلا واسطہ

شَيْءٍ إِلَّا لِمَنْ وَرَاةَ الْعِبَادَةِ وَالتَّفْهِيمِ وَقَتِ الْعُجْرِ وَأَوْقَفَنِي

کسی شئی کے مگر واسطہ ضرورت تبصیر اور تفہیم کے وقت (بہمان بلا واسطت سے) عاجز آنے کے۔ اور مطلع فرمایا مجھے

عَلَى أَحْوَالِ الْأَجْسَامِ السُّفْلِيَّةِ وَالْعُلُويَّةِ بِحَقَائِقِهَا وَأَعْرَاضِهَا

اجسام سفلیہ اور علویہ کے احوال پر بمع ان کے حقائق اور عوارض کے

رَاجِعَةً إِلَى وَاحِدَةٍ هَالِكَةٍ عِنْدَ جَمِيعِ الْإِضَافَاتِ خِيَالًا وَوَهْمًا

در آئینہ یکہ وہ لوٹنے والے ہوں طرف ایک حقیقت کے۔ فنا ہونے والے ہوں بمع تمام خیالی اور وہمی اضافتوں اور نسبتوں کے



عِنْدَ هَذَا الدَّاعِي وَارْكُزْ فِي قَلْبِي مِثَالَاتٍ لَّا هَوْتِيَّةً بَاقِيَةً مِّنْ غَيْرِ

تزدیک اس طالب دعا کے۔ اور مرکوز فرما میرے قلب میں لاہوتی صورتیں جو ہمیشہ باقی ہوں منتقل

اُنْتِقَالَ حَتَّىٰ أَعَانَهَا غَوَاصًا فِي أَسْرَارِكِ الْاَوَّلِيَّةِ وَالْاٰخِرِيَّةِ اَللّٰهُمَّ

ہوئے بغیر حتیٰ کہ میں ان کا معائنہ کروں تیرے ابتدائی اور آخری اسرار میں غوطہ زنی کرتے ہوئے۔ اے اللہ

اَنْتَ الْوَاٰحِدُ الْبَاقِيْ اَمْرًا لَا وَاَبَدًا وَسَاكِرُ الْمَصْنُوْعَاتِ فِي تَبْدِيْلَاتِ

تو ہی یکتا ہے۔ ازل سے اب تک باقی رہنے والا ہے اور تمام مخلوقات تبدیلیوں اور تفسیروں

وَتَعْيِيْرَاتِ اِقْتِصَاءٍ لِّصِفَةِ الظُّهُورِ وَالْبَطُوْنِ مِنَ الشُّيُوْنِ فَاَسْبِقْنِيْ

کے درپے ہے بسبب اقتضائے ظہور و خفاء کے شیون رباری تعالیٰ کی طرف سے پس مجھے

اِلَى الْخَيْرَاتِ مَحْبُوْبًا عِنْدَ الْاَوَّلِيْنَ اَمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الدَّائِمُ

سبقت عطا فرما طرف بھلائیوں کے در آغا لیکر میں محبوب ہوں نزدیک اولین کے امین۔ اے اللہ تو دائم ہے

فِي الْقُدْسِيَّاتِ اَنْتَ الْاَنَ كَمَا كُنْتَ قَبْلَ اِنْ وَاِنِّيْ فِيْ مَعْرَضِ

بعض صفات قدسیہ کے، تو اب بھی اسی طرح ہے جیسے اس سے پہلے تھا اور میں درپے زوال

الرَّوَالِ وَالْفَنَاءِ فِيْ كُلِّ الْاَوْقَاتِ اَنْتَ الْمُبْقِيْ لِلشَّخْصِ مَعَ

و خفاء کے ہوں تمام اوقات میں، تو ہی باقی رکھنے والا ہے ہر شخص کو جمع

اَلْعَوَارِضَاتِ وَالْمَشَخَّصَاتِ مُتَضَادَّةً بَيْنَهَا بِحَيْثُ يَقْصَدُ

اس کے عوارض اور شخصی امتیازات کے جو باہم ایک دوسرے کی ضد ہیں اس طرح کہ تصد کرتے ہیں

بَعْضٌ اِلَى بَعْضٍ بِالْاِفْنَاءِ وَالْقَهْرِ وَبَعْضٌ بِالرَّحْمَةِ وَالْاٰخِلَاقِ

ان کے بعض دوسروں کے فنا کر دینے اور مغلوب کر لینے کا اور بعض رحمت کا اور حسن اخلاق کا

اِقْتِصَاءً لِّصِفَتِي الْجَلَالِ وَالْجَمَالِ فِي التَّجْلِيْلِ وَالتَّجْوِيْلِ وَ

جس کا تقاضا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات جلال و جمال خواہ نیستی اور فنا طاری کرنے کا خواہ تزئین و آرائش کا اور

قَلْبِيْ بَيْنَ اَصْبَعِيْكَ تَقْلِيْبُهُ كَيْفَ تَشَاءُ فَقَلْبِنِيْ مِنَ الْمَذْمُوْمَاتِ

میرادل تیری دو انگشت قدرت کے درمیان ہے تو اسے الٹا پلٹتا ہے جیسے چاہتا ہے لہذا مجھے تبدیل فرما۔ بڑے اخلاق و عادات



إِلَى الْمَحْمُودَاتِ اللَّهُمَّ بِالتَّعَاقِبِ وَالذِّوَامِ أَرْزُقْنِي وَأَسْرِعْنِي

سے قابل تائش عادات و اخلاق کی طرف۔ اے اللہ تسلسل و دوام کے ساتھ مجھے چلا اور تیز رفتار

فِي التَّصَوُّرَاتِ وَالتَّصْدِيقَاتِ إِلَى التَّحْقِيقَاتِ رَاطِبَةً بِأَلْأَنْوَارِ

بنائصورات و تصدیقات میں طرف ان تحقیقات کے جو تروتازہ ہوں ساتھ انوار کے

الْقَادِرَاتِ عَلَى نَفُوزِ فِي الْكَائِنَاتِ إِمَّا لِلسَّعَادَاتِ أَوِ الرَّاحَاتِ

جو قدرت رکھتے ہیں کائنات میں نفوذ پر واسطے سعادت مندوں کے یا راحت رسانیوں کے

لِلْمُتَوَجِّهِينَ إِلَى رَبِّ الْكَائِنَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

انہیں جو متوجہ ہیں طرف رب کائنات کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَاجِدِ الْمَوْمِلِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا صاحب مجد ہیں۔ امید اور دلاسا دینے والے ہیں اور

الْمَاسِحِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يُعَقَّبُ الْيَأْسُ مِنْ

ذکر و شکر کو مٹانے والے ہیں۔ اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں ہر اس گناہ سے جو انجام کار مایوس کرے

رَحْمَتِكَ وَالْقَنُوطِ مِنْ مَغْفِرَتِكَ وَالْحِرْمَانِ مِنْ سَعَةِ مَا

تیری رحمت سے۔ ناامید کرے تیری مغفرت سے اور محروم کرے تیرے وسیع فضل و کرم سے

عِنْدَكَ وَلِكُلِّ ذَنْبٍ أَمَقْتُ عَلَيْهِ نَفْسِي إِجْلًا لَكَ وَأَظْهَرْتُ

اور ہر اس گناہ سے جس پر میں نے اپنے نفس سے بغض و کینہ رکھا۔ بوجہ تیری تعظیم کے۔ اور ظاہر کی

لَكَ التَّوْبَةَ فَقَبِلْتَ وَسَأَلْتُكَ الْعَفْوَ فَعَفَوْتَ ثُمَّ عَادَ بِي الْهَوَى

تیری طرف توبہ پس تر نے قبول فرمائی۔ اور میں نے عفو کا سوال کیا پس تو نے درگزر فرمائی پھر خواہش نفس نے مجھے

إِلَى مُعَاوَدَتِهِ طَمَعًا فِي سَعَةِ رَحْمَتِكَ وَكَرِهَ عَفْوُكَ نَاسِيًا لِرُؤْيَاكَ

دوبارہ اس کی طرف لوٹایا تیری وسیع رحمت، کرم و عفو کے طمع کی بنا پر۔ تیری وعید کو بھلاتے ہوئے

رَاجِيًا لِجَمِيلِ وَعْدِكَ وَأَسْأَلُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يُوجِبُ سَوَادَ الْوَجْهِ

تیرے خوبصورت وعدوں کی امید پر۔ اور سوال کرتا ہوں تجھ سے (مغفرت کا) ہر اس گناہ کیلئے جو موجب ہو رویا ہی کا جس



يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ أُولِيَاءِكَ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ أَعْدَائِكَ إِذَا أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ

دن روشن ہونے تیرے اولیاء کے چہرے اور سیاہ ہوں گے تیرے اعداء کے چہرے جبکہ ان میں سے بعض توجہ ہوں گے بعض

عَلَى بَعْضٍ يَتَّبِعُونَ فَتَقُولُ لَا تَخْتَصِمُوا لَدُنِّي وَقَدْ قَدَّمْتُ

پر باہم ملامت کرتے ہوئے پس تو فرمائے گا۔ میرے ہاں مت جھگڑو میں نے تمہیں پیشگی مطلع کر دیا تھا

إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

ساتھ غدا ب کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ الْفَارِقِ الْفَارِقِ لِقَلْبِطِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جو فاتح ہیں۔ (حق و باطل میں) فرق کرنے والے ہیں اور روح حق ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَارِقِ الْفَارِقِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو بہت امتیاز کرنے والے ہیں (حق و باطل میں) صاحب

الْفَاتِحِ الْفَاتِحِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

فضیلت۔ بلند مرتبت اور مشکلات حل کرنے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَصِيحِ وَفَصِيحِ اللِّسَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کی آل پر جو آقا کہ فصیح ہیں اور عام فہم زبان والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَجْرِ الْفَخْرِ الْفَدْعِمْ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ (حق و صداقت کی) صبح صادق ہیں نحر انسانیت

الْفَرْدِ الْفَرَطِ الْفَضْلِ الْفَطْنِ الْفَلَاحِ الْفَرَاخِ اللَّهُمَّ

و خلقت ہیں اور دلیر کیا۔ نشان راہ ہدایت (روز قیامت میں) ہمارے لیے سامان مغفرت۔ سراپا فضل و عطانت اور کامیابی اور مجسمہ رحمت ہیں

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَهُمْ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ سراپا ہنم و دانش

وَفَوَاتِحِ الثُّورِ وَفِئَةِ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

نورانیت کے سرچشمہ اور اہل اسلام کے مہا موادعی ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما



سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَارِي الْقَاسِمِ الْقَاضِي

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ قاری (قرآن)۔ قاسم (خیرات و خزان اللہ) ہیں۔

الْقَانِتِ الْقُدْسِ الْمُقَدَّسِ الْأَقْدَسِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

فیصل کرنے والے مطیع خداوند تعالیٰ۔ سراپا طہارت، مقدس اور سب سے پاکیزہ ترین ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَائِلِ الْقَائِمِ الْقِتَالِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ قول حق والے۔ حق کے ساتھ قائم در دشمنان خداوند تعالیٰ کے

الْقَتُولِ الْقَائِدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

ساتھ بہت قتل و قتل کرنے والے۔ رہبر و رہنما ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد کی آل پر

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَائِدِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْغُرِّ الْمُحْجَلِينَ اللَّهُمَّ

جو آقا کہ خیر کے قائد۔ اور روشن چہروں اور نورانی اعضاء و رسول کے قائم ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقُشُورِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ جامع الخیرات

الْقَتْمِ الْقَرَشِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

اور معطی خیرات اور قرشی ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ قَدَمَاهُ قَدَمُ صَدِيقِ اللَّهِ صَلَّى وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

جس آقا کے قدم صدق کے قدم ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْقَرِيبِ الْقَسَمِ الْقَمَرِ الْقَائِدِ الْقِيَمِ الْقَوِيِّ اللَّهُمَّ

آپ کی آل پر جو کہ (بہر مومن سے) قریب۔ (ام میں سے) اس اُمت کا اھنہ ہیں۔ ماہ تاباں۔ مجاہد تیار کرنے والے بکران صاحب قوت

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْكَافِ الْكَافِ

ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو روکنے والے ہیں (باطل سے) کفایت کرنے والے ہیں

الْكَافَةِ الْكَرِيمِ الْمَكْرَمِ الْأَكْرَمِ الْكَافِي الْكَامِلِ الْكَبِيرِ اللَّهُمَّ صَلِّ

سب کو۔ بزرگ۔ کرم۔ بہت بلند مرتبت۔ کفایت فرمانے والے۔ کامل۔ بہت بڑے (شرف) والے ہیں۔ اے اللہ



وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَاثِفِ الْكَرْبِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کے دور کرنے والے ہیں رنج و الم کے

وَكَافَةِ النَّاسِ وَكَامِلٍ فِي جَمِيعِ اُمُوْرِهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

راہیکے بمنزلہ انساؤں کی جماعت کے ہیں اور کامل ہیں اپنے تمام امور میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَثِيْر الصَّمْتِ

زما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو زیادہ خاموش رہنے والے

وَكَرِيْمِ الْمَخْرَجِ وَكَاشِفِ الْغُمَّةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

بزرگ مقام ولادت والے اور مشکلات کو دور کرنے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْكَفِيْلِ الْكَنْزِ الْكَوْكَبِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو زومہ اٹھانے والے۔ کنز (رحمت) بڑے

الْكَنْدِيْدَةِ وَكَهْيَعَصِّ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ستارے اور کھلیعص ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَيْبِ اللِّسَانِ اللِّسَنِ اللِّطِيْفِ

اور آپ کی آل پر جو آقا کے انتہائی عقلمند زبان (حق) ترجمان فصیح پاکیزہ

اللُّوْذِ عِيِّ اللِّيْتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

زیرک۔ شہر دل ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَامُوْنِ الْبَارِحِ الْمُوْمَمِ الْمُبَارِكِ

آپ کی آل پر جو آقا کے امن و امان میں ہیں۔ عطا کرنے والے مقصود (مخلوق) اور بابرکت ہیں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ

سَيِّفِ الْاِسْلَامِ اَللّٰهُمَّ قِنَا مِنْ سَيِّئَاتِ مَنْ يَّمْكُرُ بِنَا اَبَدًا

اسلام کی شمشیر بے نیام ہیں۔ اے اللہ ہمیں بچا ان اعداء کی برائیوں سے جو ہمارے ساتھ ہو کر فریب کرتے ہیں ہمیشہ



مَا أَبْقَيْتَنَا وَأَحْفَظْنَا بِحِفْظِكَ وَأَحْرُسْنَا بِخَاصِّ حِرَاسَتِكَ وَ

جب تک تو ہمیں باقی رکھے اور ہمیں محفوظ فرما اپنے حفظ خاص کے ساتھ اور نگہبانی فرما اپنی خاص نگہبانی اور

حِمَايَتِكَ وَبِجَمِيعِ رِعَايَتِكَ وَجَمِيلِ كِرَامَتِكَ وَآكُفْنَا

حمایت کے ساتھ اور کامل رعایت اور حسن کرامت کے ساتھ اور ہمیں کفایت فرما

بِحُسْنِ كِفَايَتِكَ بِسْمِ اللَّهِ يَا بِنَاتِ تَبَارَكَ حَيْطَانُنَا يَسْ سَقْفُنَا

اپنے حسن کفایت کے ساتھ بسم اللہ ہمارا دروازہ ہے۔ تبارک ہماری دیواریں ہیں۔ یسین ہماری چھت ہے

كَهَيْعَصَ كِفَايَتُنَا حَمَسَقَ حِمَايَتُنَا أَلَمْ جِيُوْشُنَانِ وَالْقَلَمِ

کھیعص ہماری کفایت ہے۔ حمسق ہماری حمایت ہے۔ اتم ہمارے شکر ہیں۔ ن والقلم

سَيُوفُنَا بِسْمِ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَنْ يَمِينِي بِسْمِ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

ہماری تلواریں ہیں۔ بسم اللہ لا الہ الا اللہ میرے دائیں ہے۔ بسم اللہ لا الہ الا اللہ

عَنْ يَسَارِي بِسْمِ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَنْ قَدَامِي بِسْمِ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا

میرے بائیں ہے۔ بسم اللہ لا الہ الا اللہ میرے آگے ہے بسم اللہ لا الہ الا اللہ

اللَّهُ عَنْ خَلْفِي بِسْمِ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَنْ فَوْقِي بِسْمِ اللَّهِ لَا إِلَهَ

اللہ میری پشت پناہ ہے۔ بسم اللہ لا الہ الا اللہ میرے اوپر سامنے ہے بسم اللہ لا الہ الا اللہ

إِلَّا اللَّهُ عَنْ تَحْتِي بِسْمِ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَنْ حَوْلِي بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ

لا اللہ میرا ثبات قدم ہے۔ بسم اللہ لا الہ الا اللہ اللہ میری ہر جانب محیط ہے اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کی

وَمِنَ اللَّهِ وَإِلَى اللَّهِ وَلَا غَالِبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا أَحَدٌ سِوَى اللَّهِ وَلَا

ذات کے ساتھ اللہ کی طرف سے اور اللہ کی طرف اور نہیں غالب مگر اللہ نہیں کوئی موجود سوائے اللہ کے اور نہیں کوئی

أَحَدٌ مِّثْلَ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ وَأَسْتَفْتِحُ بِاللَّهِ وَأَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَلَا

مثل اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اور مدد طلب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ اور توکل کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پر اور نہیں

شَيْءٌ كَمِثْلِهِ حَسْبِيَ اللَّهُ وَرَضِيْتُ بِاللَّهِ وَأَمَنْتُ بِاللَّهِ وَفَوَّضْتُ

کوئی چیز مانند اس کے۔ کافی ہے مجھے اللہ تعالیٰ میں راضی ہوں اللہ تعالیٰ پر۔ اور ایمان لایا ساتھ اللہ کے اور سونپے



أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَمَا نَصُرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا صَدِرْتِي إِلَّا بِاللَّهِ

اپنے تمام امور اللہ کو۔ نہیں مدد و نصرت مگر اللہ تعالیٰ کے پاس سے۔ نہیں میرا صبر مگر ساتھ خداوند تعالیٰ کے

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ وَنِعْمَ الْقَادِرُ اللَّهُ وَنِعْمَ الْمَوْلَى اللَّهُ

اور نہیں میری کارسازی مگر ساتھ اللہ تعالیٰ کے۔ اچھا قدرتوں والا ہے اللہ۔ اور اچھا مولیٰ ہے اللہ تعالیٰ

وَنِعْمَ النَّصِيرُ اللَّهُ وَلَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَصْرِفُ

اچھا مددگار ہے اللہ تعالیٰ۔ نہیں دیتا حسنات مگر اللہ تعالیٰ اور نہیں دور کرتا

السَّيِّئَاتِ إِلَّا اللَّهُ وَمَا بِنَا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَإِنَّ الْأَمْرَ

برائیوں کو مگر اللہ تعالیٰ اور جو بھی ہے ہمارے پاس کوئی نعمت پس وہ اللہ کی طرف سے ہے اور بیشک امر

كُلُّهُ لِلَّهِ وَأَسْتَعِينُ بِاللَّهِ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى أَنْبِيَاءِ

تمام کا تمام اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور میں توفیق طلب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اور استغفار کرتا ہوں اللہ سے اور درود بھیجے

اللَّهُ وَمُرْسَلِ اللَّهِ وَعَلَى الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَعَلَى سَيِّدِنَا

اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء و رسل پر اور اپنے نیک بندوں پر۔ اور سیدنا

الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْقَادِرِ وَرَبِّيَ اللَّهُ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ

ابو محمد عبد القادر ولی اللہ پر۔ بیشک وہ (نخط حضرت) سلیمان (علیہ السلام) کی طرف سے ہے اور بیشک وہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَنْ لَا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ

یوں ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی آغاز ہے جو بہت رحم فرمانے والا مہربان ہے۔ یہ کہ مجھ پر سرکشی نہ کرو اور تاجہداری کرتے ہوئے میری

كُتِبَ اللَّهُ لَا غُلْبَةَ إِلَّا أَنَا وَمُرْسَلِي إِنَّ اللَّهَ قَوْمِي عَزِيزٌ لَا يَضُرُّكُمْ

حاضری دو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمادیا ہے ہر حال میں میں غالب ہوں گا اور میرے رسل کرام بیشک اللہ تعالیٰ قومی غالب ہے۔ نہیں ضرر و گناہیں

كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ان کا کفر و باجھ۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا احاطہ کرے والا ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَازِ وَالْمَازِ الْمَعِينِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا ماز ماز ہیں۔ اور شفقت یابی ہیں رحمت خداوندی کا





اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کے

المُقْتَبِعِ الْمُرَابِطِ الْمَجَاهِدِ الْمُتَوَاضِعِ الْمَفِيدِ الْمَدْعُوِّ الْمَقْبُولِ اللَّهُمَّ

بہت تقاضے کرنے والے، محافظ (سرحدات اسلام) اور مجاہد۔ تواضع پیشہ۔ نفع بخش۔ پکارے جانے والے (صفاقی ناموں کے ساتھ) آخری

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُقْتَفِ

نبی ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو کہ آخری (نبی) ہیں

الْمُتَرَقِّبِ الْمَقْبُولِ الْمُبْتَهَلِ الْمُبِرِّ الْمُبْرَأِ الْمَبْعُوثِ اللَّهُمَّ

بہت نغمیان، مقبول خداوند تعالیٰ۔ زاری کرنے والے۔ محسن اور پاکدامن مرسل ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُبَشِّرِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کے بشارت دینے والے ہیں

وَالْمُبَشِّرِ الْأَيْسِينَ وَمُؤَدِّ مَوْدِ اللَّهِ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

(سب اہل طاعت کو اور بالخصوص) بشارت دینے والے ہیں مایوسوں کو حقوق ادا کرنے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَبْعُوثِ بِالْحَقِّ اللَّهُمَّ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کے حق کے ساتھ مبعوث ہوئے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو

الْمُبْلَغِ الْمُبِيحِ الْمُبِينِ الْمُبْتَلِ الْمُبْتَسِمِ

آقا (احکام خداوند کے) مبلغ اور ظاہر کرنے والے۔ خود ظاہر الصدق اور بہت وضاحت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف

الْمُتَرَبِّصِ الْمُتَرَجِّحِ الْمُتَفَرِّغِ الْمُتَّقِيِ الْمُتَلَوِّ الْمُتَلَوِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ

منقطع ہونے والے بہت سکرانے والے۔ بہت انتظار فرمانے والے اہل عصیان کے باز آنے کی بہت دم فرما۔ فائق۔ پرہیزگار تلاوت کئے ہوئے رکتب ہماویر

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُتَمِّمِ

میں اور ان تلاوت کی گئی ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا تکمیل فرمانے والے ہیں (مکالم اخلاق کی)



الْمُتَمِّمِ الْمُتَمَكِّنِ الْمُتَوَسِّطِ الْمُتَوَكِّلِ الْمُتَهَجِّدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور نجات خود کامل ہیں، صاحب اقتدار صاحب اعتدال متوکل - تمجد گزار - اے اللہ صلوٰۃ و سلام

سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُبْتَلِيْنَ الْمَثْبُتِ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ قوی، ثابت قدم رکھنے والے اور

الْمَثْبُتِ الْمُجَابِ الْمُبَادِلِ الْمُجْتَبَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

ثابت قدم رکھے ہوئے ہیں۔ مقبول الدعاء (حق کے لیے) جھگڑنے والے۔ چنے ہوئے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام سرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُبْجِبِ الْمُبْجِدِ الْمُبْجِرِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا قبول کرنے والے ہیں (دعوت کے) صاحب مجب ہیں پناہ دینے

الْمَحْجَةِ الْمَحْرُضِ الْمَحْفُوظِ الْمُحَرَّمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

والے ہیں، درمیانی راستہ والے۔ برا بھلا سمجھنے والے۔ محفوظ حرمت و عزت دئے ہوئے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَوْصُوفِ بِالْكَرَمِ وَالْجُودِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ جو دو کرم کے ساتھ موصوف ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ

الْمُذْعِنِ الْمَذْكُورِ الْمَرْتَضَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ

صاحب یقین، نصیحت کرنے والے، ذکر کئے ہوئے (کتب سماویہ میں) اور پسندیدہ خداوند تعالیٰ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّفِ

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ اللہ تعالیٰ کی

اللَّهِ الْمَسْئُولِ بِسْمِ اللَّهِ الْخَالِقِ الْكَبِيرِ الْجَرِيْرِ لِكُلِّ خَائِفٍ

سوتلی ہوئی تلوار ہیں۔ بسم اللہ الخالق الاکبر پناہ ہے واسطے ہر خوفزدہ کے۔ میں

طَاقَةِ الْمَخْلُوقِ مَعَ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ الْجَلِيلِ الْجَبَّارِ الْقَاهِرِ الْقَهَّارِ

طاقت واسطے مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے۔ ساتھ نام اللہ جلیل، جبار۔ قاهر و قہار کے



بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا يَسُوقُ الْخَيْرَ إِلَّا اللَّهُ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ

ساتھ نام اللہ تعالیٰ کے جو چاہا اللہ تعالیٰ نے نہیں چلا تاخیر کو (طرف بندوں کے) مگر اللہ تعالیٰ۔ ساتھ نام اللہ تعالیٰ کے جو مشیت ہو

اللَّهُ الْخَيْرُ كُلُّهُ مِنْ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا يَصْرِفُ

اللہ تعالیٰ کی۔ تمام خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ساتھ نام اللہ تعالیٰ کے جو مشیت ہو اللہ تعالیٰ کی نہیں پھیرتا برائی

السُّوءَ إِلَّا اللَّهُ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ مَا كَانَ مِنْ نِعْمَةٍ

کو مگر اللہ تعالیٰ۔ ساتھ نام اللہ تعالیٰ کے جو چاہے اللہ تعالیٰ۔ جو نعمت موجود ہے (ہمارے پاس)

فَمِنْ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

پس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ ساتھ نام اللہ تعالیٰ کے جو چاہے اللہ تعالیٰ نہیں پھرنا (معیشت) اور ترقوت (طاقت) کی (مگر

اللَّهُمَّ الْكُفَى كُلِّ مَهْمٍ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ وَمِنْ أَيْنُ شِئْتَ

ساتھ تو (پس) خداوند تعالیٰ کے۔ اے اللہ میری کفایت فرما ہر مہم اور مشکل میں جہاں سے چاہے اور جس جگہ سے چاہے

حَسْبِيَ الرَّبُّ مِنَ الْمَرْبُوبِينَ حَسْبِيَ اللَّهُ الْخَالِقُ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ

کافی ہے مجھے پروردگار تربیت پانے والوں سے۔ کافی ہے مجھے اللہ خالق اپنی مخلوق سے۔

حَسْبِيَ اللَّهُ الرَّازِقُ مِنَ الْمَرْزُوقِينَ حَسْبِيَ اللَّهُ السَّاتِرُ مِنَ

کافی ہے مجھے اللہ رازق اپنے روزی دئے ہوؤں سے۔ کافی ہے مجھے اللہ پردہ پرکش

الْمَسْتُوْرِينَ حَسْبِيَ اللَّهُ النَّاصِرُ مِنَ الْمَنْصُوْرِينَ حَسْبِيَ

پردہ دیئے ہوؤں سے۔ کافی ہے مجھے اللہ مددگار مدد دیئے ہوؤں سے۔ کافی ہے مجھے

اللَّهُ الْقَاهِرُ مِنَ الْمُقَاهَرِينَ حَسْبِيَ اللَّهُ الَّذِي هُوَ حَسْبِيَ

اللہ قاهر اس کا نشانہ تہربنے ہوؤں سے۔ کافی ہے مجھے اللہ تعالیٰ جو کہ مجھے کفایت کرنے والا ہے۔

حَسْبِيَ مَنْ لَمْ يَزَلْ حَسْبِي حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ حَسْبِيَ

کافی ہے مجھے جو ہمیشہ سے مجھے کفایت فرماتا رہا ہے۔ کافی ہے مجھے اللہ تعالیٰ اور اچھا کارساز ہے کافی ہے

اللَّهُ مِنْ جَمِيعِ خَلْقِهِ إِنَّ وَرِثَةَ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ

مجھے اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق سے۔ بیشک میرا یا رو مددگار اللہ تعالیٰ ہے جس نے کتاب کو نازل فرمایا اور



وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَإِذَا قُرَأَتِ الْقُرْآنُ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَ

وہ مدد فرماتا ہے نیکو کاروں کی - اور جب قرآن پڑھو گے بنا دیں گے ہم درمیان آپ کے اور

بَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا حَسْبِيَ اللَّهُ

درمیان ان کے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے مخفی حجاب - کافی ہے مجھے اللہ تعالیٰ

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ خَبَأَتْ

نہیں کوئی معبود برحق مگر وہی، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہ ہی مالک ہے عرش عظیم کا میں نے چھپایا

نَفْسِي فِي خَزَائِنِ بِسْمِ اللَّهِ أَقْفَالَهَا ثِقَتِي بِاللَّهِ مَفَاتِيحُهَا

ہے اپنے نفس کو خزانوں میں کہ بسم اللہ ان کے تالے ہیں اور میرا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ان کی چابیاں ہیں

لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِذَا فَعَرَّبَكَ اللَّهُمَّ عَنْ نَفْسِي لِمَا أُطِيقُ وَ

نہیں ذرہ بھر طاقت مگر ساتھ اللہ تعالیٰ کے - دفاع کرتا ہوں میں اپنے نفس کی طرف سے ہر اس شے کا جس کی طاقت رکھتا ہوں

مَا لَا أُطِيقُ لَا طَاقَةَ لِمَخْلُوقٍ مَعَ قُدْرَةِ الْخَالِقِ حَسْبِيَ اللَّهُ

اور جس کی طاقت نہیں رکھتا، نہیں طاقت کسی مخلوق کے لیے ساتھ قدرت خالق کے - کافی ہے مجھے

نِعْمَ الْوَكِيلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ط

اللہ تعالیٰ اچھا کار ساز ہے - نہیں پھرنا (برائی سے) اور نہ طاقت (طاعت کی) مگر ساتھ اللہ تعالیٰ بلند مرتبت عظمت والے کے

حَسْبُنَا اللَّهُ لَدِينِنَا حَسْبُنَا اللَّهُ لِدُنْيَانَا حَسْبُنَا اللَّهُ لِمَا أَهْتَبْنَا

کافی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دین کے لیے - کافی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری دنیا کے لیے - کافی ہے اللہ تعالیٰ ہماری ہمت میں

حَسْبُنَا اللَّهُ لِمَنْ بَغَى عَلَيْنَا حَسْبُنَا اللَّهُ لِمَنْ حَسَدَنَا حَسْبُنَا

کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری مخالفت کرنے والوں کیلئے - کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ حسد کرنے والوں کیلئے - کافی ہے ہمیں

اللَّهُ لِمَنْ كَادَنَا بِسُوءِ حَسْبُنَا اللَّهُ عِنْدَ الْمَوْتِ حَسْبُنَا اللَّهُ عِنْدَ

اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ برا مکر کرنے والوں کے لیے - کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ وقت ہماری موت کے - کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ

الْقَبْرِ حَسْبُنَا اللَّهُ عِنْدَ الْمَسْأَلِ حَسْبُنَا اللَّهُ عِنْدَ الصِّرَاطِ حَسْبُنَا

قبر میں - کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ وقت سوالات کے - کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نزدیک پلھراط کے - کافی ہے ہمیں



اللَّهُ عِنْدَ الْحِسَابِ حَسْبُنَا اللَّهُ عِنْدَ الْمِيزَانِ حَسْبُنَا اللَّهُ عِنْدَ الْجَنَّةِ

اللہ تعالیٰ وقت حساب کے۔ کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نزدیک میزان کے۔ کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نزدیک جنت

وَالْقَارِ حَسْبُنَا اللَّهُ عِنْدَ الْإِلْقَاءِ حَسْبِيَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

اور دوزخ کے (فیصلہ کے)۔ کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ وقت دیدار کے۔ کافی ہے مجھے اللہ تعالیٰ کہ میں عبود برحق مگر وہی

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۗ حَسْبِيَ اللَّهُ لِيَدِينِي حَسْبِيَ اللَّهُ لَهَا

میں نے اسی پر توکل کیا ہے۔ اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ کافی ہے مجھے اللہ تعالیٰ میرے دین کے لیے، کافی ہے مجھے اللہ تعالیٰ

أَهْمَنِي حَسْبِيَ اللَّهُ لِمَنْ بَغَى عَلَيَّ حَسْبِيَ اللَّهُ لِمَنْ حَسَدَنِي حَسْبِيَ

ہر پریشانی والے امر میں۔ کافی ہے اللہ تعالیٰ مجھے ظلم کرنے والوں کی طرف سے۔ کافی ہے اللہ تعالیٰ مجھے حسد کرنے والوں کی طرف سے۔ کافی ہے

اللَّهُ لِمَنْ كَادَنِي بِسُوءٍ حَسْبِيَ اللَّهُ عِنْدَ الْمَوْتِ حَسْبِيَ اللَّهُ عِنْدَ

اللہ تعالیٰ میرے ساتھ برا کر کے دانوں کی طرف سے۔ کافی ہے اللہ تعالیٰ مجھے نزدیک موت کے۔ کافی ہے اللہ تعالیٰ مجھے وقت

الْمَسْئَلَةِ فِي الْقَبْرِ حَسْبِيَ اللَّهُ عِنْدَ الْمِيزَانِ حَسْبِيَ اللَّهُ عِنْدَ

قبر میں سوال کئے جانے کے۔ کافی ہے اللہ تعالیٰ وقت وزن کئے جانے اعمال کے۔ کافی ہے مجھے اللہ تعالیٰ صراط جہنم

الصِّرَاطِ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ

پر گزرتے وقت کافی ہے اللہ تعالیٰ مجھے نہیں کوئی معبود برحق مگر وہی۔ اسی پر توکل کیا ہے میں نے اور وہی مالک ہے عرش

الْعَظِيمِ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ يَا حَلِيمُ يَا عَلِيمُ أَنْتَ رَبِّي وَعِلْمُكَ

عظیم کا۔ اے بلند شان والے۔ اے مالک عظمت۔ اے صاحب علم۔ اے دائمی علم والے۔ تو ہی میرا رب ہے اور تیرا علم

حَسْبِي فَنِعْمَ الرَّبُّ رَبِّي وَنِعْمَ الْحَسْبُ حَسْبِي تَنْصُرُ مَنْ تَشَاءُ

مجھے کافی ہے۔ پس اچھا رب ہے رب میرا، اور اچھا کفایت کرنے والا ہے میرا کفایت کرنے والا۔ تو جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے

وَأَنْتَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اور تو ہی غالب رحم فرمانے والا ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُرْتَبِلِ الْمُرْحُومِ الْمُرْسَلِ اللَّهُمَّ صَلِّ

کی آل پر جو آقا کہ برتر تقییل طعام علیہ پیٹ والے ہیں۔ ترتیل سے پڑھنے والے۔ رحمت کے ساتھ بھیجے ہوئے اور رسالت دئے ہوئے ہیں اے



وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَدِيْنَةِ الْعِلْمِ

اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ شہر علم و دانش ہیں

وَمُرْتَقِعِ الدَّرَجَاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی

اور بلند درجات والے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اِلْمُرْحَمَةِ الْمُرْتَبِدِ الْمُرْعَبِ الْمُرْعَمَةِ الْمَرْءِ

آل پر جو آقا کہ سراپا رحمت ہیں۔ راہ ہدایت دکھانے والے۔ ترغیب دلانے والے۔ لوگوں کی جائے پناہ ہیں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَنْزِلِ

اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ زائل کرنے والے ہیں

الْغُمَّةَ الْمُسْتَجِيبِ الْمُسْتَعِيْذِ الْمُسْتَغْفِرِ الْمُسْتَعِيْثِ اَللّٰهُمَّ

عموں کے۔ قبول کرنے والے ہیں (مغذتوں کے) پناہ مانگنے والے، استغفار کرنے والے اور مدد طلب کرنے والے ہیں (اللہ تعالیٰ سے) اے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اِلْمُسْتَغْنٰی

اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا صاحب استغناء،

اَلْمُسْتَقِيْمِ الْمُسَدِّدِ الْمُسْرٰی بِہِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

صاحب استقامت ہیں۔ بچھلنے و مضبوطی بخشنے والے ہیں جنہیں معراج کرائی گئی ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَلْمُسْعُوْدِ الْمُسْلِمِ الْمُسَلِّمِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو کہ سعادت مند، سلامتی بخشنے اور سلامتی بختے ہوئے ہیں

اَلْمَسِيْحِ الْمَشَاوِرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مسیحا اور مشورے لینے والے ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر۔

وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَلْمَشْدَبِ الْمَشْرَدِ الْمَشْفَقِ الْمَشْفَعِ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ (درمیانے) پہلے جسم والے (اپنے وطن سے) نکالے ہوئے سرخس مائل رنگت والے

اَلْمَشْفُوْعِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی

حق شفاعت دئے ہوئے۔ شفاعت قبول کئے ہوئے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی



اَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَشْهُورِ الْمَشِيحِ الْمَشِيرِ الْمَصَارِعِ الْمَصَافِحِ

آل پر جو مشہور۔ بے داغ۔ چست و مستند۔ پچھاڑنے والے اور درگزر کرنے والے ہیں۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ

اَلْمُضْبَاحِ الْمُصَدِّقِ الْمُصَدِّقِ الْاَصْدَقِ اَللّٰهُمَّ

روشن چراغ ہیں۔ بہت تصدیق کرنے والے راہنما و کتب سابقہ کی تصدیق کئے ہوئے ہیں۔ سچے مانے ہوئے ہیں، بہت سچے ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُصَلِحِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا مصلح ہیں محفوظ

اَلْمُصَوِّنِ الْمُنْصَحِ الْمُصْطَفٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلِّ وَسَلِّمْ

قدر و منزلت والے سردار اور منتخب ہیں جن پر درود بھیجا گیا ہے (خاتمی و خلق کی طرف سے) اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُّصَحِّحِ الْحَسَنَاتِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ حسنات کی درستگی کرنے والے ہیں

اَلْمُضَرِّي الْمَضِيِّ الْمَطَّاعِ الْمَطَّلِعِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

مضر (تہلیل) سے ہیں۔ ناقذ فرمانے والے ہیں (احکام شرع کو) اطاعت کئے ہوئے اور خلائق اشیاء پر مطلع ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَطْهَرِ الْمَطْهَرِ الْاَطْهَرِ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ پاک کرنے والے ہیں۔ خود پاک اور اطہر و

اَلطَّاهِرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

طاہر ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ مُّطَهِّرِ الْجَنَاتِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جو آقا دلوں کو پاک کرنے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَطِيْعِ الْمَطْفِرِ الْمَطْهَرِ الْمَعْرُوفِ الْمَعْرُوفِ

اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ اطاعت گزار صاحب ظفر، (حق کو) ظاہر کرنے والے، نامور، غلبہ دینے والے



الْمُعْتَبِ الْمُعْتَبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آخر میں آنے والے۔ آخری نبی۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُعْطَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَمِ الْمَعْلُومِ وَمُعَلِّمِ الْأُمَّةِ

سیدنا محمد کی آل پر جو عطا کرنے والے۔ تعلیم دینے والے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے (تعلیم دئے ہوئے)۔ اعلان حق فرماتے والے۔ امت

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِبْنِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

معلم ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو آقا کہ

الْمُعَلَّى الْمُعَيَّنِ الْمُعَزَّمِ الْمُغْنَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

بلندی بخشنے والے۔ مسلم مقتدا۔ اعانت فرما۔ عزیمت و بلند ہستی بخشنے والے۔ سراپا نعمت۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِبْنِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبِفَتْاحِ وَمِفْتَاحِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو کہ (حل مشکلات کی) چابی ہیں۔ اور جنت کی

الْجَنَّةِ وَمِفْتَاحِ الرَّحْمَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

چابی اور رحمت کی چابی ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِبْنِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُغْنَى الْمُفَخِّهِ الْمُفْضَالِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا غنی کرنے والے۔ تغلیم کئے ہوئے، ہمت نفل فرمانے والے ہیں

الْمُفْضِلِ الْمُفْلِحِ الْمُقْتَصِدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

فضیلت دینے والے۔ کثادگی بخشنے والے۔ کامران۔ میاں رو ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِبْنِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُقْتَفَى الْمُقَدَّسِ الْمُقَدَّمِ الْمُقَدِّمِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ آخر میں تشریف لانے والے۔ مقدس مرتبہ میں سابق۔ سبقتینے

الْمُقَرَّرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِبْنِ سَيِّدِنَا

والے قرارداد کرنے والے ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الْمُقْسِطِ الْمُقْسِمِ الْمُقْفَى الْمُقْوَمِ الْمُقْصِدِ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ

جو آقا کہ عادل۔ تقسیم کرنے والے۔ آخر میں آنے والے۔ سیدھا کرنے والے۔ مقصود (خالق و مالک) ہیں۔ لے اللہ



صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُّقْبِلٍ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کرغزشتات سے درگزر

الْعَثْرَاتِ وَمُقْبِلِ السَّنَةِ بَعْدَ الْفِتْرَةِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

کرنے والے ہیں اور سنت قدیمہ کو قائم کرنے والے ہیں انقطاعِ رحل کے بعد۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُرَكَّبِي الْمُرْمَرِ الْمُرْمِلِ الْمُبَجَّلِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کر پاک کرنے والے محفوظ و مامون۔ چادر اوڑھنے والے۔ عظمت بخشنے والے

الْمُبَجَّلِ الْمُبَكَّتَفِي الْمُسَبِّحِ سُبْحَانَ مَلَأَ الْمِيزَانَ وَمُنْتَهَى الْعِلْمِ

جمال و زینت دینے والے۔ اتقاد و انحصار کرنے والے۔ تسبیح کہنے والے ہیں اللہ سبحان کی مطابق میزان کی وسعت کے اور

وَمَبْلَغِ الرِّضَاءِ وَزِينَةِ الْعَرْشِ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَاً مِنْ اَللّٰهِ

منتہائے علم کے اور حد رضائے تمک اور مقدار عرش اعظم کے۔ نہیں جائے پناہ اور مقام نجات اللہ تعالیٰ سے

اِلَّا اِلَيْهِ سُبْحَانَ عَدَدِ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَعَدَدِ كَلِمَاتِ اَللّٰهِ

مگر طرف اسی کے۔ پاکیزگی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جفت اور طاق کی تعداد کے مطابق۔ اور اللہ تعالیٰ کے تمام کلمات

التَّامَّاتِ كُلِّهَا اَسْأَلُكَ السَّلَامَةَ بِرَحْمَتِكَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ

تمام کی تعداد کے مطابق۔ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے سلامتی کا بطفیل تیری رحمت کے۔ نہیں پھرنا اور زلفات

اِلَّا بِاَللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ هُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ نِعْمَ

مگر ساتھ اللہ کی توفیق کے جو بلند شان عظیم ہے۔ وہ مجھے کافی ہے اور اچھا کار ساز ہے اچھا

الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ سُبُوْحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلٰٓئِكَةِ

مولیٰ اور اچھا مددگار ہے۔ بہت پاک، بہت مقدس ہے رب ہمارا، رب ملائکہ اور

وَالرُّوْحِ سُبْحَانَ خَالِقِ التُّوْرِ سُبْحَانَ مَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلٰی كُلِّ

روح کا۔ پاک ہے خالق تور کا۔ پاک ہے وہ جو نجران ہے ہر ایک پر

يَهَا كَسَبَتْ سُبْحَانَ اَللّٰهِ اَضْعَافَ مَا سَبَّحَهُ وَيُسَبِّحُهُ جَمِيْعٌ

اس کی کارکردگی میں۔ پاکیزگی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کئی گنا اس سے جو تسبیح کی اور تسبیح کرے گی اس کی تمام



خَلَقَهُ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَىٰ وَكَمَا يَتَّبِعُنِي لِكَرَمِ وَجْهِ رَبِّنَا

مخلوق جیسے کہ پسند فرماتا ہے رب ہمارا اور خوش ہوتا ہے اور جیسے کہ لائق ہے ہمارے رب کی ذاتی بزرگی

وَعِزِّ جَلَالِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ أَضْعَافٌ مَّا حَمِدَهُ وَيُحَمِّدُهُ جَمِيعٌ

اور غلبہٴ جلال کے۔ اور حمد ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کئی گنا اس سے جو حمد کی اور کرے گی اس کی تمام

خَلَقَهُ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَىٰ وَكَمَا يَتَّبِعُنِي لِكَرَمِ وَجْهِ رَبِّنَا

مخلوق جیسے کہ پسند کرتا ہے رب ہمارا اور خوش ہوتا ہے اور جیسے لائق ہے ہمارے رب کی ذاتی بزرگی

وَعِزِّ جَلَالِهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَضْعَافٌ مَّا هَلَّلَهُ وَيُهَلِّلُهُ جَمِيعٌ

اور غلبہٴ جلال کے اور اقرار ہے، لا الہ الا اللہ (کا) کئی گنا اس سے جو تمہیل کی اور کرے گی اس کی تمام

خَلَقَهُ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَىٰ وَكَمَا يَتَّبِعُنِي لِكَرَمِ وَجْهِ رَبِّنَا وَعِزِّ

مخلوق جیسے کہ محبوب رکھتا ہے ہمارا پروردگار اور پسند کرتا ہے اور جیسے شایان شان ہے ہمارے رب کی ذاتی بزرگی اور

جَلَالِهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَضْعَافٌ مَّا كَبَّرَهُ وَيُكَبِّرُهُ جَمِيعٌ خَلَقَهُ كَمَا يُحِبُّ

غلبہٴ جلال کے۔ اور (کہتے ہیں) اللہ اکبر کئی گنا اس سے جو کبر بانی بیان کی اور کرے گی اس کی تمام مخلوقات جیسے کہ محبوب

رَبِّنَا وَيَرْضَىٰ وَكَمَا يَتَّبِعُنِي لِكَرَمِ وَجْهِ رَبِّنَا وَعِزِّ جَلَالِهِ وَلَا حَوْلَ

رکھتا ہے ہمارا پروردگار اور پسند فرماتا ہے اور جیسے شایان ہے اس کی ذاتی بزرگی اور غلبہٴ جلال کے۔ اور (کہتے ہیں) لا حول

وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ أَضْعَافٌ مَّا مَجَّدَهُ وَيَسْجُدُ لَهُ جَمِيعٌ

ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کئی گنا اس سے جو بزرگی بیان کی اور کرے گی اس کی تمام مخلوق

خَلَقَهُ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَىٰ وَكَمَا يَتَّبِعُنِي لِكَرَمِ وَجْهِ رَبِّنَا الْكَرِيمِ

جیسے محبوب رکھتا ہے ہمارا رب اور پسند فرماتا ہے۔ اور جیسے لائق ہے ہمارے کریم پروردگار کی ذاتی بزرگی اور

وَعِزِّ جَلَالِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

غلبہٴ جلال کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو

مُحَمَّدٍ الْمَكْرَمِ الْمَكْرَمِ الْمَكْفِيِّ الْمَكْلَمِ الْمَكِّيِّ الْمَكِينِ الْمَلَاحِمِ الْمَلْدِ

آقا کہ صاحبِ تحریم و اکرام ہیں۔ کفایت کرنے والے۔ اور کلامِ کرنوالے روزِ محشر شفاعت کیلئے ہلکی۔ صاحبِ اقتدار صاحبِ جہاد



اَللّٰهُمَّ الْمَلِجَاءِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ

جائے پناہ تمہید کہنے والے۔ آسمان و سہارا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَلِكِ الْمَلِكِ الْمَمْنُوْرٍ وَمُلْقِي الْقُرْآنِ

آل پر جو آقا بادشاہ غنی۔ صاحب ملک۔ عطاؤ بخشش والے اور قرآن کی تعلیم دینے والے ہیں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا

الْمَمْنُوْرِ الْمُنَادِي الْمُنَادِي الْمُنْتَخَبِ الْمُنْتَخَبِ اَللّٰهُمَّ

کہ معصوم ہیں۔ اعلان (توحید) کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نداء کرامت دئے ہوئے۔ منتخب اور برگزین ہیں

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُنْتَصِرِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ بدلہ لینے والے

الْمُنْتَصِرِ الْمُنْتَقِي الْمُنْجِي الْمُنْجِي اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

مہلت دینے والے۔ پاک کرنے والے۔ نجات بخشنے والے۔ نجات دینے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُنْحَتَا الْمُنْذِرِ الْمُنْذِرِ عَلَيْهِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ لائق حمد و ثناء ہیں۔ ڈرانے والے ہیں۔ جن پر وحی نازل کی گئی ہے

الْمُنْصِفِ الْمَنْصُوْرِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

صاحب انصاف۔ نصرت دئے ہوئے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُنْقِدِ الْمُنِيْبِ الْمُنِيْرِ الْمَوْذِ مَوْذِ

آپ کی آل پر جو آقا کہ بچانے والے۔ پناہ دینے والے۔ روشن کرنے والے۔ موز موز

الْمَوْحِي اِلَيْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

اور وحی والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَوْصِلِ الْمَوْصِلِ الْمَوْصِلِ الْمَوْعِظَةِ

کی آل پر جو وصال (خداوند تعالیٰ) پر فائز، وصال کا شرف بخشنے والے۔ مسلسل وعظ و نصیحت والے





الْمُورِدِ حَوْضَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

جن کے حوض سے (سب اُمت) ابراب کی جانے والی ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَوْقِرِ الْمَوْقِنِ الْمَوْلَى الْمُهَاجِرِ

آپ کی آل پر جو آقا کے صاحبِ توقیر و صاحبِ ایقان ہیں، محبوب اور صاحبِ بیعت اور مہاجر ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کے

الْمُقْتَدَى الْمُهْدَاةِ الْمُهْدَى الْمُهْدَى اللَّهُمَّ صَلِّ

مقتدا اور ہدیہ (خاتمی) ہیں۔ ہدایت دینے والے۔ ہدایت یافتہ اور ہدایت عطا کئے ہوئے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُهَدَّبِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کے منذب

الْمُهَيَّبِينَ الْمُؤْتَمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

مخبران۔ لائق امانت۔ ایمان دینے والے اور قوت بہم پہنچانے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ جَوَامِعِ الْكَلِمِ وَمَوْلَى

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کے جامع کلمات (کے مالک) نعمتیں دینے

التَّعَمُّدِ وَمَوْلَى الرَّحْمَةِ وَمَجْلَى الظُّلْمَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

والے۔ رحمت عطا کرنے اور ظلمتیں دور کرنے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُؤْتَى الْمَشْرِعِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کے (سب انعامات) دئے گئے۔ مالک تشریح (احکام)

الْبَيْزَانِ الْمَيْسِرِ الْمَيْمِ الْمَيْدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ترازوئے (عدل و انصاف) ہیں۔ آسانی متیا کرنے والے بمقصد و مطلوب (مخلوق) اور میزید ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ التَّابِذِ التَّاجِرِ

بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کے پھینکنے والے ہیں (باطل و ناحق کے)۔ خوری متیا کرنے والے ہیں (مفاد کے)



التَّاسِ التَّاسِعِ التَّاسِكِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

بذات خود پوری نوع انسانی ہیں۔ نسخ کر نیوالے ہیں (شراخ سابقہ کو)۔ عبادات کے (طریقے) وضع کر نیوالے ہیں۔ اسے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَلِيحِ الْمُسْتَنْصِرِ الْمُقَرَّبِ اللَّهُمَّ

اور آپ کی آل پر جو آقا کہ صاحب ملاحظت ہیں، (اللہ تعالیٰ سے) طالب نصرت اور اس کے مقرب ہیں۔ اسے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّاشِرِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو کہ پھیلانے والے ہیں (احکام شریعہ اور توحید کے)

التَّاصِبِ النَّاصِحِ النَّصِيحِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

نصیب کر نیوالے ہیں (تواحد و اصول کے) اور بہت خالص و کامل ہمدرد و مخلص ہیں (مفقوت کے) اسے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّاصِرِ وَنَاصِرِ الدِّينِ وَالنَّاطِرِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ مددگار (خلیق ہیں) اور مددگار ہیں دین حق کے اور اس کے نگران۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اسے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب

مُحَمَّدٍ نُورِ اللَّهِ الَّذِي لَا يُطْفَأُ اللَّهُمَّ يَا نُورٌ تَتَوَرَّتْ بِالنُّورِ

کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے نور ہیں جس کو بجھایا نہیں جاسکتا۔ اسے اللہ۔ اے نور۔ تو روشن ہے ساتھ نور کے

وَالنُّورِ فِي نُورِ نُورِكَ يَا نُورُ اللَّهُمَّ يَا عَزِيزٌ تَعَزَّزْتَ

اور تیری بارگاہ نور ہی نور ہے اسے اسرار نور۔ اسے اللہ۔ اے غالب تو غلبہ والا ہے۔

بِالْعِزَّةِ وَالْعِزَّةُ فِي عِزَّةِ عِزَّتِكَ يَا عَزِيزُ اللَّهُمَّ يَا جَلِيلُ

ساتھ عزت و جاہ کے۔ اور عزت و جاہ تیری بارگاہ عزت میں ہی ہے۔ اسے عز و جاہ والے۔ اسے اللہ اے جلیل

تَجَلَّلْتَ بِالْجَلَالِ وَالْجَلَالُ فِي جَلَالِكَ يَا جَلِيلُ اللَّهُمَّ

تو بزرگ ہوا اپنے شان جلال کے ساتھ اور جلال و بزرگی تیری بارگاہ جلال میں ہی ہے اے جلیل۔ اسے اللہ

يَا وَاحِدٌ تَوَحَّدْتَ بِالْوَحْدِ انِّيَّةً وَالْوَحْدِ انِّيَّةً فِي وَحْدِ انِّيَّةٍ وَحْدِ انِّيَّتِكَ

اسے کہتا۔ تو یگانہ ہے اپنی وحدانیت کے ساتھ اور یگانگی صرف تیری بارگاہ وحدانیت میں ہی ہے۔



يَا وَاحِدُ اللَّهُمَّ يَا فَرْدُ تَفَرَّدْتَ بِالْفَرْدِ ائْتِيَهُ وَالْفَرْدُ ائْتِيَهُ فِي فَرْدِ ائْتِيَهُ

اے یکتا۔ اے اللہ۔ تو منفرد و یکتا ہے اپنی یکتائی کے ساتھ اور انفرادیت صرف تیری یکتائی

فَرْدِ ائْتِيَتِكَ يَا فَرْدُ اللَّهُمَّ يَا جَمِيلُ تَجَمَّلْتَ بِالْجَمَالِ وَالْجَمَالُ

اور انفرادیت میں ہی ہے۔ اے یکتا۔ اے اللہ اے جمیل۔ تو بہت خوب ہے اپنے جمال کے ساتھ اور جمال و خوبی

فِي جَمَالِ جَمَالِكَ يَا جَمِيلُ اللَّهُمَّ يَا كَرِيمٌ تَكْرَمْتَ بِالْكَرَمِ وَالْكَرَمُ

صرف تیری بارگاہ جمال میں ہی ہے اے جمیل۔ اے اللہ اے کریم۔ تو صاحب کرامت و بزرگی ہے اپنے کرم کے

فِي كَرَمِ كَرَمِكَ يَا كَرِيمٌ اللَّهُمَّ يَا عَظِيمٌ تَعْظَمْتَ بِالْعَظَمَةِ وَالْعَظَمَةُ

ساتھ اور کرم صرف تیری بارگاہ کرم میں ہی ہے۔ اے کریم۔ اے اللہ اے عظیم۔ تو عظیم و بزرگ ہے اپنی عظمت کے ساتھ

فِي عَظَمَةِ عَظَمَتِكَ يَا عَظِيمٌ اللَّهُمَّ يَا جَبَّارٌ تَجَبَّرْتَ بِالْجَبْرُوتِ

اور عظمت صرف تیری بارگاہ عظمت میں ہی ہے اے عظیم۔ اے اللہ۔ اے جبار۔ تو بزرگ ہے اپنی صفات جلال کے ساتھ

وَالْجَبْرُوتُ فِي جَبْرُوتِكَ يَا جَبَّارٌ اللَّهُمَّ يَا كَبِيرٌ تَكَبَّرْتَ

اور جبروتیت و جلال صرف تیری بارگاہ جلال میں ہی ہے۔ اے جبار۔ اے اللہ اے کبریاں والے۔ تو بزرگ ہے

بِالْكِبْرِيَاءِ وَالْكِبْرِيَاءُ فِي كِبْرِيَاءِكَ يَا كَبِيرٌ اللَّهُمَّ يَا قَدِيرٌ

اپنی شان کبریاں کے ساتھ اور کبریاں صرف تیری بارگاہ کبریاں میں ہی ہے اے کبریاں والے۔ اے اللہ اے قدیر

تَقَدَّرْتَ بِالْقُدْرَةِ وَالْقُدْرَةُ فِي قُدْرَتِكَ يَا قَدِيرٌ اللَّهُمَّ يَا

تو بہت قدرت والا ہے ساتھ اپنی قدرت کے۔ اور قدرت و قوت صرف تیری بارگاہ قدرت میں ہی ہے، اے قدیر۔ اے اللہ

قَهَّارٌ تَقَهَّرْتَ بِالْقَهْرِ وَالْقَهْرُ فِي قَهْرِكَ يَا قَهَّارٌ اللَّهُمَّ يَا

اے قہار۔ تو صاحب قہر ہے اپنے قہر کے ساتھ اور قہر و غلبہ صرف تیری بارگاہ قہارت کے شایان ہے۔ اے قہار۔ اے اللہ اے

مَالِكٌ تَمَلَّكَتْ بِالْمَلَكُوتِ وَالْمَلَكُوتُ فِي مَلَكُوتِكَ يَا مَالِكٌ

مالک۔ تو بادشاہ ہے ساتھ اپنے وسیع ملک کے اور ملک و تسلط صرف تیری بارگاہ ملکوت کے ہی شایان ہے اے مالک

اللَّهُمَّ يَا قُدُّوسٌ تَقَدَّسَتْ بِالْقُدْسِ وَالْقُدْسُ فِي قُدْسِكَ

اے اللہ اے قدوس۔ تو پاکیزہ ہے ساتھ اپنی شان تقدس کے اور کامل طہارت صرف تیری بارگاہ قدس



قُدْسِكَ يَا قُدُّوسَ اللَّهِ يَا رَبِّ تَرَبَّبْتُ بِالرُّبُوبِيَّةِ وَالرُّبُوبِيَّةُ

کے ہی شایاں ہے اے قدوس۔ اے اللہ۔ اے پروردگار۔ تو نے بہت پرورش فرمائی اپنی ربوبیت کے ذریعے

فِي رُبُوبِيَّةِ رَبُّوبِيَّتِكَ يَا رَبِّ اللَّهُمَّ يَا رَحِيمٌ تَرَحَّمْتَ بِالرَّحْمَةِ

اور ربوبیت صرف تیری بارگاہ ربوبیت کے ہی شایاں ہے۔ اے پروردگار۔ اے اللہ۔ اے رحیم تو نے بہت رحمت فرمائی ساتھ رحمت

وَالرَّحْمَةُ فِي رَحْمَةِ رَحْمَتِكَ يَا رَحِيمٌ اللَّهُمَّ يَا عَدْلٌ تَعَدَّلْتُ

خاصہ کے اور رحمت کا ملہ صرف تیری بارگاہ رحمت میں ہی ہے اے رحیم۔ اے اللہ اے سراسر عدل۔ تو نے بہت عدل کیا

بِالْعَدْلِ وَالْعَدْلُ فِي عَدْلِكَ يَا عَدْلٌ اللَّهُمَّ يَا شَكُورٌ

ساتھ اپنی عدالت خاصہ کے اور عدل و انصاف صرف تیری بارگاہ عدل میں ہی ہے۔ اے سراسر عدل۔ اے اللہ اے شکور

تَشَكَّرْتُ بِالشُّكْرِ وَالشُّكْرُ فِي شُكْرِكَ يَا شَكُورٌ اللَّهُمَّ يَا سَمِيعٌ

تو نے بہت جزاء شکر دی اپنی شان شکر کی شایاں۔ اور جزائے شکر صرف تیری بارگاہ شکر میں ہی ہے اے شکر۔ اے اللہ اے سمیع

تَسَمَّعْتُ بِالسَّمْعِ وَالسَّمْعُ فِي سَمْعِكَ يَا سَمِيعٌ اللَّهُمَّ يَا بَصِيرٌ

تو بہت سننے والا ہے اپنی صفت سمع کے ساتھ اور حقیقی شنوائی تیری بارگاہ سمع و شنوائی میں ہی ہے اے سمیع۔ اے اللہ اے بینا

تَبَصَّرْتُ بِالبَصْرِ وَالبَصْرُ فِي بَصْرِكَ يَا بَصِيرٌ اللَّهُمَّ يَا حَنَّانٌ

تو بینا ہے ساتھ اپنی شان بینائی کے اور بینائی صرف تیری بارگاہ بصر میں ہی ہے اے بینا۔ اے اللہ۔ اے مہربان

تَحَنَّنْتُ بِالْحَنَّةِ وَالحَنَّةُ فِي حَنَّتِكَ يَا حَنَّانٌ اللَّهُمَّ يَا

تو مہربان ہے اپنی شان حنائی کے مطابق اور حقیقی مہربانی صرف تیری بارگاہ حنائیت میں ہی ہے اے حنان۔ اے اللہ اے

مَنَّانٌ تَمَنَّنْتُ بِالمِنَّةِ وَالمِنَّةُ فِي مَنَّةِكَ يَا مَنَّانٌ اللَّهُمَّ

صاحب احسان۔ تو نے بہت احسان فرمایا اپنی شان منائی کے مطابق اور کامل منت و احسان صرف تیری بارگاہ احسان میں ہے اے حنان

يَا حَكِيمٌ تَحَكَّمْتُ بِالحِكْمَةِ وَالحِكْمَةُ فِي حِكْمَتِكَ يَا حَكِيمٌ اللَّهُمَّ

اے اللہ۔ اے صاحب حکمت تو حکیم ہے اپنی شان حکمت کے ساتھ اور حقیقی حکمت و دانش تیری ہی بارگاہ حکمت کے لائق ہے اے حکیم۔ اے اللہ

يَا وَهَّابٌ تَوَهَّبْتُ بِالْوَهْبَةِ وَالْوَهْبَةُ فِي وَهْبَتِكَ يَا

اے عطا کرنے والے۔ تو نے بہت عطا فرمایا اپنے شان عطا کے لائق اور کامل عطا صرف تیری بارگاہ وہب میں ہی کے شایان ہے۔ اے



وَهَابُ اللَّهِ يَا عَلِيمُ تَعَلَّمْتَ بِالْعِلْمِ وَالْعِلْمُ فِي عِلْمِ

عطا کرنے والے۔ اے اللہ۔ اے عظیم تو بہت علم والا ہے اپنے شان علم کے ساتھ اور کامل علم تیری شان عظیمی کے ہی

عَلَيْكَ يَا عَلِيمُ اللَّهُ يَا رَحْمَنُ تَرَحَّمْتَ بِالرَّحْمَةِ وَالرَّحْمَةُ

شایان ہے۔ اے عظیم۔ اے اللہ۔ اے رحمن۔ تو نے بہت رحم کیا اپنی شان رحمت کے لائق اور رحمت کا لائق

فِي رَحْمَةٍ رَحْمَتِكَ يَا خَالِقُ اللَّهُ يَا خَالِقُ تَخَلَّقْتَ بِالْخَلْقِ

تیری شان رحیمی کے لائق ہے۔ اے رحمن۔ اے اللہ۔ اے خالق تو نے بہت پیدا کی (مخلوق) اپنی شان خالق کے ساتھ

وَالْخَلْقُ فِي خَلْقِ خَلْقِكَ يَا خَالِقُ اللَّهُ يَا مَجِيدُ تَمَجَّدْتَ

اور خالقیت صرف تیری بارگاہ خالقیت کے ہی لائق ہے اے خالق۔ اے اللہ۔ اے مجید۔ تو بزرگی والا ہے

بِالْمَجْدِ وَالْمَجْدُ فِي مَجْدِ مَجْدِكَ يَا مَجِيدُ اللَّهُ يَا حَمِيدُ تَحْمَدُتْ

ساتھ ذاتی بزرگی کے اور حقیقی بزرگی صرف تیری ہی بزرگی ہے اے مجید۔ اے اللہ۔ اے حمید۔ تو بہت حمد والا ہے

بِالْحَمْدِ وَالْحَمْدُ فِي حَمْدِ حَمْدِكَ يَا حَمِيدُ اللَّهُ يَا حَفِيظُ

ساتھ ثناء (مخلوق) کے۔ اور کامل تعریف و ثنا تیری حمد میں ہے اے حمید۔ اے اللہ۔ اے حفیظ

تَحْفَظْتَ بِالْحِفْظِ وَالْحِفْظُ فِي حِفْظِ حِفْظِكَ يَا حَفِيظُ اللَّهُ

تو حفاظت والا ہے ذاتی حفظ کے ساتھ اور حفاظت و امان صرف تیری ہی حفاظت میں ہے اے حفیظ۔ اے اللہ

يَا وَاصِلُ تَوَصَّلْتَ بِالْوَصْلِ وَالْوَصْلُ فِي وَصْلِ وَصْلِكَ يَا

اے صاحب وصل۔ تو نے ربط و تعلق پیدا فرمایا (مخلوق کے ساتھ) وصل خاص سے اور حقیقی وصل و ربط تیرے ہی وصل میں ہے

وَاصِلُ اللَّهُ يَا سَلَامٌ تَسَلَّمْتَ بِالسَّلَامَةِ وَالسَّلَامَةُ فِي سَلَامَةٍ

اے واصل۔ اے اللہ۔ اے سراسر سلامتی تو سالم ہے ساتھ ذاتی سلامتی کے اور کامل سلامتی تیری ہی بارگاہ سلامت

سَلَامَتِكَ يَا سَلَامٌ اللَّهُ يَا غَفُورٌ تَغْفَرُتْ بِالْغُفْرَانِ وَالْغُفْرَانُ

کے شایان ہے اے سلام۔ اے اللہ۔ اے غفور۔ تو نے بخشتا اپنی مغفرت کاملہ کے ساتھ اور مغفرت کاملہ

فِي غُفْرَانِ غُفْرَانِكَ يَا غَفُورٌ اللَّهُ يَا شَهِيدٌ تَشْهَدُتْ بِالشَّهَادَةِ

صرف تیری بارگاہ عفو کے لائق ہے۔ اے غفور۔ اے اللہ۔ اے شہید۔ تو مطلع ہوا اپنی ذاتی اطلاع کے ساتھ



وَالشَّهَادَةُ فِي شَهَادَةِ شَهَادَتِكَ يَا شَهِيدُ اللَّهُمَّ يَا رَفِيعَ تَرَفُّعَتِ

اور کامل آگہی صرف تیری شہادت و اطلاع ذاتی کے شایان ہے لے شہید - لے اللہ - لے رفیع - تو بلند مرتبت ہے

بِالرَّفْعَةِ وَالرَّفْعَةُ فِي رَفْعَةِ رَفْعَتِكَ يَا رَفِيعَ اللَّهُمَّ يَا قَدِيمَ

ذاتی رفعت کے ساتھ - اور کامل رفعت صرف تیری بارگاہ رفعت پناہ میں ہی ہے - لے رفیع - لے اللہ - لے قدیم

تَقَدَّمَتْ بِالْقَدَمِ وَالْقَدَمُ فِي قَدَمِ قَدَمِكَ يَا قَدِيمَ اللَّهُمَّ يَا غَنِيَّ

تو مقدم ہے - قدم ذاتی کے ساتھ - اور اولیت بلا ابتداء صرف تیری بارگاہ قدیم کے لائق ہی ہے لے قدیم - لے اللہ

تَغْنَنَتْ بِالْغِنَى وَالْغِنَى فِي غِنَى غِنَاكَ يَا غَنِيَّ اللَّهُمَّ يَا رِزَّاقَ

لے غنی تو غنی ہے ذاتی استغناء کی وجہ سے - اور حقیقی غنی صرف تیری غنایں ہی ہے - لے غنی - لے اللہ - لے رزاق

تَرَسَّقَتْ بِالرِّسْقِ وَالرِّسْقُ فِي رِزْقِ رِزْقِكَ يَا سَرَّاقَ اللَّهُمَّ

تو نے بہت رزق عطا کیا اپنے رزق سے - اور حقیقی رزق صرف تیری بارگاہ رزاقیت میں ہی ہے - لے رزاق - لے اللہ

يَا صَبُورَ تَصَبَّرْتَ بِالصَّبْرِ وَالصَّبْرُ فِي صَبْرِ صَبْرِكَ يَا صَبُورَ

لے صبور - تو نے بہت صبر کا مظاہرہ کیا اور صبر و علم تیری بارگاہ علم ہی کے لائق ہے - لے صبور

اللَّهُمَّ يَا فَتَّاحَ تَفْتَحُتْ بِالْفَتْحِ وَالْفَتْحُ فِي فَتْحِ فَتْحِكَ يَا فَتَّاحَ اللَّهُمَّ

لے اللہ - لے فتاح - تو نے حل فرمایا تمام اشکالات کو اپنی خاص کشتش سے اور حقیقی کشتش تیری ہی کشتش میں ہے - لے

يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا غَفُورَ يَا غَفُورَ يَا غَفُورَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

فتاح - لے اللہ - یا اللہ یا اللہ یا اللہ - یا غفور - یا غفور - یا غفور - نہیں معبود برحق مگر تو ہی

يَا مَنْ هُوَ فِي عُلُوِّهِ كَأَنَّ يَا مَنْ هُوَ فِي عِلْمِهِ مُحِيطٌ يَا مَنْ هُوَ

لے وہ ذات والا کہ اپنے بلندی مرتبت پر فائز ہے - لے وہ ذات جس کا علم محیط اکائیات ہے - لے کہ اپنی

فِي عِزَّتِهِ لَطِيفٌ يَا مَنْ هُوَ فِي لُطْفِهِ شَرِيفٌ يَا مَنْ هُوَ فِي فِعْلِهِ

برتری و غلبہ میں لطیف ہے - لے کہ اپنے لطف و کرم میں شرافت پناہ ہے - لے کہ اپنے افعال میں لائق

حَمِيدٌ يَا مَنْ هُوَ فِي مَجْدِهِ مُنِيرٌ يَا مَنْ هُوَ فِي عَطَايِهِ كَبِيرٌ يَا مَنْ

حمد و ستائش ہے - لے کہ اپنی بزرگی میں ضیاء بخش ہے - لے کہ اپنی عطا میں بہت بڑا ہے - لے کہ



هُوَ فِي ذَاتِهِ قَدِيمٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اپنی ذات میں قدیم ویسے ابتداء ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّاهِي النَّبِيَّ النَّجِيبَ النَّجِيدَ اللَّهُمَّ

کی آل پر جو آقا منع کرنے والے ہیں (برائوں سے)۔ سراپا خیر ہیں (احکام و عیب کی اشریت و بہادر نبی ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِبْنِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّجْمِ النَّدْبِ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ فضائل کی طرف بڑھنے والے ستارے

النَّسِيبِ النَّذِيرِ النَّعْمَةِ النَّصِيرِ النَّقِيبِ النَّقِيِّ التُّورِ التُّورِ وَنُورِ

ہیں عالی نسب۔ ڈرانے والے۔ سراپا نعمت خداوندی۔ مددگار۔ نگران و محافظ۔ پاکیزہ۔ سراپا نور

الْأُمَمِ وَنُورِ الْأَنْوَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

تمام امتوں کے نور۔ اور انوار کو نورانی بنانے والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

إِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّجْمِ الثَّاقِبِ وَالتَّاطِقِ بِالْحَقِّ وَالتَّاطِرِ مَنْ

کی آل پر جو آقا کہ روشن ستارے ہیں حق کے ساتھ کلام کرنے والے۔ اور دیکھنے والے ہیں

خَلْفَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِبْنِ سَيِّدِنَا

پس پشت لوگوں کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ وَالتَّوْبَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

جو کہ سرخ و سیاہ کے نبی ہیں اور نبی توبہ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِبْنِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرَّاحَةِ وَالرَّحْمَةِ وَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو کہ نبی راحت و رحمت ہیں اور

الْمَرْحَمَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى إِبْنِ

رحمت والے نبی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْمَلَاحِمِ وَالْمَلْحَمَةِ وَالْحَرَمَيْنِ وَالزَّمْزَمِ

جو آقا کہ حرب و جہاد اور حریم و زمزم والے نبی ہیں۔





وَالصَّالِحِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور فنا فی اللہ کے مقام والے ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الْوَاحِدِ الْوَاسِطِ الْوَاسِعِ الْوَاضِعِ الْوَاعِدِ الْوَاعِظِ

جو آقا کہ مطلوب کو پانے والے۔ واسطہ (انعام خداوندی)۔ وسیع احسان والے (اللہ سے) واصل منوائج۔ وعدہ (جنت) دینے والے نصیحت

الْوَارِثِ الْوَالِيِ الْوَجِيهِ الْوَجِيدِ الْوَدُودِ الْوَمُرِّ الْوَسِيْلَةِ الْوَسِيْمِ

فرمانے والے۔ والی مالک۔ آبرمند۔ یکتائے روزگار۔ بہت محبت کرنے والے۔ سراپا احتیاط و پرہیز۔ وسیلہ خلافت۔ خوب صورت ترین

الْوَصُولِ الْوَصِيِّ الْوَفِيِّ الْوَكِيْلِ الْوَهَّابِ وَوَلِيِّ الْفَضْلِ

بہت صلہ رچی کرنے والے۔ وصیت والے۔ کامل جزاء دینے والے۔ کار ساز متوفی امور اہم بہت عطا کرنے والے۔ مالک فضل احسان

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْهَادِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا کہ ہادی (خلافت) ہیں

الْهَادِي الْهَجْرِي الْهَدْيِ الْهَمَامِ الْهَيْمَةِ الْهَيْنِ الْيَتْرَبِي الْيَتِيْمِ

ہاشمی۔ صاحب ہجرت۔ مجسم ہدایت۔ بلند عزائم والے۔ نرم خو۔ یثرب (مدینہ) والے۔ یکتائے عالم

يَسَّ هَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

یساں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ السَّيْفِ الْمُخَدَّمِ اللَّهُمَّ قَلْدُنِي بِالتَّقْلِيدِ الشَّدِيدِ

جو آقا کہ مزین تلوار ہیں۔ اے اللہ میرے گلے میں لٹکا مضبوطی کے ساتھ

يَا شَدِيدَ الْبَطْشِ يَا جَبَّارَ بِسَيْفِ الْهَيْبَةِ وَالشَّدَّةِ وَالْقُوَّةِ

اے سخت گرفت والے۔ اے جبار ہیبت و شدت اور قوت و

وَالْقُدْرَةِ وَالْمَنْعَةِ مِنْ بَأْسِ الْجَبْرُوتِ وَمَا الْعِزَّةِ وَالنَّصْرُ

قدرت والی تلوار جو محفوظ رکھنے والی ہو جب روتی شدت سے اور عزت و نصرت

إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اضْرِبْ بِخَرْبِ شِدَّةِ الصَّفْعِ التَّرْكِ

نہیں مگر اللہ تعالیٰ سے پس سے۔ اے اللہ گم فرما شدید اعراض و درد گردانی کی ویرانی کو





وَبَغِيرِيَةِ النَّفْسِ الْهَلْوَاءِ الْأَلْوَكِ الْعُرُوقِ الْعُرُوكِ وَبِهَجْرَةِ

اور غیریت نفسِ حریف کی جو بہت دوسے ڈانے والا، نوچنے والا اور جھگڑنے والا ہے اور محرومی و جدائی

الرِّصَاعِ الْإِحْتِنَاكِ وَبِاخْتِلَاطِ الصَّقَعِ الْإِدْرَاكِ وَبِحَوْلَقَةِ الصَّرِيْعِ

پچھاڑے جانے والے اور کام دے جانے والے کی۔ اور ادراک و شعور کے جوڑے اختلاط کو۔ اور پچھاڑنے والے کینہ و

الْفِرْدُوكِ وَبِحَوْلَقَةِ الصَّلَعِ الصَّكِّ وَبِعْتَبَةِ الصَّلَاءِ الْعَرَكَ وَ

کی بلا و معیبت کو۔ اور بڑھے بے بال کے سروالے اور اٹکتے گھٹنوں والے کی کمزوری کو (در فرما) ناراضگی پچھاڑنے والے حملہ آور کی

بِظَبَّةِ الصَّمْعِ الشُّوكِ وَبِظَلَّةِ الصَّعَاصِعِ الْعُنُوكِ وَبِفَاعِلَةِ

اور بہادری کے ہتھیاروں کی تیزی کو براگندہ ریتیلے بلند ٹیلوں کے تنگ سائبان کو۔ اور ہلاکت

الصَّمْعِ الْعَكِّ وَبِغَاشَةِ الصَّوْرِ الشَّامِكِ وَبِقُدْرَةِ الصَّنَعِ

گرم مزاج جو شیشے بہادری کی۔ اور احاطہ کر لینے والے حملہ آور کے کھیرے کو۔ اور دستکار مفلس کے

الصُّعْلُوكِ وَبِمَحَبَّةِ سُرِّ شَيْخِ الشَّيْخِ الظَّالِعِ وَبِوَحْدَةِ الْعَاتِكِ

قادر ہونے کو۔ لنگڑے بڑھے کے چلنے کی محنت کو۔ اور چھیننے والے سخت

لِفَاءِ الْمَلْعِ الْعَبِكِ الْعَبِقِ فِي الْوَحْدِ انِّيَّةِ الْخَالِصِ وَالْعُرْفَانِ

نیگلوں یا سیاہ و سفید میلے خوشبو دار کبیل کی وحدت و تمنا کی کو خالص وحدانیت اور خالص

الْمُخْلِصِ أَعْطِنِيكَ مُعْطِنِيكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ كَيْسَ فِي

عرفان میں لے جگہ دیتے والے لے قرار بخشنے والے۔ یا اللہ۔ یا اللہ۔ یا اللہ۔ نہیں ہے

الرِّيَّاحِ مَرَّةً وَفِي السَّحَابِ قَطْرَةً وَفِي الْبُرُقِ لَمَعَةً وَفِي الرَّعْدِ

آندھیوں کا ایک بار چلنا۔ نہ بادلوں میں کوئی قطرہ۔ نہ بجلیوں میں کوئی چمک اور نہ گرج میں

زَجْرَةً وَفِي الْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ شَيْءٌ وَلَا فِي الْمُلْكِ آيَةٌ إِلَّا وَهِيَ

کوئی تندیہ و سرزش۔ اور نہ عرش و کرسی میں کوئی شئی اور نہ ملک (کوئی) میں کوئی آیت (قدرت) (مگر وہی)

أَهْلَةٌ شَهِدَتْ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبُّ الْأَرْضِينَ

ہلال ہیں جنہوں نے شہادت دی ہے اس امر کی کہ تو ہی اللہ ہے کہ معبود برحق نہیں مگر تو ہی مالک ہے زمینوں کا



وَالسَّمَوَاتِ كَاشِفِ الْكَرُوبِ عَلَامِ الْغُيُوبِ وَمُخْرِجِ الْحُبُوبِ وَ

اور آسمانوں کا۔ رنج و آلام کو دور کرنے والا۔ غیوب کا جاننے والا۔ دانوں کو نکالنے والا اور

مُخْرِجِ الْقُلُوبِ لِمَنْ كَانَ مَهْجُورًا حَتَّىٰ يَعُودَ مَحْبُوبًا بِهَبُوبِ هَبُوبِ

قلوب (خلائق) کو مستز کرنے والا واسطے محروم التفات لوگوں کے تاکہ وہ ہر جائیں محبوب بطفیل ہبوب ہبوب

بَلُطْفِ حَفِيٍّ بِسَوْسِمٍ سَوْسِمٍ دَوْسِمٍ حَوْسِمٍ وَبِصَعَصِعِ صَعَصِعِ وَ

بطفیل خیر گیری کرنے والے لطف کے۔ بطفیل سوم سوم۔ دوم سوم کے اور بطفیل صعصع صعصع اور

الْبِهَاءِ وَالتَّوْبِ التَّامِ بِسَهْسَهٍ سَهْسَهٍ ذِي الْعِزِّ الشَّامِخِ

روفق و بہار اور نور کامل کے۔ بطفیل سہسہ سہسہ کے جو بلند عزت و مرتبت والا ہے

بَطْهَطُوبٍ لَهْوِبٍ اذُونَايَ اَحْبَاءِ وَثَالِ شَدَايَ حَمَحَمِ

بطفیل طمطوب لہوب۔ آذونای۔ احباد و ث۔ آل شدای حم حم

كَهُوبٍ كَهُوبِ الَّذِي سَحَرَ كُلَّ شَيْءٍ بِرُكَاةٍ بِرُكَاةٍ اِهْيَا شَرَاهِيَا وَ

کہوب کہوب کے جس نے سحر کیا ہر چیز کو بطفیل کاہہ برکاہہ اہیا شراہیا کے اور

سَخَّرَ لِي قُلُوبَ عِبَادِكَ اَجْمَعِينَ مِنَ الْجِنِّ وَالْانْسِ وَاَجْلَبُ لِي

سخر فرما میرے لیے اپنے تمام بندوں کے قلوب کو جنوں اور انسانوں میں سے اور بیچنے میرے لیے

خَوَاطِرَهُمْ مِنْ تَسْخِيرِ مَحَبَّتِكَ وَطُفِكَ وَتَسْأَلُكَ الْعِصْمَةَ فِي

ان کے دلوں کو اپنی محبت کی تسخیر اور اپنے لطف سے اور سوال کرتے ہیں تجھ سے عصمت کا

الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَالْكَلِمَاتِ وَالْاِرَادَاتِ وَالْخَطَرَاتِ مِنْ

تمام حرکات و سکانات اور کلمات و ارادات اور خواطر تلبیہ میں

الظُّنُونِ وَالشُّكُوكِ وَالْاَوْهَامِ السَّاتِرَةِ لِلْقُلُوبِ عَنْ مُطَالَعَةِ الْغُيُوبِ

تمام ظنون۔ شکوک اور اوہام سے جو دلوں پر پردے ڈالنے والے ہیں غیوب کے مطالعے سے

فَقَدْ ابْتَلَى الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزَلُوا زَلْزَلًا شَدِيدًا وَاذِيقُوا الْمَنَافِقُونَ وَ

پس تحقیق آزمائے گئے ایمان والے اور جھنجھوڑے گئے جیسے کہ جھنجھوڑے کا حق تھا اور جبکہ کہیں گے منافق اور



الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا اللَّهُ

وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے میں وعدہ دیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے مگر دھوکہ دینے کیلئے۔ اے اللہ

لَا تَغْضَبْ عَلَيْنَا وَسَهِّلْ لَنَا طَرِيقًا بَيْنَنَا لِمَا قَدْ نَطَلْبُكَ مِنْكَ يَا رَبِّ

ناراض نہ ہونا ہم پر اور ہمارے لیے آسان فرما واضح راستہ کو طرف اس امر کے جسے ہم طلب کرتے ہیں تجھ سے اے رب

الْعَالَمِينَ ۗ وَاحْجُبْ عَنَّا كُلَّ قَاطِعٍ وَمَانِعٍ وَحَاسِدٍ وَبَاغِضِ

العالمین اور روک ہم سے ہر قطع کرنے والے اور منع کرنے والے اور حسد و بغض رکھنے والے کو

مِّنَ الْخَلْقِ وَالْجِنَّ وَالْإِنْسِ وَغَيْرِهِمَا بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَمِنَ اللَّهِ

ساری مخلوق میں سے (بالعموم) اور جن و انس وغیرہ میں سے (بالخصوص) اللہ تعالیٰ کے نام کیساتھ اور اس کی ذات اقدس کے ساتھ

وَالِی اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ حَسْبِيَ اللَّهُ تَوَكَّلْتُ

اسی کی طرف اور اسی کی طرف اور اللہ تعالیٰ پر ہی چاہیے کہ مومنین توکل کریں، اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ

عَلَى اللَّهِ تَوَجَّهْتُ إِلَى اللَّهِ فَوَضَّحْتُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ اِحْتَسَبْتُ

پر توکل کیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا ہوں۔ میں نے اپنے ہر معاملہ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا ہے۔ میں نے تو اب کی

بِاللَّهِ وَتَحَصَّنْتُ بِاللَّهِ اسْتَعْنَيْتُ بِاللَّهِ اسْتَعْنَيْتُ بِاللَّهِ

امید اللہ تعالیٰ سے رکھی ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے پناہ و حفاظت حاصل کی ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد و رنجی چاہی ہے۔ میں نے اسی سے

اِعْتَصَمْتُ بِاللَّهِ اسْتَنْصَرْتُ بِاللَّهِ اِعْتَصَمْتُ بِاللَّهِ اَقْسَمْتُ

تعمنا طلب کی ہے میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عصمت حاصل کی ہے۔ میں نے اللہ سے نصرت طلب کی ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے عظمت طلب کی ہے میں نے

بِاللَّهِ الْحِرْسُ بِاللَّهِ الْقَرَارُ بِاللَّهِ الْحَوْلُ بِاللَّهِ الْقُوَّةُ بِاللَّهِ

اللہ تعالیٰ کے نام کیساتھ قسم کھانی ہے حفظ و امان اللہ تعالیٰ ہی کے ذریعے ہے صفائی اور نظیر اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہے بھرتا اور نصرت اللہ تعالیٰ کے

اَقْسَمْتُ وَعَظَمْتُ عَلَيْكُمْ يَا رِزْغَ خَيْلٍ يَا غِيْثَ نَفْثِيلٍ بِحَقِّ

ذریعے ہے اور قوت، نبی کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم اور اس کی عظمت کا واسطہ دیتا ہوں اے رزغ خیل اے غیث نفثیل بطفیل حق

طَلَسْمِ الْاَعْظَمِ يَا وَهَّابُ اَنْتَ تَهَبُ الْجَزِيلَ وَتَعْطِي

اسم اعظم کے طلسم کے، اے عطا کرنے والے تو ہی بخشتا ہے بہت بڑی نعمتیں اور عطا کرتا ہے



الْجَلِيلَ وَتَهْدِي عِبَادَكَ إِلَى دَارِ السَّعَادَةِ بِسْمِ اللَّهِ السَّمِيعِ

جلیل القامات اور ہدایت دیتا ہے اپنے بندوں کو دار سعادت کی طرف۔ ساتھ نام اللہ سمیع

الْبَصِيرِ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بِسْمِ اللَّهِ

بصیر کے جس کی مانند کوئی شئی نہیں ہے وہی ہر شئی کو ہمیشہ کے لیے جانتے والا ہے۔ ساتھ نام اللہ

الْخَالِقِ الْعَلِيمِ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ

خالق علیم کے جس کی مانند کوئی شئی نہیں ہے وہی (مشکلات کو) حل کرنے والا، دائمی علم والا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ الْغَنِيُّ

ساتھ نام اللہ سمیع وعلیم کے جس کی مانند کوئی شئی نہیں ہے وہی غنی

الْقَدِيرُ بِسْمِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْكَرِيمِ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ

قدیر ہے۔ ساتھ نام اللہ عزیز کریم کے جس کی مانند کوئی شئی نہیں ہے وہی

الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ بِسْمِ اللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

غالب، کرم والا ہے، ساتھ نام اللہ سمیع وعلیم کے جس کی مانند کوئی شئی نہیں ہے

وَهُوَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ بِسْمِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ

وہی باطن اور ظاہر کی خیر رکھنے والا ہے۔ ساتھ نام اللہ عزیز رحیم کے جس کی مانند

شَيْءٌ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کوئی شئی نہیں ہے وہی غالب (اور) بہت بخشنے والا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جو

خَطُّ الْوَحْدَةِ بَيْنَ قَابِ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى الْأَحْدِيَةِ الْوَاحِدِيَّةِ

آقا کر قاب قوسین او ادنیٰ (قوس و جوب اور قوس امکان) کے درمیان خط و حدت، احدیت اور واحدیت و

الْوَحْدَانِيَّةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْهُ وَلَمْ يُولَدْهُ

واحدانیت ہیں۔ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ اس نے جنا۔ (کسی کو) اور نہ وہ جتا گیا

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہم پایہ اور ہم پتہ



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَدْرِكَهُ لَوْلَا إِذْنُ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَدْرِكَهُ لَوْلَا إِذْنُ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ

کہ دین مان تحت آقران فضل  
ایزومقان تحفہ عجایب و ہدیہ غرائب الی اللہ  
مقبول بارگاہ شاہ کونین حضرت محمد رسول اللہ  
مُسَمًّى بِهِ

# صَلَاةُ الرَّسُولِ

الجزء الثامن

فِي سِيَادَتِهِ وَسَيِّدِهِ ﷺ

از تصنیف و تالیف مولانا محمد رفیع صاحب دہلی

حضرت خواجہ خواجگان خواجہ محمد عبدالرحمن صاحب

ساکن چھوہڑ شریف ضلع ہری پور  
صوبہ سرحد پاکستان



## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِاَکْرَمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِاَعْمِ  
لے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بظیفیل بزرگترین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اور بظیفیل عامترین۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِاَدْوَمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اور بظیفیل انتہائی دائم اور باقی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ مَا لَکَ یَوْمَ  
سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ جو بہت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ مالک ہے روز

الدِّیْنِ ۝ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ  
جزا کا۔ (لے ان صفات کمال والے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے طلبکار تو توفیق ہیں ہمیں چلا راہ

المُسْتَقِیْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ ۝ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ  
راست پر (جو) راہ ہے ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام فرمایا نہ ان کی راہ پر جن پر غضب

عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
کیا گیا اور حوی گرا ہوں کی۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی مُحَمَّدٍ سَیِّدِ النَّبِیِّیْنَ وَ  
جو تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ اور صلوات و سلام بھیج تمام انبیاء کے سردار محمد پر

صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ سَیِّدِ الْمُؤْمِنِیْنَ وَصَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ سَیِّدِ الْمُسْلِمِیْنَ  
اور صلوات بھیج مؤمنین کے سردار محمد پر اور صلوات بھیج تمام اہل اسلام کے سردار محمد پر

وَصَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ سَیِّدِ الْمُتَّقِیْنَ وَصَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ سَیِّدِ الصّٰلِحِیْنَ  
اور صلوات بھیج متقین کے سردار محمد پر۔ اور صلوات بھیج صالحین کے سردار محمد پر

وَصَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ سَیِّدِ الصّٰدِقِیْنَ وَصَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ سَیِّدِ الصّٰدِقِیْنَ  
اور صلوات بھیج مصلحین کے سردار محمد پر اور صلوات بھیج صادقین کے سردار محمد پر



وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْتَدِّينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

اور صلوٰۃ بھیج محمد کریم پر جو سب تصدیق کرنے والوں کے سردار ہیں۔ اور صلوٰۃ بھیج محمد کریم پر جو سردار ہیں

الصَّابِرِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الشَّاهِدِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

تمام صابرین کے اور صلوٰۃ بھیج محمد کریم پر جو تمام شہادت دینے والوں کے سردار ہیں اور صلوٰۃ بھیج محمد کریم پر

سَيِّدِ الْمُشْهُودِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرَابِطِينَ وَصَلِّ عَلَى

جو سردار ہیں گواہ بنائے جانے والوں کے اور صلوٰۃ بھیج محمد کریم پر جو سرحدات اسلام کے محافظین کے سردار ہیں۔ اور صلوٰۃ بھیج

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنَجِّينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُفْلِحِينَ وَصَلِّ

نجات دلانے والوں کے سردار محمد پر اور صلوٰۃ بھیج کامرانوں کے سردار محمد پر۔ اور صلوٰۃ بھیج (دعوت)

عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُجِيبِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الزَّاهِدِينَ

قبول کرنے والوں کے سردار محمد پر۔ اور صلوٰۃ بھیج زاہدین کے سردار محمد پر

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ التَّائِبِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْخَائِفِينَ

اور صلوٰۃ بھیج تائبین کے سردار محمد پر۔ اور صلوٰۃ بھیج ارباب خوف خداوندی کے سردار محمد پر

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَاطِفِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبَاكِينَ

اور صلوٰۃ بھیج مہربانی سے پیش آنے والوں کے سردار محمد پر۔ اور صلوٰۃ بھیج (خوف خداوندی سے) رونے والوں کے سردار محمد پر

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَائِمِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الرَّائِعِينَ

اور صلوٰۃ بھیج (نمازوں میں) قیام کرنے والوں کے سردار محمد پر۔ اور صلوٰۃ بھیج رکوع کرنے والوں کے سردار محمد پر

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّاجِدِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُصَلِّينَ

اور صلوٰۃ بھیج سجدہ کرنے والوں کے سردار محمد پر۔ اور صلوٰۃ بھیج نمازیوں کے سردار محمد پر

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَائِمِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَاعِدِينَ

اور صلوٰۃ بھیج قراءت کرنے والوں کے سردار محمد پر اور صلوٰۃ بھیج قعدہ کرنے والوں کے سردار محمد پر

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَزْهَدِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُوقِنِينَ

اور صلوٰۃ بھیج بہت بڑے زاہدین کے سردار محمد پر اور صلوٰۃ بھیج ارباب یقین کے سردار محمد پر



وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنَاجِيْنِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَانِعِيْنَ

اور صلوٰۃ بیچ مناجات کرنے والوں کے سردار محمد پر۔ اور صلوٰۃ بیچ ارباب تقاضت کے سردار محمد پر

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْحَافِظِيْنَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْحَاكِمِيْنَ

اور صلوٰۃ بیچ حافظوں کے سردار محمد پر اور صلوٰۃ بیچ حکمرانوں کے سردار محمد پر

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْتَبِدِيْنَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ النَّاطِرِيْنَ

اور صلوٰۃ بیچ مرشدین کے سردار محمد پر۔ اور صلوٰۃ بیچ نجاتوں کے سردار محمد پر

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْجَائِعِيْنَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُبَارِكِيْنَ

اور صلوٰۃ بیچ (قرن نفس کے لیے) بھوکے رہنے والوں کے سردار محمد پر اور صلوٰۃ بیچ ارباب برکت کے سردار محمد پر

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُوَحِّدِيْنَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَائِلِيْنَ

اور صلوٰۃ بیچ موحدین کے سردار محمد پر اور صلوٰۃ بیچ قبولہ کرنے والوں کے سردار محمد پر

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ النَّاصِرِيْنَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الظَّاهِرِيْنَ

اور صلوٰۃ بیچ ناصرین کے سردار محمد پر۔ اور صلوٰۃ بیچ غلبہ پانے والوں کے سردار محمد پر

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الظَّاهِرِيْنَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْوَارِثِيْنَ

اور صلوٰۃ بیچ ارباب ظفر کے سردار محمد پر اور صلوٰۃ بیچ وارثین کے سردار محمد پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَمَوْلَى الْعَالَمِيْنَ مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بیچ سیدنا و مولانا اور مولائے کائنات محمد پر

عَدَدَ آيَاتِ الْقُرْآنِ حَرْفًا حَرْفًا وَعَلَى إِلِهِ الْكِرَامِ وَأَصْحَابِهِ الْعِظَامِ

قرآن مجید کی آیات کے حرف حرف کی گنتی کے مطابق اور آپ کی آل کرام پر۔ اصحاب عظام

وَسَادَاتِهِ الْفَخَامِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي بِنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ

اور سادات معظمین پر اور کمال سلامتی نازل فرما۔ اے اللہ بنا دے مجھے بطفیل اپنے نبی و رسول کے جو

سَيِّدِ الْخَلْقِ بِسَيَادَتِكَ عَلَيْهِمْ وَبِسَيِّدِ السَّادَاتِ مُطِيعًا

سب مخلوق کے سردار ہیں بسبب تیری سیادت کے ان سب پر اور بطفیل سید السادات کے فرمانبردار اور



وَاجْعَلْنِي صَبُورًا شَكُورًا وَاجْعَلْنِي مِمَّنْ يَذْكُرُكَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَ

بنا دے مجھے بہت صابر و شاکر اور بنا مجھے ان لوگوں سے جو تیرا بہت ذکر کرتے ہیں اور

يُسَبِّحُكَ بَكْرَةً وَأَصِيلًا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تیری تسبیح کرنے میں صبح و شام۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَارِفِينَ وَالرَّاهِدِينَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور آپ کی آل پر جو سب زاہدین اور عارفین کے سردار ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْهَفَاتِحِينَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا سردار ہیں فیصلے کرنیوالوں اور

وَالْبَشِيرِينَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

بشارت دینے والوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُقْرَبِينَ وَالْمَقْبُولِينَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

پر جو آقا سردار ہیں مقربین اور مقبولین کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنِيبِينَ وَالْيَتِيمِينَ

سیدنا محمد اور آپ کی آل پر جو آقا سردار ہیں اہل انابت و رجوع الی اللہ اور یتیموں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

سَيِّدِ الْقَائِمِينَ وَالْحَافِظِينَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

جو سردار ہیں اہل قیام اور حافظوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَالَمِينَ وَالنَّاصِرِينَ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو سب جہان والوں اور ناصرین کے سردار ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر



سَيِّدِ الْحَامِلِينَ وَالْخَاشِعِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جو آقا سردار ہیں حاملانِ روحی کے اور اربابِ مشورے کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْهَرَمِزِيِّينَ وَالرَّاشِدِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور آپ کی آل پر جو سردار ہیں رزق دے ہوؤں اور راہ راست پانے والوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الرَّاعِيينَ

و سلام بھیج محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں (اللہ کی طرف) رغبت رکھنے والوں

وَالْمَجْتَبِيينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اور منتخب حضرات کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو سردار

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الرَّاعِيينَ وَالْعَابِدِيينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

ہیں رکوع کرنے والوں اور عبادت گزاروں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الذَّاكِرِيينَ وَالْمَسْعُوْدِيينَ اللَّهُمَّ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا سردار ہیں اربابِ ذکر اور سعادت مندوں کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الطَّاهِرِيينَ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں اربابِ تطہیر و

وَالطَّاهِرِيينَ اللَّهُمَّ طَهِّرْ مِنْ مَحَبَّةِ الدُّنْيَا قُلُوبَنَا وَبَصُرَ عِيُونَنَا

اصحابِ طہارت کے۔ اے اللہ پاک فرما دنیاوی محبت سے ہمارے قلوب کو اور دکھلا ہمارے عیوب

فِي عِيُونِنَا اللَّهُمَّ تَرَيِّنْ ظَوَاهِرَنَا بِطَاعَتِكَ وَبِوَاطِنَنَا بِخَشِيَّتِكَ

ہماری آنکھوں کو۔ اے اللہ تریں ظاہر کو اپنی اطاعت کے ساتھ اور ہمارے باطن کو اپنی خشیت

وَمَعْرِفَتِكَ اللَّهُمَّ صَغِّرِ الدُّنْيَا فِيْ أَعْيُنِنَا وَأَعْظِمِ جَلَالَكَ فِيْ

اور معرفت کے ساتھ۔ اے اللہ حقیر بنا دے دنیا کو ہماری نظروں میں اور عظیم بنا دے اپنے جلال کو

قُلُوبِنَا بِحُرْمَتِ رَبِّنَا اغْفِرْ لَنَا وَإِلْخَوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ

ہمارے قلوب میں بطفیلِ حرمت (اس قول کے) اے رب ہمارے ہیں بخش اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے سبقت لگے ایمان کے ساتھ



وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

اور نہ پیدا فرما ہمارے دلوں میں کینہ اہل ایمان کے لیے اے ہمارے پروردگار بیشک تو بہت رؤف و رحمت والا ہے

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ

اور سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ بظیفیر نبوی رحمت کے اے سب زیادہ رحمت فرمانے والے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا

الصَّابِرِينَ وَالْغَائِبِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

روزہ داروں کے سردار ہیں اور تمام باقی رہنے والوں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُجْتَمِعِينَ وَالْمُصَدِّقِينَ اللَّهُمَّ

اور آپ کی آل پر جو ارباب اجتماع و اصحاب تصدیق کے سردار ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو ارباب

السَّالِمِينَ وَالْبَطِيعِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سلامت اور اطاعت گزاروں کے سردار ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُشْفِقِينَ وَالْمَخْلُوقِينَ اللَّهُمَّ

اور سیدنا محمد کی آل اظہار پر جو سردار ہیں شفقت فرمانے والوں کے اور تمام مخلوق کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا

الْأُولَى وَالْآخِرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اولیٰ و آخرین کے سردار ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُقْتَصِدِينَ وَالْجَائِعِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

کی آل پر جو آقا درمیانہ رو لوگوں اور (قرنفس کی خاطر) بھوکے رہنے والوں کے سردار ہیں۔ اے اللہ صلوات



وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْشِدِيْنَ وَ

و سلام نازل فرما مرشدین و مبارک لوگوں کے سردار محمد پر اور

الْمُبَارَكِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

ان کی آل پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الظَّافِرِيْنَ وَالْمُظْفِرِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

ظفر مند اور ارباب ظفر کے سردار محمد پر اور آپ کی آل پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَائِلِيْنَ وَالسَّائِحِيْنَ اَللّٰهُمَّ

اور آل محمد پر جو قیلولہ کرنے والوں اور سیاحت والوں کے سردار ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا سردار ہیں

الْمُوَافِقِيْنَ وَالْمُؤْمِرِ وَدِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

موافقیت کرنے والوں کے اور وار کئے جانے والوں کے (جوئی کوثر پر) اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر

وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الدَّاكِرِيْنَ وَالْمَذْكُوْرِيْنَ اَللّٰهُمَّ

اور آل محمد پر جو سردار ہیں ذکر خداوند کرنے والوں اور ذکر کئے جانے والوں کے۔ اے اللہ

اجْعَلْ اَلْسِنَتَنَا رَطْبًا يَدُكَ وَنَفْسَنَا مَطِيْعَةً لِاَمْرِكَ وَقُلُوْبَنَا

ہماری زبانوں کو اپنے ذکر کے ساتھ تر و تازہ رکھ اور ہمارے نفوس کو اپنے حکم کا فرمانبردار بنا۔ اور ہمارے قلوب کو

مَمْلُوْةٌ بِمَعْرِفَتِكَ وَاَرْوَاحَنَا مَكْرَمَةٌ بِمَشَاهِدَتِكَ وَاَسْرَارَنَا

اپنی معرفت سے بھر پور فرما۔ اور ہماری روحوں کو اپنے مشاہدہ سے مشرف فرما اور ہمارے اسرار و براطن کو

مُنْعِمَةٌ بِقُرْبِكَ وَاَرْمِقْنَا زُهْدًا فِيْ دُنْيَاكَ وَمَزِيْدًا اَلَيْكَ اِنَّكَ

اپنے قرب خاص سے نعمت یافتہ بنا۔ اور ہمیں اپنی دنیا سے بے رغبتی عطا فرما۔ اور اپنے ہاں زبردانعامات عطا فرما۔ بیشک تو

عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

ہر چیز پر ہمیشہ کے لیے قدرت والا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور



عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَجِيْبِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى

آل محمد پر جو آقا (احکام خداوند) قبول کرنے والوں کے سردار ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَاقِلِيْنَ وَالْمُتَعَبِدِيْنَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو ارباب عقل و دانش اور عبادت گزاروں کے سردار ہیں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا سردار ہیں

الْمُحْرَضِيْنَ وَالْمُقْتَرِبِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ترغیب دہنے والوں اور قرب پانے والوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُسِيْحِيْنَ وَالْمُرْتَدِيْنَ اَللّٰهُمَّ

اور آپ کی آل پر جو آقا مسیح کہنے والوں اور (قرآن کو) خوش اسلوبی سے پڑھنے والوں کے سردار ہیں۔ اے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا سردار ہیں

الْمَأْمُوْلِيْنَ وَالْمُحَقِّقِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

امید دلانے والوں اور ابواب حقیق کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الدَّاعِيْنَ وَالرَّائِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

اور آپ کی آل پر جو آقا سردار ہیں دعا کرنے والوں اور صالِحین کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السَّابِقِيْنَ وَالْمُتَعَبِدِيْنَ

و سلام نازل فرما سابقین اور عظیم تر لوگوں کے سردار محمد پر اور ان کی آل پر

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَوْفِقِيْنَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور ان کی آل پر جو آقا سردار ہیں ارباب توفیق

وَالْعَافِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

اور درگزر کرنے والوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد و آل محمد پر جو آقا



الْمَبْتُورِينَ وَالْمَحْرُورِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى

سردار ہیں ارباب تجرید اور مصومین کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد و آل محمد پر

إِلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنْزَلِينَ وَالْمُتَبَتِّلِينَ وَالْمُتَوَاضِعِينَ اللَّهُمَّ

جو آقا سردار ہیں ارباب تنزیل۔ اصحاب تجرید اور ارباب تواضع کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَفَكِّرِينَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا سردار ہیں اہل تفکر

وَالْمُبِجِّلِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

اور اہل تعظیم کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا سردار ہیں

الْمُتَوَسِّبِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ارباب فراست کے اور ہاجرین کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد و آل

إِلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُظْهِرِينَ وَالْغَافِرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

محمد پر جو آقا سردار ہیں مظاہر تجلیات الہیہ کے اور مغفرت سے کام لینے والوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَبْرُهِنِينَ وَالسَّابِحِينَ اللَّهُمَّ

محمد پر اور آل محمد پر جو آقا سردار ہیں ارباب براہین اور اصحاب تسبیح کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَعَفِّفِينَ وَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد و آل محمد پر جو آقا سردار ہیں ارباب عفت اور

الْمَرْضِيِّينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

پسندیدگان بارگاہ الوہیت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد و آل محمد پر جو آقا سردار ہیں

الْمَادِحِينَ وَالْأَرْفَعِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى

مدح کرنے والوں کے اور ارباب رفعت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

إِلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَدَبِّرِينَ وَالْمُنْشِئِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آل پر جو آقا سردار ہیں اصحاب تدبیر کے اور دستور حیات وضع کرنے والوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما





عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الرَّاجِينَ وَالْمُؤْمِلِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں اصحاب رجاء و امید کے اور امید لانے والوں کے۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَوَرِّعِينَ وَالْمَعْرُوفِينَ

و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں اہل تقویٰ و احتیاط کے اور مشہور لوگوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُهْدِيِّينَ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں ہدایت یافتگان کے

وَالْمُقْتَبِسِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

اور انوار کا استفادہ کرنے والوں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں

الْمُخْبِرِينَ وَالْمُفْضِلِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ارباب بعیرت کے اور اہل فضیلت کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد پر اور آل

آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُهَلِّدِينَ وَالْعَاكِفِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

محمد پر جو سردار ہیں لا الہ الا اللہ کہنے والوں کے اور مخفیوں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْفَائِزِينَ وَالْمُشَاهِدِينَ اللَّهُمَّ

محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں ارباب فزیت اور اہل شہود کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَصَدِّقِينَ وَ

صلوات و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں صدق دینے والوں کے اور

الْمُخْتَارِينَ اللَّهُمَّ شَرِّفْنَا بِشَاهِدَةِ جَمَالِكَ وَبِخَلْعَةِ وَصَالِكَ

پسندیدگان حضرت حق کے۔ اے اللہ ہمیں مشرف فرما اپنے جمال کے شاہدہ اور اپنے وصال کی خلعت کے ساتھ

وَأَرْضُ قُنَا نِعْمَةً لِقَائِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

اور ہمیں عطا فرما اپنی ملاقات کی نعمت۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد پر اور آل

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَحَاضِرِينَ وَالْمُتَطَهِّرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد پر جو سردار ہیں سابقین کے اور ارباب طہارت کاملہ کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما



عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَوْلَعِينَ وَالْمَدَقِّقِينَ اللَّهُمَّ

محمد پر اور آل محمد پر جو باہم الفت پیدا کرنے والوں اور ارباب تدقیق کے سردار ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُفْلِحِينَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو اہل فلاح کے سردار اور

وَالْمَسَاكِينِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

مساکین کے حاجت روا پر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں

الْمُسْتَجِيرِينَ وَالْمُخَيَّرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اللہ تعالیٰ کی اپنا حاصل کرنے والوں کے اور ارباب خیرات کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد پر اور آل

آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ التَّائِبِينَ اللَّهُمَّ ارِنِي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ يُورَثُ

محمد پر جو سردار ہیں اہل توبہ کے۔ اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں ہر آس گناہ کے لیے

النِّسْيَانَ لِيَذْكُرَكَ أَوْ يُعَقَّبُ الْغَفْلَةَ عَنْ تَحْذِيرِكَ وَيَتِمَّ أَدَى

جو موجب ہو تیرے ذکر کے بھولنے کا یا انجام کار غفلت لانے والا ہو تیرے ڈرانے اور تحذیف سے اور مجھے لے جانے والا

رَبِّي إِلَى الْأَمْنِ مِنْ مَكْرِكَ وَيُؤَسِّنِي مِنْ خَيْرِ مَا عِنْدَكَ وَلِكُلِّ

ہو تیری خفیہ تدبیر سے بے خوفی کی طرف اور مجھے مایوس کرنے والا ہو تیری خیرات سے اور ہر اس گناہ

ذَنْبٍ لِحَقْنِي بِسَبَبِ عَتَبِي عَلَيْكَ فِي أَحْبَابِ الرَّمْزِ عَلَى

کے لیے جو مجھے لاحق ہوا بسبب میری ناراضگی کے تیرے رزق روکنے پر مجھ سے

وَشَكَائِي مِنْكَ وَإِعْرَاضِي عَنْكَ وَمِيلِي إِلَى عِبَادِكَ بِالْإِسْتِكَانَةِ

اور تجھ سے شکایت کے اور روگردانی کے تجھ سے اور رغبت کرنے کے طرف تیرے بندوں کے اور

لَهُمُ وَالْتَضَرُّعِ إِلَيْهِمْ وَقَدْ أَسْمَعْتَنِي قَوْلَكَ فِي مُحْكَمِ كِتَابِكَ

ان کے سامنے مسکنت کے اظہار اور زاری و انکساری کے حالانکہ تو نے مجھے سنا دیا تھا اپنا یہ فرمان اپنی حکمت میں

فَمَا اسْتَكَانُوا إِلَيْهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ وَلِكُلِّ ذَنْبٍ لَزِمَنِي

۴ ایسی نہ مسکنت ظاہر کی انہوں نے اپنے پروردگار کے لیے اور نہیں زاری کرتے اور ہر آس گناہ کے لیے جو مجھے لازم ہوا



بِسَبَبِ كُرْبَةٍ اِسْتَعْتْتُ عِنْدَهَا بِغَيْرِكَ وَاسْتَعَنْتُ عَلَيْهَا بِسِوَاكَ

بِسَبَبِ اس تکی وزحمت کے جس پر استغاثہ کیا تیرے اغیار کے ساتھ اور استغانت کی تیرے ماسوا کے ساتھ

وَاسْتَمَدْتُ بِأَحَدٍ فِيهَا دُونَكَ اللَّهُمَّ لَا تَوْمَنَا مَكَرَكَ وَلَا تَنْسِنَا

اور توفیق و اعانت طلب کی اس میں کسی بھی شخص سے تجھ سے تجاوز کرتے ہوئے۔ لے اللہ ہمیں نہ بے خوف کرا بی خفیہ تدبیر سے

ذِكْرَكَ وَلَا تَهْتِكْ عَنَّا سِتْرَكَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْغَافِلِينَ اللَّهُمَّ

اور نہ بھلا ہمیں اپنا ذکر اور نہ بھاڑ ہم پر سے اپنا پردہ اور نہ داخل فرما ہمیں غافلوں میں۔ لے اللہ

اجْعَلْ سِرِّي رَاقِي خَيْرٍ اِمْنٍ عَلَانِيَتِي وَاَجْعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحَةً

بنامیرے باطن کو بہتر میرے ظاہر سے اور بنا دے میرے ظاہر کو نیک۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ عِبَادِكَ الْمُخْبِتِينَ الْغَرَّ الْمُحْجَلِينَ وَالْوَفْدِ

لے اللہ بنا ہمیں اپنے ان بندوں سے جو فروتنی و انکساری والے ہیں، روشن چہروں، نورانی اعضاء والے اور قبولیت

الْمُتَقَبِّلِينَ اللَّهُمَّ قِنِي شَرَّ نَفْسِي وَاَعِزُّ مِرْلِي عَلَيَّ اَرْشِدْ اَمْرِي

پانے والے وفد ہیں۔ لے اللہ مجھے بچا شر نفس سے اور مجھے عزیمت بخش درست ترین امر پر۔

اللَّهُمَّ لَا تَكْلِبْنِي اِلَى نَفْسِي طُرْفَةَ عَيْنٍ وَلَا تَنْزِعْ مِنِّي صَالِحَ

لے اللہ نہ سونپ مجھے میرے نفس کی طرف آنکھ پھینکنے کی دیر اور نہ سلب فرما مجھ سے اچھی نعمت

مَا اَعْطَيْتَنِي فَاِنَّهُ لَا نَزَاعَ لَهَا اَعْطَيْتَ وَلَا يَعْصِمُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ

جو تو نے عطا فرمایا کیونکہ نہیں پھینکنے والا کوئی اسے جو تو عطا کرے اور نہیں بچا سکتا کسی بخت و اقبال والے کو تجھ سے اس کا

الْجَدُّ اللَّهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَتِي فَاَقْبَلْ مَعْدَاَتِي وَ

بخت و اقبال۔ لے اللہ بیشک تو جانتا ہے میرے باطن اور ظاہر کو پس قبول فرما میری معذرت کو۔ اور

تَعْلَمُ حَاجَتِي فَاَعْطِنِي سَوْاِلِي وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي

تو جانتا میری حاجت پس عطا فرما مجھے میرا مطلب اور تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے پس میرے

ذُنُوبِي وَاَرْحَمِنِي يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

گناہ بخش اور مجھ پر رحم فرما لے ارحم الراحمين۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما



مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبُوقِينِ وَالْمُرِيدِينَ اللَّهُمَّ

محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں ارباب یقین اور اہل ارادت کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُسْتَفِيئِينَ وَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں فریاد رسی اور

الْمُسْتَعِينِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ

مدد طلب کرنے والوں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر

سَيِّدِ الْمُتَحَيِّرِينَ وَالْمُتَحَابِّينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ

جو سردار ہیں مقام حیرت والوں کے اور باہمی محبت والوں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُجَنَّبِينَ وَالْمُصْلِحِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور آل محمد پر جو آقا کہ سردار ہیں کفر و بد عملی سے اور کرنے والوں اور اصلاح کرنے والوں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُؤَدِّبِينَ وَالْمُكَبِّرِينَ

محمد پر اور آل محمد پر جو آقا سردار ہیں آداب سکھانے والوں کے اور الشکر کی کبریائی بیان کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُعْتَصِمِينَ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں اہل عصمت کے اور راہِ خدا

وَالْبَارِئِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

میں از مگاہ کھینکنے والوں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد و آل محمد

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنَاطِرِينَ وَالْمُسْتَبْشِرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

پر جو آقا سردار ہیں احقاقِ حق کے لیے مناظرہ کرنے والوں کے اور اہل بشارت کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُفَسِّرِينَ وَالْمُحْسِنِينَ اللَّهُمَّ

محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں مفسرین کے اور نیکو کاروں کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُحْصِنِينَ وَالْمُجْتَبِينَ

صلوات و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں پاکبازوں کے اور پسندیدگانِ حضرت حق کے





اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَكَلِّمِينَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں متکلمین کے

وَالْبَيِّنِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

اور ارباب بیان و تشریح کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا سردار ہیں

الْمُبَشِّرِينَ وَالْمُنذِرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى

جنت کی بشارت دینے والوں اور دوزخ سے ڈرانے والوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور

آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُقْسِطِينَ وَالْمُوحِدِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آل محمد پر جو سردار ہیں اہل انصاف کے اور موحدین کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَّبِعِينَ وَالْمُجَلِّينَ اللَّهُمَّ

محمد پر اور آل محمد پر جو آقا کہ سردار ہیں اہل اتباع کے اور نورانی اعضاء والوں کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُفْلِحِينَ وَالْمُتَهَلِّلِينَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں اہل تلاح اور ارباب تھلیل کے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُسَبِّحِينَ وَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں ارباب تسبیح اور

الْمُحَقِّقِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

اصحاب تحقیق کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں

الْمُتَحَقِّقِينَ وَالْمُتَهَجِّدِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى

مقام تحقیق پر فائز لوگوں اور شب بیداروں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور

آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُطَهَّرِينَ وَالْمُسَجِّدِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

آل محمد پر جو سردار ہیں پشت پناہی کرنے والوں اور بزرگی خالق بیان کرنے والوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بیج

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُقْصِرِينَ وَالْمُحَلِّقِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں حج و عمرہ میں بالوں کے قصر اور حلق کرانے والوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و





وَسَلِّمْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُحْرَمِيْنَ وَالْمُعَبَّدِيْنَ

سلام بھیج محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں احرام والوں اور بہت عبادت گزاروں کے

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَشَهِّدِيْنَ

اے اللہ صلوات و سلام بھیج محمد پر اور آل محمد پر جو آقا کہ سردار ہیں شہادت توحید دینے والوں

وَالْمُسْتَشْهِدِيْنَ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ

کے اور گواہ بنائے جانے والوں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد پر اور آل

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَّقِيْنَ وَالْمُحْسِنِيْنَ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

محمد پر جو سردار ہیں اہل تقویٰ اور ارباب احسان کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنْفِقِيْنَ وَالْبَصِلِيْنَ اللّٰهُمَّ صَلِّ

محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں در راہ خداوند تعالیٰ میں اخراج کرنے والوں کے اور نمازیوں کے۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُقَدَّسِيْنَ وَالْمُؤْتَكِفِيْنَ

و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنے والوں اور اس کی آتش عشق میں جلنے والوں کے

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَجْسِرِيْنَ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں اہل جرأت کے

وَالْمُعْظَمِيْنَ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ

اور ارباب تعظیم کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر

سَيِّدِ الْمُبْلَغِيْنَ وَالْمُقَابِلِيْنَ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی مُحَمَّدٍ

جو سردار ہیں تبلیغ کرنے والوں کے اور مقابلہ کرنے والوں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد پر

وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُخْلِصِيْنَ وَالْمُعْرِفِيْنَ اللّٰهُمَّ صَلِّ

اور آل محمد پر جو سردار ہیں اہل اخلاص کے اور حق کی پہچان کرنے والوں کے۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُبَارِكِيْنَ وَالْبَيْلِدِيْنَ

و سلام بھیج محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں اہل برکت کے اور زاری کرنے والوں کے



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَبْتَلِينَ وَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں تبلیہ کئے والوں کے اور

الْمُشْتَاقِينَ إِلَى لِقَاءِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

شوق رکھنے والوں کے رب العالمین کی ملاقات کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرَافِقِينَ وَالْمُرَاقِبِينَ اللَّهُمَّ

محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں رفیق و ملاقات والوں کے اور نگہبانوں کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنْصِفِينَ وَالْمُنَجِّينَ

صلوٰۃ و سلام بھیج محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں منصفین کے اور نجات دلائیروں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنَاجِيْنَ وَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں مناجات والوں اور

الْمُعَارِفِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

عرفان والوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں

الْمُرِيحِينَ وَالْمُنْعِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى

راحت رساقوں اور انعام بخشنے والوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج محمد پر اور

آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُسَيَّبِينَ وَالْمُسَيَّبِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آل محمد پر جو سردار ہیں کارسازوں کے اور رہائی دلانے والوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَجَلِّينَ وَالْمُنَادِيْنَ

سلام بھیج محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں نورانی لوگوں کے اور اعلان حق کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں

الْمُحْرِضِينَ وَالْمُفْرِحِينَ اللَّهُمَّ ثَبِّتْنِي أَنْ أَزِلَّ وَأَهْدِنِي

آبادۃ الطاعت کرنے والوں کے اور فرحت بخشنے والوں کے۔ اے اللہ مجھے ثابت قدم رکھ پھلنے سے اور ہدایت پر رکھ





أَنْ أَضِلَّ اللَّهُمَّ كَمَا حُلَّتْ بَيْنِي وَبَيْنَ قَلْبِي فَحُلْ بَيْنِي

تاکر گمراہ نہ ہو سکوں۔ اے اللہ جیسے تو حائل ہوا درمیان میرے اور میرے دل کے پس حائل ہو درمیان میرے

وَبَيْنَ الشَّيْطَانِ وَعَمَلِهِ اللَّهُمَّ ارْمُرْنَا مِنْ فَضْلِكَ وَ

اور درمیان شیطان اور اس کے عمل کے۔ اے اللہ ہمیں عطا فرما اپنے فضل سے اور

لَا تَحْرِمْنَا رِزْقَكَ وَبَارِكْ لَنَا فِيهِمَا رِزْقَنَا وَاجْعَلْ غِنَاءَنَا فِي

محروم نہ فرما اپنے رزق سے اور برکت دے ہمارے لیے اس میں جو تو نے عطا فرمایا اور پیدا فرما ہمارے لیے غنا کو ہمارے

أَنْفُسِنَا وَاجْعَلْ رَغْبَتَنَا فِيهِمَا عِنْدَكَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ سَأَلْتَنَا مِنْ

نفس میں اور بنا ہماری رغبت صرف اس میں جو تیرے پاس ہے۔ اے اللہ بیشک تو نے مطالبہ کیا ہم سے

أَنْفُسِنَا مَا لَا تَمْلِكُهُ إِلَّا بِكَ فَأَعْطِنَا مِنْهَا مَا يُرْضِيكَ عَنَّا اللَّهُمَّ

ہمارے نفس کے ان افعال کا جو ہمارے ملک میں نہیں ہیں مگر ساتھ تیری توفیق کے پس عطا فرما ہمیں ان سے وہ قدرت و طاقت جو تجھے ہم سے راضی کر دے۔ اے اللہ

إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَبَّتْ إِلَيْكَ مِنْهُ ثُمَّ عُدْتُ فِيهِ وَأَسْتَغْفِرُكَ

میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اس گناہ کی جس سے میں نے توبہ کی پھر اس کی طرف رجوع کیا اور میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں

لِمَا أَعْطَيْتُكَ مِنْ نَفْسِي ثُمَّ لَمْ أُؤْفَ بِكَ بِهِ وَأَسْتَغْفِرُكَ

اس عہد سے جو میں نے دیا پھر اس کے ساتھ وفا نہ کی۔ اور استغفار کرتا ہوں

لِلنِّعَمِ الَّتِي تَقَوَّيْتُ بِهَا عَلَى مَعْصِيَتِكَ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ خَيْرٍ

ان نعمتوں کی وجہ سے جن سے میں نے تقویت حاصل کی تیری معصیت پر اور استغفار کرتا ہوں تجھ سے واسطے ہر اس خیر کے

أَرَدْتُ بِهِ وَجْهَكَ فَخَالَطَنِي فِيهِ مَا لَيْسَ لَكَ اللَّهُمَّ لَا تُخْرِجْنِي

جس کے ساتھ میں نے تیری رضا مندی کا قصد کیا پس شامل ہو گیا اس میں وہ قصد جو تیرے لیے نہیں تھا۔ اے اللہ مجھے رسوا نہ فرما

فَإِنَّكَ بِنِي عَالِمٌ وَلَا تُعَذِّبْنِي فَإِنَّكَ عَلَى قَادِرٍ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي

بیشک تو میرے متعلق جاننے والا ہے اور مجھے عذاب نہ دے پس تحقیق تو مجھ پر قادر ہے۔ اے اللہ تو بنا دے مجھے

مِمَّنْ تَوَكَّلَ عَلَيْكَ فِكْفَيْتَهُ وَأَسْتَهْدَاكَ فَهَدَيْتَهُ وَأَسْتَنْصِرُكَ

اپنے اوپر توکل کرنے والوں سے جنہیں تو نے کفایت فرمائی اور تجھ سے طالب ہدایت ہوئے پس تو نے انہیں ہدایت دی اور تجھ سے نصرت طلب کی



فَنَصْرَتَهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ وَسَاوِسَ قَلْبِي خَشِيَتَكَ وَذِكْرَكَ وَ

پس ترے انہیں نصرت دی۔ اے اللہ تبدیل فرما میرے قلبی وسوسوں کو اپنی خشیت اور ذکر سے۔ اور بنا لے

اجْعَلْ هَمَّتِي وَهَوَايَ فِيمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى اللَّهُمَّ وَمَا بَتَلَيْتَنِي

میری ہمت اور خواہش کو ان امور میں جو تجھے محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ اے اللہ اور ترے آزمائش میں مولا مجھے

بِهِ مِنْ سُخَاءٍ وَشِدَّةٍ فَمَسْكِنِي بِسُنَّةِ الْحَقِّ وَشَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ

جس فراہمی اور تنگی کے ساتھ تو روکے رکھ مجھے سنت حق کے ساتھ اور شریعت اسلام کے ساتھ۔

اللَّهُمَّ وَفَقَّنِي لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى مِنَ الْعَمَلِ وَالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ

اے اللہ مجھے توفیق دے اپنے محبوب اور پسندیدہ عمل و قول اور فعل و

وَالنِّيَّةِ وَالهُدَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

نیت اور ہدایت کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں

الْمَلْبَسِينَ وَالْمُنْظِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

لباس پہنانے والوں اور ایک لڑائی میں پر سونے والوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج محمد پر اور آل

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُؤْتَلِدِينَ وَالْمُسَكِّنِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

محمد پر جو سردار ہیں پائیدار عزت والوں اور اقتدار بخشے والوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَمَكِّنِينَ وَالْمُبَيِّنِينَ اللَّهُمَّ

محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں ارباب اقتدار کے اور اہل بیان و ترمیح کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَبَسِّمِينَ وَ

صلوٰۃ و سلام بھیج محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں تبسم فرماتے والوں کے اور

الْمُبَيِّنِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

روشن و نورانی لوگوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں

الْمُتَفَرِّعِينَ وَالْمُدْلِحِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى

بلند مرتبت لوگوں کے اور شیریں گفتاروں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج محمد پر اور



إِلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُهْتَدِينَ وَالْمُرْتَمِلِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آل محمد پر جو سردار ہیں درستی و اصلاح کرنے والوں کے اور کبیل پوشوں کے۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج

عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَدَنِيِّينَ وَالْمَصَافِحِيِّينَ

محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں چادر اوڑھنے والوں اور مصافحہ کرنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَفَاخِرِينَ

لے اللہ صلوات و سلام بھیج محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں اہل فخر و

وَالْمُبَارِحِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

ناز کے۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج محمد پر اور آل محمد پر

سَيِّدِ الْمُتَقَابِلِينَ وَالْمُعَاهِدِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

جو سردار ہیں مقابلہ کرنے والوں کے اور معاہدہ کرنے والوں کے۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُسْتَغْفِرِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي

محمد پر اور آل محمد پر جو استغفار کرنے والوں کے سردار ہیں۔ لے اللہ میں تجھ

أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ حَمَلَنِي عَلَيْهِ الْخَوْفُ مِنْ غَيْرِكَ أَوْ

سے استغفار کرتا ہوں ہر اس گناہ سے جس پر آمادہ کیا مجھے غیر اللہ کے خوف نے یا

دَعَانِي إِلَى التَّضَرُّعِ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ أَوْ اسْتِمَالِنِي إِلَى

دعوت دی اس نے زاری کی کسی بھی مخلوق کی طرف یا مائل کیا مجھے طرف

الطَّمَعِ فِيمَا عِنْدَ غَيْرِكَ فَانْتَرْتُ طَاعَتَكَ فِي مَعْصِيَتِكَ

طمع و لالچ کے ان اشیاء میں جو تیرے غیر کے پاس ہیں پس میں نے ترجیح دی اس کی اطاعت کو تیری معصیت میں

اسْتَجْلِبُ بِأَيْدِيهِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِحَاجَتِي إِلَيْكَ لِمَا لَا

واسطے حاصل کرنے اس چیز کے جو اس کے ہاتھوں میں تھی حالانکہ میں جانتا ہوں اپنی محتاجی کو طرف تیرے ایسے امور میں کہ نہیں

غَنَى لِي عَنْكَ وَلِكُلِّ ذَنْبٍ مَثَّلْتُ لِي نَفْسِي اسْتِقْلَالَهِ وَ

بے نیازی میرے لیے تجھ سے ان میں اور ہر اس گناہ کی کہ مزین کیا میرے لیے نفس نے اس کی قلت کو اور



صَوَّرْتُ لِي اسْتِصْفَارَهُ وَقَلَّتْهُ حَتَّى وَرَّطْتَنِي فِيهِ وَلِكُلِّ

متصور کیا اس کی ضرورت و حاجت کو اور اسے حقیر قرار دیا حتیٰ کہ اس ہلاکت و بھنور میں ٹوال دیا اور ہر

ذَنْبٍ جَرَى بِهِ قَلَمُكَ وَأَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ فَنِيَّ وَعَلَىٰ إِلَىٰ آخِرِ

اس گناہ کے لیے کہ جاری ہوا ساتھ اس کے تیرا قلم تقدیر اور محیط ہے اسے تیرا علم ازلی جو متعلق ہے میری عمر کے

عُمُرِي وَلَجَمِيعِ ذُنُوبِي كُلِّهَا أَوَّلُهَا وَآخِرُهَا عَمْدُهَا وَخَطَايَاهَا

آخری حصے تک اور اپنے تمام گناہوں پر اول و آخر اور عمد و خطا کے لیے

قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا صَغِيرُهَا وَكَبِيرُهَا دَقِيقُهَا وَجَلِيلُهَا قَدِيمُهَا وَ

قلیل و کثیر، صغیر و کبیر، باریک و بڑے، پرانے اور نئے

حَدِيثُهَا سِرُّهَا وَجَهْرُهَا خَفِيَّتُهَا وَعَلَانِيَّتُهَا وَلِمَا أَنَا مُذْنِبٌ

سری اور جہری خفیہ اور علانیہ کے لیے اور ان تمام گناہوں کے لیے جن کا میں مرتکب ہو سکتا ہوں

فِي جَمِيعِ عُمُرِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ

اپنی تمام عمر میں - اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے اور

قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ

اس دل سے جو خشوع نہ کرے اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ يَوْمِ السُّوْرِ وَمِنْ لَيْلَةِ السُّوْرِ وَمِنْ

اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برائی والے دن سے اور رات سے اور

سَاعَةِ السُّوْرِ وَمِنْ صَاحِبِ السُّوْرِ وَمِنْ جَارِ السُّوْرِ فِي دَارِ

بری ساعت سے اور بڑے ساتھی سے اور بڑے پڑوسی سے دار اقامت

الْمَقَامَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

میں - اے اللہ صلوات و سلام بھیج محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں

الْمُقِيمِينَ وَالْمُرْدِفِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اقامت گزینوں کے اور پیچھے سوار کرنے والوں کے - اے اللہ صلوات و سلام بھیج محمد پر اور



إِلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُقْتَسِبِينَ وَالْمُفْتُونِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

آل محمد پر جو سردار ہیں نصیب پانے والوں کے اور محبوب حقیقی کی محبت کے مفتونین کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُسْتَمِعِينَ وَالْمُرْهِنِينَ

محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں غور سے سننے والوں کے اور رہن رکھنے والوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُسْفِرِينَ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں روشن و نورانی لوگوں کے

وَالْمَسْكِينِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

اور دست گیری کرنے والوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر

سَيِّدِ الْمُتَوَكِّلِينَ وَالْمُعْتَكِفِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ

جو سردار ہیں اہل توکل اور ارباب اعتکاف کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ اللَّهُمَّ

اور آل محمد پر جو سردار ہیں متقدمین کے اور متاخرین کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُتَحَمِّلِينَ وَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں بردباروں کے اور

الْمُسْتَعِدِّينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

مستعد لوگوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر

سَيِّدِ الْمُطِيعِينَ وَالْمُبْصِرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ

جو سردار ہیں اہل طاعت کے اور ارباب بصیرت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُفْتِنِينَ وَالْمُتَدَيِّنِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور آل محمد پر جو سردار ہیں اہل فتویٰ کے اور ارباب دین و مذہب کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُشْفَعِينَ اللَّهُمَّ

و سلام بھیج محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں شفاعت کرنے والوں کے۔ اے اللہ



إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ اسْتَعَنْتُ عَلَيْهِ بِحِيلَةٍ تُدْنِي مِنْ

میں استغفار کرتا ہوں تجھ سے ہر اس گناہ کے لیے جس پر میں نے استعانت کی ایسے حیلہ سے جو قریب کرتا ہے

غَضَبِكَ أَوْ اسْتَظْهَرْتُهَا لِنَيْدِهِ عَلَى أَهْلِ طَاعَتِكَ أَوْ أَسْلَمْتُ

تیرے غضب کے یا میں نے غلبہ حاصل کیا اس پر اس گناہ کے پانے میں تیرے اہل طاعت پر یا حوالے کیا

بِهَا أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ إِلَى مَعْصِيَتِكَ أَوْ رُمْتَهُ وَرَأَيْتُ بِهِ عِبَادَكَ

اس حیلہ سے کسی بھی مخلوق کو طوف تیری معصیت کے یا میں نے اس گناہ کا قصد کیا اور تیرے بندوں سے ریاکاری

أَوْ لَبَسْتُ عَلَيْهِمْ بِفَعَالِي كَأَنِّي بِحِيلَتِي أُرِيدُكَ وَالْمُرَادُ بِهِ

کی یا ان پر استتہا پیدا کیا اپنے افعال کے ذریعے گویا کہ میں اپنے حیلہ سے تیری رضا کا ارادہ رکھتا ہوں حالانکہ میری مراد

مَعْصِيَتِكَ وَالْهَوَى مُنْصَرَفٌ أَبِي عَنْ طَاعَتِكَ وَلِكُلِّ ذَنْبٍ

تیری معصیت اور خواہش نفس مجھے پھیلنے والی ہے تیری طاعت سے۔ اور واسطے ہر اس گناہ کے

كُتِبَتْهُ عَلَى سَبَبٍ عَجَبٍ كَأَن مِّنِّي بِنَفْسِي أَوْ بِرِيَاءٍ أَوْ سَعَةٍ

جو تیرے لکھا مجھ پر سبب میرے فخر و ناز کے ساتھ اپنے نفس کے یا ریاکاری یا شہرت

أَوْ حَقْدٍ أَوْ شَحْنَاءٍ أَوْ خِيَانَةٍ أَوْ خِيَلَاءٍ أَوْ فَرَحٍ أَوْ مَرَحٍ أَوْ تَرَجٍ

یا کینہ یا بعض و حسد یا خیانت یا تمکیر کی وجہ سے یا فرحت و شادمانی یا ناز و فخر سے یا رنج و غم

أَوْ عُنْدٍ أَوْ حَسَدٍ أَوْ أَشْرٍ أَوْ بَطْرٍ أَوْ حَبِيَّةٍ أَوْ عَصَبِيَّةٍ أَوْ غَضَبٍ

یا عناد یا حسد یا غرور یا تحقیر یا حیت یا تعصب کی وجہ سے یا غضب

أَوْ بِرِضَاءٍ أَوْ رَجَاءٍ أَوْ شَجٍّ أَوْ سَخَاءٍ أَوْ ظُلْمٍ أَوْ حِيلَةٍ أَوْ سُرْقَةٍ

یا رضاء یا رجاء و امید یا بخل یا سخاوت یا ظلم یا حیلہ گری یا چوری کی وجہ سے

أَوْ كَذِبٍ أَوْ غَيْبَةٍ أَوْ لَهْوٍ أَوْ لَغْوٍ أَوْ نَمِيمَةٍ أَوْ لَعِبٍ أَوْ نَوْعٍ

یا جھوٹ یا غیبت یا لہو یا بیہودہ گوئی یا چغلی خوری یا کھیل کود یا کسی بھی

مِّنَ الْأَنْوَاءِ مِمَّا يَكْتَسِبُ بِمِثْلِهِ الذُّنُوبُ وَيَكُونُ مِنْ إِتِّبَاعِهِ

ایسے قسم کے فعل سے جس قسم کے افعال سے گناہ کئے جاتے ہیں اور ان کے درپے ہونے سے



الْعُطْبُ وَالْحُوبُ وَاعْفِرْ لِي وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَا خَيْرَ

ہلاکت اور گنہگاری لازم آتی ہے اور مغفرت فرما میرے لیے اور تمام مومن مردوں عورتوں کے لیے اسے بہتر

الْغَافِرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

تمام بخشنے والوں سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں

الْمُكَلِّفِينَ وَالْمُحَلِّلِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى

داعوام خداوندی کے ساتھ مکلف لوگوں کے اور اطمینان کو حلال ٹھہرانے والوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج محمد پر اور

آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَوْضِعِينَ وَالْمَسَافِرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

آل محمد پر جو سردار ہیں (بوجہ) ہلکا کرنے والوں کے اور سیوسفر زنی اللہ کرنے والوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الرُّسُلِ وَخَيْرِ أَوْلِي الْعِزْمِ وَعَلَى

محمد پر جو سردار ہیں تمام رسولوں کے اور برتر ہیں تمام اولوالعزم سے اور تمام

النَّبِيِّينَ وَالرُّسُلِينَ وَالْمَلَائِكَةَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَ

انبیاء و مرسلین پر اور سب ملائکہ پر اور آپ کی آل و اصحاب پر اور

الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالْعُلَمَاءَ وَالْأَوْلِيَاءَ وَالْغُرَبَاءَ وَ

صدیقین و شہداء اور علماء و اولیاء پر اور غریب و

الصَّالِحِينَ وَعَلَى كُلِّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

صالحین پر اور تمام مومن مردوں عورتوں پر روزِ قیامت تک

مِنْ أَهْلِ الْمَمَاتِ وَالْحَيَاتِ مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ صَلَوَاتِ

فوت شدگان ہوں یا زندہ انسان ہوں یا جن ایسی صلوٰۃ اور رحمتیں

مُعْطَرَاتٍ دَائِمَاتٍ تَأْتِي لَاتٍ عَلَيْهِمْ بِإِعْدَادِ مَخْلُوقَاتِكَ

جو معطر و دائم ہوں نازل ہوں ان پر تیری تمام مخلوق کے اعداد و شمار کے مطابق

تَكُونُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا مِثْلًا لِعَالَمٍ مَعَ بَرَكَاتٍ لَا تَرْمَاتِ

جن میں سے ہر صلوٰۃ پورے عالم کی مقدار ہو۔ مع برکات لازمہ کے



مُطِيبَاتٍ بِكَافُورٍ رِضْوَانِكَ وَتَحِيَّاتٍ تَرَائِيَاتٍ مُضَعَّفَاتٍ

جو خوشبودار کی گئی ہوں تیری رضامندی کے کافور کے ساتھ اور پاکیزہ تحفے اور ہدیے جو کئی گن بڑھائے گئے ہوں

مَعْجُونَاتٍ بِعَنْبَرِ فَضْلِكَ وَتَسْلِيْمَاتٍ مُسَلِّسَاتٍ لِهَزْوَاجَاتٍ

اور گوندھے گئے ہوں تیرے فضل و احسان کے عنبر کے ساتھ اور مسلسل تسلیات جو مخلوط ہوں

بِسُكِّ كَرَمِكَ وَرَأْحَمَةٍ فَارِحَةٍ فِي الْعَالَمِ تَكُونُ مَنْظَرًا

تیرے کرم کی کستوری کے ساتھ اور ایسی رحمت جو مہکنے والی ہو سارے عالم میں اور جائے نظارہ ہو

لِسُكَّانِ الْفِرْدَوْسِ وَعَرْشِ عَظِيمِكَ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ وَلَمَحَّةٍ

ساکنانِ فردوس اور عرشِ عظیم کے لیے ہر لحظہ اور ہر لمحہ

أَبَدًا مَعَهُمْ أَجْمَعِينَ أَعْنَى النَّبِيِّ الْأُرْحَمِيِّ الَّذِي عَلَّمَهُ الْقُرْآنُ

ہمیشہ ان تمام کے ساتھ ہو۔ میری مراد ہے (اس رحمت سے)۔ نبی امی جن کا (سرچشمہ) علم قرآن ہے

وَعَلَّمَهُ الرَّحْمَنُ بِهَذَا الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَخْصُوصٌ وَبِالْخَلْقِ

اور انہیں اللہ رحمن نے تعلیم دی ہے جو اس عظیم فضل کے ساتھ مخصوص ہیں اور خلق

الْعَظِيمِ مَوْصُوفٌ وَاسْمُهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عظیم کے ساتھ موصوف اور اسم گرامی ان کا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْعَالِمُ الْعَلِيمُ وَعَالِمُ دَقَائِقِ الْأَسْرَارِ وَالْخَفِيَّاتِ

اے اللہ تو عالم و عظیم ہے۔ اور اسرار و خفیات کے دقائق اور بارکیوں کا عالم ہے

الْمُحْصِي لِكُلِّ ذَرَّةٍ وَتَفْصِيلُ الْمُؤْتَكِّفَاتِ بِمَا قَدَّرْتَ وَرَتَّبْتَ

اساط کرنے والا ہے ہر ذرہ کا اور الٹی ہوئی باتوں کی تفصیل کا جیسے کہ تیری تقدیر میں ہے اور تو نے مرتب

فِي الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ مِنَ الْمُوجِبَاتِ أَسْأَلُكَ بِحَاطَةِ عَلَيْكَ

فرمایا ظاہر و باطن میں ان کے موجبات و اسباب کو۔ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے علم محیط کے واسطے

وَتَفْصِيلِ شَكْلِ قَدَمِكَ وَنُفُوزِ قُدْرَتِكَ وَبِخَطَابِكَ بِأَنْوَاعِ

اور تیری شانِ قدیمی کی تفصیلِ شکل و کیفیت اور تیری قدرت کے نفوذ و تاثیر کے واسطے۔ اور بلبفیل تیرے خطاب کے



ارْتَعَابَ حِكْمَتِكَ أَنْ تَحْرِقَ فِيهَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ الْحِجَابَ

ساتھ تیری حکمت کے میلان و رغبات کے انوار کے کہ تو پھاڑ دے میرے اور اپنے درمیانِ حجاب کو

لَا أَظْلِعَ عَلَى مَا تَحْتَهُ ذَرَّةٌ مِنْ ذُرَّاتِ الْوُجُودِ فَأَبْتَهَجِرُ بِسِرِّ

تاکہ میں مطلع ہو سکوں ان حقائق و اسرار پر جو موجودات کے ہر ذرہ کے نیچے مستور ہیں میں خوش ہو جاؤں ساتھ سیر

الْقَدَمِ وَتَزُولَ عَنِّي الْعَدَمُ وَأَسْأَلُكَ بِسِرِّ قُوَّتِكَ أَنْ تَقْضِيَ

قدم کے اور زائل ہو جائے مجھ سے عدم و مفاد (بوجہ بقا) باللہ کے اور میں سوال کرتا ہوں تیرے سیر قدرت و وسیلے سے کہ پورا کرے

حَاجَتِي وَتَكُونَ عَوْنًا لِي فِيمَا أُرِيدُ بِاللَّهِ أَللَّهُمَّ أَنْتَ قَابِضُ

میری ہر حالت کو اور میرا معاون ہو ان ارادوں میں جو میں رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اے اللہ تو قبضہ میں کرنے والا ہے

السَّمَوَاتِ وَبَاسِطُ الْأَرْضِينَ وَالْجَمِيعِ بِهَيْبَتِكَ وَعَظَمَتِكَ وَ

تمام آسمانوں کا اور پھیلانے والا ہے تمام زمینوں کا اور جمیع مخلوق کا ساتھ اپنی ہیبت اور عظمت و

قُدْرَتِكَ قَدَّرْتَ الْأَشْيَاءَ بِقُوَّةٍ مُرَادِ الْأَخْيَارِ اللَّهُمَّ يَا مَنْ

قدرت کے تو نے مقدر فرمایا تمام اشیاء کو پسندیدہ لوگوں کی قوت مراد کے ساتھ۔ اے اللہ کہ جس نے

قَبْضَ وَبَسَطَ الْأَخْيَارَ وَأَمَدَّ النَّوَسَ الْمُحَقَّقَ بِالْحَيَاةِ فِي الْأَرْضِ

سکڑا اور پھیلا یا پسندیدہ اشیاء کو اور بڑھایا نور کو جو حقیقت ہے ساتھ حیات کے زمین

وَالسَّمَوَاتِ وَأَظْهَرَ بِقُوَّةِ التَّدْبِيرِ خَفَايَا التَّدْبِيرِ فِي بَسْطِ الْحَرَكَاتِ

و آسمانوں میں اور ظاہر فرمایا قوت تدبیر سے ان محقق انتظامات کو جو حرکات کے بسط اور پھیلاؤ

وَقَبْضِ السُّكْنَاتِ وَسَائِرِ الْمَوْجُودَاتِ أَسْأَلُكَ أَنْ تَقْبِضَ قَلْبِي

اور سکنت کے قبض میں اور دیگر موجودات میں ہیں۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اپنے دل

وَجَوَارِحِي بِمَا يَبْعُدُنِي عَنِ الْمَعَاصِي وَأَنْ لَا يَحْجِبَنِي عَنْ نُورِ

اور اعضاء کو روکنے کا ایسے امور کے ساتھ جو مجھے دور کریں گناہوں سے اور مجھے نہ حجاب میں رکھیں نور

حَيَاتِي وَاخْلَاصِي وَأَقْبِضْ عَنِّي شَرِّ كُلِّ مُعَانِدٍ وَمُتَكَبِّرٍ وَضَرَمِ

حیات و اخلاص سے اور روک رکھ مجھ سے ہر معاند و متکبر کا شر اور ہر



كُلِّ حَاسِدٍ مُّتَحَيِّرٍ وَاجْعَلْ قَبْضَتِي عِنْدَ وَقَاتِي مَسْرُورًا ۝ الْآ

بھرت زدہ حاسد کے صزر کو اور بنا دے میرے قبض روح کو بوقت وفات میرے لیے سرور کا باعث نہ

مَفْتُونًا وَلَا مَغْبُونًا ۝ اللَّهُمَّ ابْسُطْ بِرِزْقِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَمَا

فتنہ میں پڑنے اور خسارہ میں پڑنے والا۔ اے اللہ میرا رزق وسیع فرما اور میرے امر کو اور جو بھی

قَدَرْتَهُ لِي أَبَدًا ۝ اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي بِأَمْتِنَانِكَ وَأَسْأَلُكَ

تو نے میرے لیے مقدر فرمایا اسے ہمیشہ کے لیے آسان بنا دے۔ اے اللہ برکت دے میرے لیے اپنے خاص احسان کیساتھ اور میں

بِسِرِّ النَّشَاطَيْنِ وَسِرِّ الْقَبْضَتَيْنِ وَبِحَقِّ اسْمِكَ الْقَابِضِ وَ

تجھ سے سوال کرتا ہوں دنیا و آخرت کی تخلیق کے راز کے طفیل اور تیرے دو مرتبہ قبض اذراع کے راز کے طفیل اور تیرے اسم قابض کے طفیل اور

الْمَلِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ أَنْ تَنْوِرَنِي وَتَلْبِسَنِي نُورًا مِنْ أَنْوَارِ

ملائکہ مقربین کے طفیل کہ مجھے نورانی بنا دے اور مجھے انوار خاصہ سے نور کا لباس عطا کرے

يَا اللَّهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ فِي جَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِينَ

اے اللہ۔ اے اللہ تو تمام موجودات میں ہے زمینوں والے ہوں

وَالسَّمَوَاتِ وَبِمَا تَخْتَارُهُ مِنْ غَامِضِ الْإِشَارَاتِ وَالْإِرَادَاتِ

یا آسمانوں والے اور بطفیل انکے نہیں تو اختیار فرمائے گا غامض و دقیق اشارات و ارادات سے

سُبْحَانَكَ تَخْفِضُ أَعْدَانِكَ وَتُعْطِي مَحَلَّ الْقُرْبِ بَعْدَ

تو پاک ہے، اپنے اعداء کو پست کرتا ہے اور عطا کرتا ہے مقام قرب بعد

وَأَيَّتِكَ فَتَرْفَعُ أَحْبَابَكَ إِلَى وَجُودِ نِعْمَاتِكَ فَيُفْهِمُ جَمَالَ جَنَابِكَ

اپنی ولایت کے پس بند فرماتا ہے اپنے دوستوں کو اپنے انعامات دائمہ کی طرف پس سمجھا جاتا ہے تیرا جمال

بَلَدًا يُذِ الْخَطَابِ فِي صُورَةِ حَمَائِكَ وَأَسْأَلُكَ بِسِرِّ أَعْرَافِكَ حَفِظْ مُرَادَكَ

بارگاہ تیرے لذیذ خطاب کے ذریعے اپنے محل نصرت خاص میں میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بطفیل اپنی مراد کے اسرار محفوظ کرے

فِي أَنْزِلِ الْمَحْفُوظَاتِ وَرَفِعْ أَقْدَارَ سَرَائِرِكَ فِي عُلُوِّ الْمَرْفُوعَاتِ وَ

ازل محفوظات میں اور بطفیل اپنے اسرار کی اقدار کی رفعتوں کے رفیع المرتبت اشیاء میں اور



الْجَامِعَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ فِي خَفَايَا دَقَائِقِ الْمَغْيِبَاتِ أَسْأَلُكَ أَنْ

بطیفیل ان دونوں امور کے جمع کرنے والے امر کے منیبات و دقیقہ کے پردوں میں میں سوال کرتا ہوں کہ

تُخَفِّضَ عَنِّي الْإِرَادَاتِ النَّفْسَانِيَّةَ وَالْخَوَاطِرَ الْهَوَائِيَّةَ وَالنَّفَثَاتِ

تو پست کرے میرے نفسانی ارادوں کو اور شہوانی خیالات کو اور شیطان فی

الشَّيْطَانِيَّةَ وَأَنْ تَرْفَعَهُ عَن قَلْبِي حُجُبَ الْكُثَافَةِ الظُّلْمَانِيَّةِ وَ

تصرفات کو اور دور کرے میرے دل سے کثافتِ ظلمانیہ کے حجابات کو اور

الْحُجُبِ السَّمَاوِيَّةِ النَّوْمَرَانِيَّةِ حَتَّى يَشْرُقَ فِي سَرَائِرِ قَلْبِي

سمادی نوران حجابات کو حتی کہ روشن ہو جائے میرے قلب کی گہرائوں میں

نُورِكَ الْمُنْزَهَةِ فِي حَظَائِرِ قُدْسِكَ فَيُشَاهِدُ فُؤَادِي مِنَ التَّحْقِيقِ

تیرا پاکیزہ نور ہر لامکان کی مقدس محفوظ بارگاہ میں ہے پس مشاہدہ کرے میرا دل تحقیق کا

وَيَسْمَعُ جَمِيعَ الْبُؤَابِنِ مِنْ غَيْرِ أَذِنٍ صَدُخًا عَلَى اخْتِلَافِ أَصْنَافِ

اور سنے تمام بوابن کو بغیر سوراخ والے کانوں کے باوجود مختلف اقسام کی

اللُّغَاتِ فَلَا يَخْفَى عَلَيَّ شَيْءٌ مِمَّا هَجَسَ فِي الضُّبَابِ وَمَا نَطَقَتْ

بولیوں کے پس نہ مخفی رہے مجھ پر کوئی شۓ دلوں میں کھٹکنے والی اشبار سے اور خفیات و اسرار

بِهِ السَّرَائِرُ يَا مَنْ أَحْطَى عَلَى جَمِيعِ الْمَسْمُوعَاتِ وَأَحْطَتْ

کی دلائلوں سے، اے کہ جس نے تمام مسموعات کا احاطہ کر رکھا ہے

بِجَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ وَتَسْمَعُ دَبِيبَ التَّمَلَّةِ السُّودَاءِ عَلَى الصَّخْرَةِ

اور تمام موجودات کو محیط ہے اور سنتا ہے آوازِ پاسیہ چوہٹی کی سخت پتھر پر (چلتے وقت)

الصَّمْبَاءِ فِي اللَّيْلَةِ الظُّلْمَاءِ وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَسْمَعَ دُعَائِي بِحَقِّ إِسْمِكَ

تاریک رات میں بھی۔ اور میں سوال کرتا ہوں کہ سُنے تو میری دعا کو بطیفیل اپنے اسم

السَّبِيْعِ أَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا يَا رَبِّ وَتُعَامِدَنِي بِلُطْفِكَ الْخَفِيِّ

سبیع کے اور میرے ساتھ ہر طرح کی بھلائی کرے اے میرے پروردگار اور میرے ساتھ اپنے لطفِ مخفی کے ساتھ





وَتُمَدِّدَنِي بِرَفِيقٍ مِّنْ رُّفَقَائِكَ وَأَوْصِلَنِي بِكُلِّ شَيْءٍ يُقَرِّبُنِي

سلوک فرماوے اور مجھے امداد دے اپنے رفقاء میں سے خاص رفیق کے ساتھ۔ اور مجھے ہر اس شئی سے ربط و تعلق عطا کرے جو مجھے تیرے

وَيُرْفَعُنِي بَيْنَ أَقْرَانِي حَتَّىٰ أَشْرَفَ بِالْحَضُورِ بَيْنَ يَدَيْكَ

قریب کرے اور مجھے بلند کرے میرے ہم عصروں کے درمیان حتیٰ کہ میں مشرف ہو جاؤں تیری بارگاہ کی حاضری کے ساتھ

فَتَبْسُطَ قَلْبِي عِنْدَ الْإِنْسِ بِجَمَالِكَ وَشَهُودِ كَمَالِكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ

پس کشادہ ہو جائے میرا دل تیرے جمال اور شہود کمال کے ساتھ انس پانے کی وجہ سے۔ اے اللہ تو

الْبَصِيرُ بِدَقَائِقِ جَوَاهِرِ الْمَوْجُودَاتِ الْجِسْمَانِيَّةِ كَأَبْصَارِكَ

نگاہ میں رکھنے والا ہے موجودات جسمانیہ کے جواہر حقیقت کے دقائق کو جیسے کہ دیکھنے والا ہے

بِظَوَاهِرِ حَقَائِقِ الْمَوْجُودَاتِ الْحَسِّيَّةِ فَتَرَى تَفَاصِيلَ الْأَعْرَاضِ

موجودات محسوسہ کے حقائق ظاہرہ کو پس دیکھتا ہے تفصیلات مختلف اعراض اور

وَالْأَلْوَانِ فِي مَوْجُودَاتِ الْأَكْوَانِ أَسْأَلُكَ يَا مَنْ لَا يُشْغَلُهُ

الوان کی تمام موجودات کائنات میں۔ سوال کرتا ہوں میں تجھ سے اے کہ جسے نہیں مشغول رکھتی

شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ وَلَا يَحِلُّ بِمَكَانٍ يَأْذُ الْجُودِ وَالْإِحْسَانِ نَوْرٌ

ایک حالت دوسری سے اور نہ قرار پذیر ہوتا ہے کسی بھی مکان میں اے مالک جود اور احسان کے کہ متور فرمائے

بَصْرِي وَبَصِيرَتِي بِنُورِ بَصْرِكَ الْبَاقِي وَعَلَيْكَ الرَّبَّانِي حَتَّىٰ

میری ظاہری اور باطنی نگاہ کو اپنے دائمی نور نظر اور علم ربانی کے ساتھ حتیٰ کہ

يَكُونُ لِي سَمْعًا وَبَصْرًا وَوَيْدًا أَوْ رَجُلًا وَلِسَانًا وَقَلْبًا وَنُورًا نِي

وہ میرے لیے سمع و بصر ہو اور ہاتھ پاؤں اور زبان و قلب اور بھے اپنے

بِأَنْوَارِكَ يَا اللَّهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مَا عِلْمُ سَيِّدِ الرَّسُلِ وَ

انوار مخصوصہ کے ساتھ متور فرمائے اللہ۔ اے اللہ بیشک میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ان دعاؤں کا جو سکھلائی تیرا رسل اور

التَّبَيُّونَ وَالْمُرْسَلُونَ أُمَّهَمُ مِّنَ الدَّعَاوَاتِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَ

انبیاء و مرسلین نے اپنی اتموں کو صلوات اللہ و





سَلَامَةٌ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَأَسْأَلُكَ مَا سَأَلَ مِنْكَ الصَّالِحُونَ آمِينَ يَا

سلام علیہم اجمعین اور سوال کرتا ہوں تجھ سے جو سوال کیا تجھ سے تیرے نیک بندوں نے آمین یا

رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَيَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

رب العالمین یا ارحم الراحمین ، یا اکرم الاکرمین - اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْتَبِينَ الْبَالِكِينَ

وسلام نازل فرما اوپر محمد کے اور آل محمد کے جو آقا کہ سردار ہیں مقربین ، ارباب ملک ،

الْمُرَافِقِينَ الْمُحْتَسِبِينَ الْمُخَاطِبِينَ الْمُشْفَعِينَ الْمُسْتَبِينَ

مزمخو ، طالبانِ رضا کے اہل خطاب کے ، ارباب شفاعت - قلوبِ خلاق کو مسخر کرنے والوں

الْمَكْرَمِينَ الْمُتَوَسِّطِينَ الْمُتَوَلِّينَ الْمُقْبُولِينَ الْمَرْحُومِينَ

مکرم لوگوں کے ، میانہ رو ، ارباب اختیار کے مقبولین ، مرحومین

الْمُرِيدِينَ الْمُحْفُوظِينَ الْمَغْفُورِينَ الْمَشْكُورِينَ الْمَطْلُوبِينَ

اصحاب ارادت ، محفوظ و معصوم اور مغفور و مشکور حضرات کے مطلوبانِ حضرت ،

الْمَحْبُوبِينَ الْمَسْبُوقِينَ الْمَسْئُولِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمَكْتُوبِينَ

محبوبانِ بارگاہ ، سبقت دئے ہوئے ، ذمہ دار و جواب دہ لوگوں کے (راہِ خدا میں) ظلم سہنے والوں کے (دیوانِ خاص

الْمَسْرُورِينَ الْمَحْزُونِينَ الْمَحْرُوسِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَوْجُودِينَ

میں) لکھے ہوؤں کے مسرور و محزون ، محفوظ و معصوم اور موجودات کے ،

الْمَشْغُولِينَ الْمَقْصُودِينَ الْمَالُوفِينَ الْمَعْشُوقِينَ الْمَحْجُودِينَ

مشغولانِ حق کے ، مقصودِ خلاق ، مرکز ہائے الفت ، معشوق و محمود اور

الْمُكْرَمِينَ الْمُجِيبِينَ الْأَمِينِينَ الْأَسْبِيبِينَ الْبَارِعِينَ الْبَاكِرِينَ

اربابِ تکریم کے دعوت کو شرف قبولیت بخشے والوں ، اربابِ طمانیت و سکون ، شیریں گفتار - اربابِ فوقیت ، نوجوان اور

الْبَازِلِينَ الْبَاطِنِينَ التَّابِعِينَ الْجَامِعِينَ الْحَاشِرِينَ الْحَاضِرِينَ

طاقتور حضرات کے اربابِ سرار - اطاعت گزاروں - جامع الکلمات حضرات - جمع کرنے والوں - حاکموں اور





الْحَاسِبِينَ الْحَارِبِينَ الْحَاقِقِينَ الْحَاكِرِينَ الْحَامِدِينَ الْخَاضِعِينَ

حساب لینے والوں کے (راہِ خدا میں) جنگ لڑنے والوں۔ ضرب لگانے والوں۔ چکا چوند والوں۔ اربابِ حکومت۔ محمد کریم والوں

الْخَاطِبِينَ الْخَالِصِينَ الرَّاقِبِينَ الرَّاسِخِينَ الرَّاجِحِينَ الرَّافِعِينَ

اور اربابِ حضور کے خطبہ دینے والوں۔ اصحابِ اخلاص۔ نجانوں۔ ثباتِ قدم۔ رحم کرنے والوں اور رفعت بخشنے والوں کے

الرَّاجِرِينَ الْفَائِضِينَ الْعَاشِقِينَ الْعَاطِفِينَ الْعَامِلِينَ الْقَاسِمِينَ

منع کرنے والوں۔ فیض رساؤں۔ اربابِ عشق۔ مہربانوں۔ اصحابِ عمل اور عطا کرنے والوں کے

الْقَانِتِينَ الْقَامِعِينَ الْقَاهِرِينَ الْقَاعِدِينَ الْقَانِعِينَ الْكَاسِبِينَ

عبادت گزاروں۔ دگھو و شرک کے اٹھیڑنے والوں۔ غالب (حرب کے لیے) تیار کرنے والوں۔ قناعت پیشہ اور محنت کرنے والوں

الْمَانِحِينَ النَّافِعِينَ النَّازِلِينَ النَّاسِخِينَ النَّاقِلِينَ الْكَامِلِينَ

ہبہ کرنے والوں۔ نفع دینے والوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نزول فرمانے والوں۔ نسخ کرنے والوں۔ نقل کرنے والوں۔ اربابِ کمال کے

النَّادِمِينَ الْفَاضِلِينَ الْفَائِزِينَ الْفَارِسِينَ الْعَاقِبِينَ الْعَادِلِينَ

مصابین و رفقاء۔ اربابِ فضیلت، کامیاب۔ شہسواروں۔ آخر میں آنے والوں اصحابِ عدل کے

الطَّائِفِينَ الطَّلِبِينَ الطَّلَاعِينَ الظَّاهِرِينَ الْفَاتِحِينَ الْقَابِلِينَ

طواف کرنے والوں، طالبانِ (رضائے خداوند) طاعت گزاروں۔ فتح مندوں۔ اربابِ فتح اور قبول کرنے والوں کے

الْقَادِرِينَ الْقَادِرِينَ الْعَانِمِينَ الْغَانِمِينَ الرَّاهِدِينَ السَّاجِدِينَ

قدرات کرنے والوں۔ قدرت والوں، سُرُج رنگت والے حسینوں۔ اربابِ غنیمت۔ نرا ہدول اور سجدہ ریزوں کے

السَّاكِنِينَ السَّابِقِينَ السَّاجِدِينَ السَّائِلِينَ السَّائِرِينَ السَّالِكِينَ

اربابِ تسکین۔ سبقت لے جانے والوں۔ چھا جانے والوں۔ دعا کرنے والوں۔ سیرافی اللہ اور سیرالی اللہ والوں کے

الشَّاهِدِينَ الشَّاكِرِينَ الصَّابِرِينَ الشَّافِعِينَ الصَّالِحِينَ الصَّادِقِينَ

گواہوں۔ شکر گزاروں۔ صبر کرنے والوں۔ شفاعت کرنے والوں اور اربابِ صلاح و اصحابِ صدق کے

الصَّافِحِينَ الصَّابِرِينَ الْمُفَارِقِينَ الشَّامِلِينَ الْفَاخِرِينَ الْغَارِمِينَ

درگزر کرنے والوں۔ ضبط کرنے والوں۔ جدائی اختیار کرنے والوں۔ شامل ہونے والوں۔ اربابِ فخر اور اہلِ عشق کے





التَّاطِرِينَ النَّاقِدِينَ التَّاكِحِينَ النَّاصِرِينَ النَّاسِكِينَ النَّاعِمِينَ

تگراؤں۔ پر کھنے والوں۔ نکاح کرنے والوں۔ مدوگاریوں۔ عبادت گزاروں اور ارباب نعمت کے اور

التَّاطِقِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

آیات حق کے ساتھ بولنے والوں کے۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو آقا کے سردار ہیں

الْوَاحِدِينَ وَالْوَاسِطِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

یکٹائے روزگار اور بلند مرتبت لوگوں کے۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْوَاصِلِينَ الْوَارِثِينَ الْوَاعِظِينَ الْوَاصِفِينَ الْوَاقِفِينَ

جو محبوب سردار ہیں واصلین کے اور وارثین (اوصاف خداوندی) نصیحت کرنے والوں صفت کرنے والوں اور حقائق پر مطلع

الْبَاكِينَ الْمَارِّينَ الرَّاعِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

(خوف خدا سے) رونے والوں۔ درازہ وصول کے (راگزدوں) تگراؤں کے۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الدَّاعِينَ الرَّاجِينَ الرَّاضِينَ الْعَارِفِينَ الْغَائِبِينَ الْهَادِينَ

پر جو محبوب سردار ہیں دعوت دینے والوں۔ امید رکھنے والوں۔ راضی ہونے والوں۔ ارباب عرفان۔ مجاہدین اور اصحاب ہدایت

النَّبِيِّينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الزَّكِيَّينَ

انبیاء کے۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں پاکیزہ صفات لوگوں

الصِّدِّيقِينَ الشَّرِيفِينَ الشَّهِيدِينَ السَّلِيْبِينَ الْحَنِيفِينَ السَّعِيدِينَ

صدیقین۔ شرفاء۔ شہیدوں۔ ارباب سلامت۔ حق پرستوں اور نیک بختوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْفُقَرَاءِ الْبُحْدِيِّينَ

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل محمد پر جو آقا سردار ہیں فقراء اور ارباب بھد کے

الْكَبِيرِينَ الْأَمِيرِينَ الْجَلِيلِينَ الْجَمِيلِينَ الْخَلِيلِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

بزرگوں، امیروں۔ اصحاب جلالت۔ ارباب جمال اور درستان خداوند تعالیٰ کے۔ لے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْخَطِيبِينَ الْفَصِيحِينَ السِّدِّيقِينَ

و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو آقا سردار ہیں خطباء۔ فصحاء، پختہ آراء والوں کے



الرَّقِيبِينَ الْأَمِنِينَ الْقَدِيمِينَ الْعَرِيقِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

نحوانوں، صاحب امن - قدیم، شریف الامول لوگوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَمِيدِينَ النَّظِيفِينَ الْحَرِيصِينَ الْأَطْمِينِ

محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں ذمہ داروں۔ پاکیزگی والوں (ہدایت خلق پر) حرص اور بلند مقام لوگوں کے

الرَّفِيعِينَ الرَّبِيعِينَ الْعَلِيمِينَ الْقَرِيبِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

بلند مرتبت۔ بہار آفرین۔ ارباب علم ہمعصروں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَرِيبِينَ الْمَعِينِينَ الشَّفِيعِينَ الْكَلِيمِينَ

محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب سردار ہیں مقربین، اعانت فرماؤں۔ شفیعوں، کلیموں۔

الشَّرِيعِينَ الْعَزِيزِينَ الطَّرِيقِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ

بہادروں۔ عزت والوں (ہدایت کی راہوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْحَقِيقِينَ الْحَسِيبِينَ الْأَفْعَالِينَ الْأَقْدَامِينَ

آل محمد پر جو محبوب سردار ہیں ارباب حقوق و اصحاب شرافت، کارگزاروں۔ سبقت لے جانے والوں

الْأَظْهَرِينَ الْأَخْشَعِينَ الْأَشْرَفِينَ الْأَكْرَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

بہت واضح و روشن، بہت خشوع کرنے والوں۔ شرافت مآب اور ارباب کرامت۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَصْفَحِينَ الْأَمْلَجِينَ

سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب سردار ہیں درگزر کرنے والوں۔ ارباب ملاحظت و جذب کے

الْأَحْمَدِينَ الْأَرْزَاقِينَ الْأَوْضَحِينَ الْأَشْفَقِينَ الْأَزْهَدِينَ اللَّهُمَّ

بہت حمد کرنے والوں۔ رزق دینے والوں۔ روشن و نورانی۔ مشفق اور زاہد ترین لوگوں کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَسْمَعِينَ الْأَكْمَلِينَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد اور آل محمد پر جو محبوب سردار ہیں بہت سننے اور قبول کرنے والوں۔ کامل ترین

الْأَكْبَرِينَ الْأَوْجِدِينَ الْأَوْرَعِينَ الْأَظْهَرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

بزرگترین۔ ارباب وجد۔ پرہیزگاروں اور پاکیزہ ترینوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما





عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَطْفَانِ الْأَسْعَدِينَ الْأَعْقَلِينَ

محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب سردار ہیں لطیف ترین، سعادت مندوں - انتہائی عقلمندوں

الْأَعْرَفِينَ الْأَوْاهِينَ الْأَعْظَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ

بہت بڑے عارفوں - زاری کرنے والوں عظمت عظیمہ والوں کے - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَجْدِينَ الْأَطْفَرِينَ الْأَنْوَارِينَ

اور آل محمد پر جو سردار ہیں اربابِ مجد - اصحابِ ظفر - نورانیوں - روشن

الْأَزْهَرِينَ الْأَقْرَبِينَ الْأَقْرَبِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

ترین - مقرب ترین اور باہم ملے ہوئے ابرؤں والوں کے - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَنْجَبِينَ الْأَجْوَدِينَ الْأَجْمَعِينَ

محمد پر اور آل محمد پر جو آقا کر سردار ہیں عمدہ اصل والوں - بہت سخاوت کرنے والوں - اربابِ جمعیت

الْأَشْجَعِينَ سُبْحَانَكَ تَبَارَكَتْ يَا نَاصِرُ إِلَيْكَ يَعُودُ أَمْرُنَا

انتہائی بسا در لوگوں کے - تو پاک ہے، یا برکت ہے اے نصرت دینے والے تیری ہی طرف لوٹتا ہے امر ہمارا

مِنْ أَمْرِكَ يَا إِلَهَ الْكُلِّ وَالْجُزْءِ وَالْبَسَائِطِ وَالْمَرْكَبَاتِ اتَّوَجَّهُ

تیرے ہی امر سے اے الہِ کل و جز کے اور بسائط و مرکبات کے توجہ کرتا ہوں تیری

إِلَيْكَ بِصَدَقِ الْقَلْبِ وَالسِّرِّاجِ جُعَلَنِي مُسْتَعْرِقًا فِي إِقْتِبَاسِ

طرف صدق قلب و روح کے ساتھ کر بنا دے مجھے غرق ہونے والا اپنے انوار کی

لذَاتِ أَنْوَارِكَ مِنْ غَيْرِ اتِّصَالٍ وَلَا احْتِلَاطٍ وَلَا انْفِصَالٍ بَارِعَةٍ

لذات کے حصول میں بغیر اتصال و حلول اور انفصال (شکیف) کے جن پر پہنچنے والے ہوں

عَلَيْهَا أَنْوَارُ قُدْرَتِكَ عَلَى عَكْسِ شُعَاعٍ مِنْ فُرُوعِ أَنْوَارِكَ يَا وَاجِبَ

تیرے انوار قدرت تیرے انوار و تجلیات صفاتیہ کے عکس و پرتو سے اے واجب الوجود اور

الْوُجُودِ وَيَا فَيَاضَ الْجُودِ مِنْ خَزَائِنِكَ الْمَخْزُونَةِ تَحْتَ حَيْطَةِ

اے وجود عام والے اپنے ان خزانوں سے جو محفوظ ہیں تیری صفات کے احاطہ



صَفَاتِكَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ قَبُولُ تَجَلِّيَاتِ ذَاتِكَ الْجَلَالِيَّةِ فَيَحْتَرِقُ كَمَا

میں اور نہیں ہے کسی کے لائق تیسری ذات کے تجلیاتِ جلالیہ کو قبول کرنا ورنہ جل جائے گا

أَحْتَرِقُ جَبَلٌ مُوسَى فَصَدَّاءٌ وَدَكَ وَلَا قَبُولُ تَجَلِّيَاتِ ذَاتِكَ

جیسے کہ جبل گیا موسیٰ علیہ السلام کا پہاڑ، پس پھٹ گیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا اور نہ ہی تیسری تجلیاتِ جلالیہ ذاتیہ کے

الْجِبَالِيَّةِ فَيَذُوبُ كَمَا يَذُوبُ الْمُدْحُ فِي الْمَاءِ اللَّهُمَّ بِحَقِّ كَهَيْعَتِ

قبول کرنے کی اہلیت ہے ورنہ گل جائے گا جیسے کہ نمک پانی میں گل جاتا ہے۔ اے اللہ کھلیص کے طفیل

سَخَّرْنَا الْأَرْوَاحَ الْقُدُسِيَّةَ السَّمَاوِيَّةَ وَالْقُوَى الْعَالِيَةَ بِإِذْنِكَ

ہمارے لیے مسخر فرما آسمان کے ارواحِ قدسیہ اور قوائے عالیہ کو اپنے اذن و ارادہ

الَّتِي تَعْلَمُ وَعَلَيْكَ الْقَدِيمِ وَسَخَّرْنَا الْأَرْضِيَّةَ لِإِعَانَتِكَ بِدَرِيَّةِ

عامہ اور علمِ قدیم سے اور مسخر فرما ہمارے لیے ارواحِ ارضیہ کو واسطے ہدنی اعانت کے

لِلْإِسْتِعْدَادِ لِلْأَهْوَاتِ ثُمَّ عَرَّجْنِي مِنْهَا إِلَى الْمَلَاءِ الْأَعْلَى الَّتِي هِيَ كُلُّهَا

واسطے استعدادِ لاهوتی کے پھر مجھے عروجِ عطا فرما ان سے طرفِ ملائکہ اعلیٰ کے جو کہ تمام کے تمام

أَنْوَارٍ لَطِيفَةٍ سَارِيَةٍ أَيْنَمَا وَجَّهْتُ ثُمَّ عَرَّجْنِي مِنْهَا إِلَى الصُّورِ الْكَلْبِيَّةِ

انوارِ لطیفہ ہیں چلنے والے ہوں جہر کہ میں متوجہ ہوں۔ پھر مجھے عروجِ عطا فرما ان سے طرفِ صورِ کلبیہ کے

الْقَائِمَةِ بِأَمْثَلَةِ نُورِيَّةٍ قَاهِرَةٍ مَانِعَةٍ لِلْحَوَادِثِ الطَّارِيَةِ عَلَى الظُّلُمَاتِ

جو قائم ہیں ساتھ اشخاصِ نور یہ غالبہ کے جو مانع ہیں ان حوادثِ طاریہ کے لیے جو طاری ہونے والے ہیں اور ظلمات

الْبَشَرِيَّةِ الْمُهْلِكَةِ ثُمَّ عَرَّجْنِي مِنْهَا إِلَى مَقَامِ جَبْرُوتِي شَامِلٍ لِكُلِّيَّاتِ

بشریہ کے جو ہلاکت آفرین ہیں پھر وہاں سے مجھے عروجِ عطا فرما طرفِ مقامِ جبروتی کے جو شامل و محیط ہے کلیات

إِجْبَالِيَّةٍ مُسَاوِيَةٍ فِي جُزْئِيَّاتِ كَائِنَةٍ مُسَبَّأَةٍ بِحَقَائِقِ اللَّهِ

اجالیہ مساویہ کو جو متحقق ہیں جزئیاتِ موجودہ میں جو کہ موسوم ہیں ساتھ حقائق کے۔ اے اللہ

اَكْشِفْ عَلَيَّ أَسْرًا كَمَا كَشَفْتَ عَلَيَّ أَوْلِيَاءَكَ الْمُقَرَّبِينَ الَّذِينَ

کشف فرما مجھ پر ہمارے ارواح کو جیسے کہ ان کا کشف فرمایا تو نے اپنے اولیاءِ مقربین پر جو کہ



كَأَنَّا جَالِسِينَ عِنْدَ مَلِيكَ مُقْتَدِرٍ لَا يُسَالُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يَسْأَلُونَ

ہم نشین تھے اس صاحب اقتدار بادشاہ کے جو نہیں سوال کیا جا سکتا اس سے جو وہ کرتا ہے اور وہ (مخلوق) سوال کئے جائیں گے

عَمَّا يَفْعَلُونَ اللَّهُمَّ بِحَقِّ أَسْمَاءِ الْحُرُوفِ الَّتِي هِيَ أَصُولٌ وَ

اس کے متعلق جو وہ کرتے ہیں۔ اے اللہ بظہیر اسماء ان حروف کے جو کہ ایسے اصول اور

كَلِمَاتٌ مَّحْتَوِيَةٌ لِتَحَقُّقَاتِ الرُّسُومِ وَالْفُهُومِ بِهَا تَعْرِجُ عِبِيدَكَ

کلمات ہیں جو کہ محیط ہیں رسوم و فہوم کے تحقیقات و وجودات پر کہ جن کی بدولت ترقی کرتے ہیں تیرے بندے

إِلَيْكَ أَفْضُ عَلَيْنَا بَرَكَاتِ الْأَمْوَاجِ الْبِرَّسَةِ الَّتِي تَكُونُ مِنْ

تیری طرف نیشان فرما ہم پر اپنے نیکو کار ارواح کی برکات جو پیدا ہونے والے ہیں ان

الْأَنْوَارِ الْعَلِيَّةِ الْهَادِيَةِ الْبِرَّاقَةِ الْمُتَحَلِّيَةِ الْمُتَجَلِّيَةِ عَلَى

انوار عالیہ جو ہدایت اور روشنی مہیا کرنے والے ہیں اور سبب زینت و نورانیت بننے والے ہیں

صَوَاحِبِ الْكُشُوفِ وَالْأَسْرَارِ اللَّهُمَّ لَا تَسْلُطْنِي الْحُجُبُ الظُّلْمَانِيَّةُ

ارباب کشف و اسرار کے لیے۔ اے اللہ نہ مسلط فرما مجھ پر محجبات ظلمانیہ

الَّتِي هِيَ الْحُجُبُ الْمَانِعَةُ الْقَاهِرَةُ مِنَ الْوُصُولِ إِلَى كُلِّ كَوْنٍ يَأْكِينُ

جو کہ حاجب و مانع قوی ہیں وصول سے طرف تمام موجودات کے اے موجود حقیقی

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْكَرِيمِينَ وَالرَّحِيمِينَ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں کریموں اور رحیموں کے

رَبِّ ارْحَمْ مَنْ عَظَمَ مَرَضَاهُ وَعَزَّ شِفَائُهُ وَكَثُرَ دَأْءُهُ وَضَعُفَتْ

اے اللہ رحم فرما ہر اس شخص پر جس کا مرض عظیم ہو گیا اور اس کی شفا مشکل ہو گئی اور بیماری زیادہ ہو گئی اور اس کی چارہ سازی

حِيلَتُهُ وَقَوِيَ بَلَاءُهُ وَأَنْتَ مَدْجَانُهُ وَرَجَاءُهُ وَعَوْنُهُ وَشِفَائُهُ

ضعیف و ناتوان ہو گئی اور اس کی آزمائش قوی ہو گئی اور تو ہی اس کی جائے پناہ اور امید گاہ ہے اور مددگار و شفا بخش اور

وَدَّوَأْتُهُ يَا مَنْ عَبَّرَ الْعِبَادَ فَضْلَهُ وَعَطَانَهُ وَوَسَّعَ الْبَرِّيَّةَ جُودَهُ

دوا ہے۔ اے کہ آباد کیا بندوں کو اس کے فضل اور عطانے اور محیط ہو گیا سب مخلوق کو اس کا جود اور



وَنِعْمَانِي هَذَا أَنَا عَبْدُكَ فَلَانُ بْنُ فَلَانٍ مُّحْتَاَجٌ إِلَى مَا عِنْدَكَ فَقِيْرٌ

انام۔ یاں میں تیرا بندہ فلاں بن فلاں ہوں محتاج و فقیر ہوں طرف ان نعمتوں کے جو تیرے پاس ہیں

أَنْتَ تَرْجُوْكَ وَبِرْفِدِكَ مَذْنِبٌ أَسْأَلُ مِنْكَ الْعَفْوَ وَالْغُفْرَانَ خَائِفٌ

میں منتظر ہوں تیرے جود و عطا کا، گناہگار ہوں سوال کرتا ہوں تجھ سے عفو و مغفرت کا۔ خوفزدہ ہوں

أَطْلُبُ مِنْكَ الصَّفْحَ وَالْأَمَانَ مَسِيْرٌ عَاصٍ فَعَسَى تَوْبَةٌ تَمْحُوْ

طلب کرتا ہوں تجھ سے درگزر اور امان۔ زیاں کار و گناہگار ہوں۔ امیدوار ہوں ایسی نظر رحمت کا جو شاد سے

ظَلَمَ الْإِسَاءَةَ وَالْعِصْيَانَ سَائِلٌ بِأَسْطِيْدِ الْفَاقَةِ الْكَلِيَّةِ يَطْلُبُ

سیاہ کاری و گناہ کاری کی ظلمتوں کو، سوال ہوں پھیلائے ہوئے ہوں بامقصد ممکن محتاجی کا جو طلبگار ہے تیرے

مِنْكَ الْجُودَ وَالْإِحْسَانَ مَسْجُوْنٌ مُّقَيَّدٌ فَعَسَى يُفَكُّ قَيْدًا وَ

جود و احسان کا۔ قید و بند میں ہے پس امید ہے کہ کھول دی جائے بندش اس کی اور

يُطْلَقُ مِنْ سِجْنِ حِجَابِهِ إِلَى فِسِيْحِ حَضْرَاتِ الشُّهُودِ وَالْعِيَانِ جَائِعٌ

رہا کیا جائے حجاب کے قید خانہ سے شہود و معائنہ کی وسیع و عریض بارگاہوں کی طرف (یہ بندہ بھوکا اور

عَارِفَعَسَى يُطْعَمُ مِنَ التَّقْرِيْبِ وَيُكْسَى مِنْ حُلِيِّ الْإِيْمَانِ ظِمَانٌ

برہنہ ہے پس امید ہے کہ کھلایا جائے اس کو طعام قرب اور پہنایا جائے اس کو حلیہ ایمان۔ پیاسا ہے

ظِمَانٌ ظِمَانٌ وَأَيْ ظِمَانٌ يَتَلَجَّجُ فِي أَحْشَائِهِ لِهَيْبِ التَّيْرَانِ

پیاسا ہے، پیاسا ہے، ایسا پیاسا کہ بھڑک رہے ہیں اس کی انتڑیوں میں شعلے آگ کے۔

فَعَسَى تُبْرِدُ عَنْهُ نِيْرَانُ الْكُرْبِ وَيُسْقَى مِنْ شَرَابِ الْحَبِ

پس قریب ہے کہ ٹھنڈی کی جائیں اس سے درد و کرب کی آتشیں اور پلایا جائے اس کو شراب محبت

وَيَكْرَمُ مِنْ كَأْسَاتِ الْقُرْبِ وَيَذْهَبُ عَنْهُ الْبُؤْسُ وَالْأَلَامُ

اور میراب کیا جائے قرب کے کاسوں سے اور دور کی جائیں اس سے شدتیں اور آلام

وَالْأَسْقَامُ وَالْأَحْزَانُ وَيَنْعَمُ مِنْ بَعْدِ بُؤْسِهِ وَالْأَمَةِ وَيُشْفَى مِنْ

بہاریاں اور غم اس کو راحت و سہولت سے بہرہ ور کیا جائے شدت و آلام کے بعد اور شفا دی جائے



مَرْضَاهُ وَسَقْبِهِ حَتَّى يَزُولَ مَا بِهِ كَانَ مَا كَانَ هَذَا أَنَا عَبْدٌ تَائِبٌ

امراض و اسقام سے تائب ہو جائے اس سے جو کچھ بھی اس کو لاحق ہوا۔ اہل میں تیرا بندہ ہوں جو بارگاہِ قرب سے دور ہوں

غَرِيبٌ مُّصَابٌ قَدْ بَعُدَ عَنِ الْاَهْلِ وَالْاَوْطَانِ فَعَسَى يَزُولُ

غریب اور مصیبت زدہ۔ خویشی و اقرباء اور وطن سے دور پس قریب ہے کہ اس سے زائل ہو جائے

عَنْهُ هَذَا التَّعَبُ وَالشَّقَاءُ وَيَعُودُ لَهُ الْقُرْبُ وَاللِّقَاءُ وَيَتَرَأَى لَهُ

یہ تھکان اور شقاوت اور لوٹ آئے اس پر سعادتِ اقرب اور دیدار کی اور نظر آنے لگے اس کو

سَلْعٌ وَالنُّقَا وَيَكُوْهُ الْاَثَلُ وَالْبَانُ وَيُنَالُهُ اللَّطْفُ وَالْاِحْسَانُ

سلع (مدینہ کا پھاڑ) اور ریتلے ٹیلے اور نمودار ہوں جھاڑ اور بان کے درخت اور پتیچے اسے لطف و احسان

وَتَحِلُّ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ وَالرِّضْوَانُ يَا عَظِيْمُ يَا مَنَّانُ يَا كَرِيْمُ يَا رَحْمَانُ

اور اترے اس پر رحمت و رضوان۔ اے عظمت والے۔ اے احسان والے۔ اے کریم اے رحمان

يَا صَاحِبَ الْجُودِ وَالْاِحْسَانِ وَالرَّحْمَةِ وَالْغُفْرَانِ اِنَّ اللّٰهَ صَلَّى وَسَلِّمْ

اے جو دو احسان والے اور رحمت و غفران والے۔ اے اللہ صلوات و سلام

عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَطُوْفِيْنَ وَالرَّءُوْفِيْنَ اَللّٰهُمَّ

نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں عنایت اور رأفت و رحمت کرنے والوں کے۔ اے اللہ

صَلَّى وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ اَعْلَى عَلِيِّ بْنِ اَبِي تَالِبٍ فِيْ يَوْمِ الدِّينِ ط

صلوات و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب کہ سردار ہیں اعلیٰ علیین میں قیامت کے دن میں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقَوَامِيْنَ وَ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو آقا سردار ہیں بہت ذمہ داریاں نبھانے والوں

الرَّبَّابِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

اور پرورش کرنے والوں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو آقا کہ سردار ہیں

الْاَوَابِيْنَ وَالصَّوَامِيْنَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ

اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والوں اور روزہ داروں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر



مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الرَّبَّانِيِّينَ وَالرُّوحَانِيِّينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

جو سردار ہیں ربانیوں اور روحانیوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْحَيِّئِيِّينَ وَالطَّيِّبِيْنَ اللَّهُمَّ صَلِّ

محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں وقت کی قدر کرنے والوں اور پاکیزہ لوگوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْوَارِعِيْنَ وَالْفَرِحِيْنَ

و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں پرهیزگاروں کے اور ارباب فرحت کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْقِبْلَتَيْنِ وَالْكَوْنَيْنِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں دونوں قبلوں۔ دونوں جہانوں

وَالثَّقَلَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْخَافِقِيْنَ

اور جن و انس کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو آقا سردار ہیں مشرق و مغرب کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَلْتَيْنِ اللَّهُمَّ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد و آل محمد پر جو سردار ہیں دونوں ملتوں کے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْحَرَمَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں دونوں حرموں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُنْشُورِيْنَ اللَّهُمَّ صَلِّ

و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں تمام قبور سے اٹھائے جانے والوں کے۔ اے اللہ

وَسَلِّمْ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب سید انبیاء ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَصْفِيَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سید اصفیاء ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَوْلِيَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

محمد پر اور آل محمد پر جو سید اولیاء ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر





وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَتْقِيَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اور آل محمد پر جو سید اتقیا ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد پر اور آل

آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَسْخِيَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

محمد پر جو سید اسخیا ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَجْزَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

پر جو محبوب کہ سردار ہیں کفایت کرنے والوں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الرُّؤْسَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

پر جو آقا کہ سرداروں کے سردار ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعُلَمَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

پر جو کہ سردار ہیں علماء کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْفُضَلَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

پر جو کہ فضلاء کے سردار ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْفُقَرَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

پر جو کہ فقراء کے سردار ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْغُرَبَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

پر جو کہ غریبوں کے سردار ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد پر اور آل

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ السُّعَدَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

محمد پر جو کہ سعادت مندوں کے سردار ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد پر اور آل

آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْفُقَهَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

محمد پر جو کہ فقہاء کے سردار ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد پر اور

آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الشُّفَعَاءِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ أَرْتَكِبْتُهُ

آل محمد پر جو کہ شفیعوں کے سردار ہیں۔ اے اللہ میں استغفار کرتا ہوں تجھ سے ہر گنہ سے کہ جس کو کیا میں نے



بِشُّمُولِ عَافِيَتِكَ أَوْ تَمَكَّنْتُ مِنْهُ بِفَضْلِ نِعْمَتِكَ أَوْ تَقَوَّيْتُ بِهِ

بسبب تیری عافیت عامر کے یا قادر ہوا میں اس پر بسبب تیری روز افزوں نعمت کے یا قوت حاصل کی اس پر

عَلَى دَفْعِ نِقْمَتِكَ عَنِّي أَوْ مَدَدْتُ إِلَيْهِ يَدِي لِسَابِغِ سِرِّ رُزُقِكَ

بسبب دور رکھنے تیرے اپنے انتقام کو مجھ سے یا بڑھا یا طوں اس کے میں نے اپنا ہاتھ بسبب تیرے کامل رزق اور روزی کے

عَلَى أَوْ خَيْرًا أَرَدْتُ بِهِ وَجْهَكَ الْكَرِيمَ فَخَالَطَنِي فِيهِ شَيْءٌ نَفْسِي

یا ایسی خیر کہ جس سے میں نے تیری ذات کریمہ کی رضا کا ارادہ کیا پس شامل ہو گیا اس میں میرا بخل طبعی

بِمَالِيْسٍ فِيهِ رِضَاكَ وَلِكُلِّ ذَنْبٍ دَعَانِي إِلَيْهِ الرَّحْصُ أَوْ الْحَرْصُ

جس میں تیری رضا نہیں تھی۔ اور استغفار کرتا ہوں واسطے ہر اس گناہ کے جس کی طرف راغب کیا تھتوں نے یا حرص نے

فَرَعَبْتُ فِيهِ وَحَلَلْتُ لِنَفْسِي مَا هُوَ مُحَرَّمٌ عِنْدَكَ وَلِكُلِّ ذَنْبٍ خَفِيٍّ

پس میں اس کی طرف مائل ہوا اور حلال ٹھہرایا اپنی ذات کے لیے جو کہ تیرے نزدیک حرام تھا اور ہر اس گناہ کی جو مخفی رہا

عَلَى خَلْقِكَ وَلَمْ يَعْزُبْ عَنكَ فَاسْتَقَلْتُكَ مِنْهُ فَأَقْلَبْتَنِي ثُمَّ عُدْتُ

مخلوق پر اور تجھ سے پرشیدہ نہیں تھا۔ میں نے تجھ سے اس میں درگزر طلب کی پس تو نے درگزر فرمایا پھر میں نے اس کی طرف

فِيهِ فَسَتَرْتَهُ عَلَيَّ وَلِكُلِّ ذَنْبٍ خَطُوتُ إِلَيْهِ بِرَجْلِي أَوْ مَدَدْتُ إِلَيْهِ

رجوع کیا لیکن تو نے پھر بھی پردہ داری فرمائی۔ اور ہر وہ گناہ کہ چلا میں طرف اس کے پاؤں کے ساتھ یا اس کی طرف ہاتھ بڑھا یا

يَدِي أَوْ تَأَمَّلْتَهُ بِبَصَرِي أَوْ أَصْغَيْتُ إِلَيْهِ بِأُذُنِي أَوْ نَطَقْتُ بِهِ

یا اسے بنور دیکھا یا اس کی طرف کان لگایا یا اس کا نطق کیا

بِلِسَانِي أَوْ أَتَلَفْتُ فِيهِ مَا رَزَقْتَنِي ثُمَّ اسْتَرْزَقْتُكَ عَلَى عَصِيَانِي

زبان کے ساتھ یا برباد کیا اس میں تیرا عطا کردہ رزق پھر میں نے نافرمانی برداری کے باوجود رزق طلب کیا

فَرَزَقْتَنِي ثُمَّ اسْتَعَنْتُ بِرِزْقِكَ عَلَى عَصِيَانِكَ فَسَتَرْتَ عَلَيَّ

تو تو نے رزق عطا فرمایا پھر میں نے قوت حاصل کی تیرے رزق کے ساتھ تیری نافرمانی پر پس تو نے پردہ داری فرمائی

وَسَأَلْتُكَ الزِّيَادَةَ فَلَمْ تَحْرَمْنِي ثُمَّ جَاهَرْتُكَ بَعْدَ الزِّيَادَةِ

اور میں نے تجھ سے مزید کا سوال کیا پس تو نے مجھ کو نہ فرمایا پھر میں نے علانیہ مخالفت کی حصول مزید کے بعد



فَلَمْ تَفْضَحْنِي فَلَا أَنْرَاكَ مُصِرًّا عَلَيَّ مَعْصِيَتِكَ وَلَا تَرَاكَ عَائِدًا

پس تو نے مجھے رسوا نہ کیا تو میں ہمیشہ سے مسرور رہا تیری معصیت پر اور تو ہمیشہ مجھ پر متوجہ رہا

عَلَيَّ بِحُبِّكَ وَكَرَمِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور رہے گا اپنے علم اور کرم کے ساتھ لے نب کریموں سے بڑے کریم۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْبُلْغَاءِ الْخُطَبَاءِ الصُّلَحَاءِ

محمد پر اور آل محمد پر جو کہ سردار ہیں بلغاء خطباء صلحاء۔

الْحُكَمَاءِ الْخُلَفَاءِ الشُّرَفَاءِ الْكُرَمَاءِ الظُّفْرَاءِ الْفُصَحَاءِ الشُّهَدَاءِ

حکماء ، خلفاء ، شرفاء ، کرماء ، عقلاء ، فصحاء اور شہداء کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ النَّبِيِّينَ

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو کہ سردار ہیں نبیوں

الْتَّجِبَاءِ الرَّحَمَاءِ الْقُرْبَاءِ الْعَتَقَاءِ الْكِبَرَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ

شریف النبی - رحیموں - قریبوں - مروان ح اور بزرگوں کے۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد پر

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَسْنَاءِ الْمُبَارَكِ الطَّيِّبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور آل محمد پر جو کہ سردار ہیں روشن و نورانی، مبارکت اور پاکیزہ لوگوں کے۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَلَكُوتِ الْجَبَرُوتِ الْكَائِنَاتِ

محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں ملکوت و جبروت کے اور کائنات

الْمَوْجُودَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

و موجودات کے۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں

الْأَوْتَادِ - زاهدوں - عابدوں کے، ذکر کرنے والوں - پاکیزہ - بشارت دینے والوں - ڈرنے والوں کے بھوکا روں محبوبیت

الْخِيَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَشْرَافِ

اور منتخب لوگوں کے۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں اشراف کے



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَبْدَالِ وَالْقَبَائِلِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں ابدال کے اور قبائل کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَنَامِ وَالرَّءُوفِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں ساری مخلوق کے اور رؤف

الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَنَامِ

رحیم ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں مخلوق کے

إِذَا حَشَرُوا وَوَمُبَشِّرِهِمْ إِذَا أَيَسُّوا وَشَفِيعِهِمْ إِذَا حَبَسُوا اللَّهُمَّ

جبکہ تمام مخلوق کو جمع کیا جائیگا اور مژدہ سنانے والے ہیں انہیں جب مایوس ہوں گے اور ان کے شفیع ہیں جب حساب کیے روکے جائیں گے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ السَّيِّدِ الْمُصْطَفَى الْمُجْتَبَى الْمُرْتَضَى

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو آقا کہ مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ۔

الْمُطَهَّرِ الْمُعَلَّى الْمُرَكَّبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

مطہر۔ بلند مرتبت اور پاکیزہ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر

السَّيِّدِ النَّبِيِّ الشَّامِيِّ الْوَلِيِّ الْهَاشِمِيِّ الْقُرَيْشِيِّ الْحَرَمِيِّ الْحِجَازِيِّ

جو سید، نبی، شامی، ولی، ہاشمی، قریشی، صاحب حرم، صاحب حجاز

الْبَرَاءِيِّ الْيَتَاهِمِيِّ الْأَبْطَحِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ

صاحب براءت، صاحب یتامہ اور صاحب بطحاء مکہ ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ السَّيِّدِ النَّبِيِّ الْبَرَاءِيِّ النَّاهِي الدَّاعِي التَّوَّاصِي

اور آل محمد پر جو محبوب کہ سید (مخلوق)، نبی، میدانوں میں لیر کرنے والے، منع فرمانے والے، دعوت دینے والے (مخلوق کی) پیشانیوں

الرَّضِيِّ الْعَلِيِّ السَّخِيِّ الْجَلِيِّ الْحَفِيِّ الْوَفِيِّ الصَّفِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر تصرف والے پسندیدہ (مخلوق و خلق) بلند مرتبت یعنی ظاہر پوری طرح چھان بین کرنے والے، وفا والے، باصفا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ السَّيِّدِ النَّبِيِّ الْغَنِيِّ التَّقِيِّ الْمُهْدِيِّ الرَّكْبِيِّ

محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب کہ سید نبی، غنی، متقی، ہدایت یافتہ۔ پاکیزہ





الْمَقْرَبِيِّ النَّجِيِّ الْمُقْتَدِي الْهَيْدِي الْمَتَّقِي الْمَغْنِي الْأُرْمِي الْمَكِّي الْمَدَنِي

(اعلیٰ مقام میں) قرار پانے والے۔ پہلکانی کا شرف پانے والے۔ (اوصاف کمال میں) انبیاء کی موافقت کرنے والے۔ ہدیر بخشنے والے۔ متقی غنی کنیرالے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ الَّذِي هُوَ بِحَقِيقَتِهِ

اُنہی تھی مدنی ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب باعتبار اپنی حقیقت کے

وَاسْطَةُ الْوُجُودِ وَالشُّهُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى

واسطہ و برزخ ہیں وجود (خالق) اور شہود (خالق) کا۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد پر اور

آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَرَبِ فِي الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ فِي الْعَجَمِ وَالْكَلِّ

آل محمد پر جو آقا عربوں کے سردار ہیں عرب میں اور عجمیوں کے عجم میں۔ اور سب کے سردار ہیں

فِي الْكُلِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

ہر جگہ اور ہر زمانہ میں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب سردار ہیں

الْخَلْقِ بِسَيَادَتِكَ وَكُلِّ مَنْ لَكَ عَلَيْهِ سَيَادَةٌ اللَّهُمَّ صَلِّ

تمام مخلوق کے بسبب تیری (عطا کردہ) سرداری کے۔ اور ہر اس شی کے سردار ہیں جس پر تیری سرداری ہے۔ لے اللہ صلوات و

وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَسَيِّدِ

سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب کہ سردار میں انبیاء و مرسلین کے اور سردار ہیں

أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ

تمام آسمان و زمین والوں کے۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد پر

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ سَادَاتِ بَرِّيَّتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور آل محمد پر جو کہ سردار ہیں تیری تمام مخلوق کے سرداروں کے۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَبِيدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ

محمد پر اور آل محمد پر جو تمام بندوں کے سردار ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد پر

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ السَّيِّدِ الْعَلِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ

اور آل محمد پر جو محبوب کہ سید ہیں علم ظاہر و باطن کے مالک ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد پر





وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَلَامٌ كُلِّ مَسِيُودٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

اور آل محمد پر جو سردار ہیں ہر سیادت والے کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَسْيَادِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

محمد پر اور آل محمد پر جو سادات کے سردار ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْجُنُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں شکروں کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ السَّيِّدِ الْأَعْظَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب کہ سید اعظم ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ خَلْقِ اللَّهِ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ

محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب کہ سردار ہیں اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کے۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ أَوْلِيَاءِكَ الْعَارِفِينَ

و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب کہ سردار ہیں تیرے اولیاء عارفین کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ مَلَائِكَتِكَ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب سردار ہیں تیرے ملائکہ

الْمُقَرَّبِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِنَا

مقربین کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو ہمارے سردار

رَسُولٍ مُّسْتَعِيْبٍ مُّقْتَصِدٍ حَلِيمٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

کہ رسول (اللہ سے) طالب امداد۔ درمیانہ رو اور حلیم ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْكَوْتَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ وَالْفَرِيقَيْنِ

محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب کہ سردار ہیں کونین اور جن والس اور فریقین (عرب و عجم) کے

فَتَاخَ فَاتِحُ اللَّهِ نَصْرًا مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحَ قَرِيبٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

مشکلات حل کرنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاحب فتح، اللہ تعالیٰ کی محبت نصرت اور قریب ترفیح۔ اے اللہ صلوات و سلام





عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَسْرَارِ الْمَلَكُوتِ وَالْعَالَمِ

محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب کہ مالک ہیں اسرار ملکوت اور تمام جہان کے ساتھ اور عالم ہیں

بِغَايَةِ الرَّغْبَةِ وَالْجَبْرُوتِ وَاللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ

غایت رغبت اور جبروت و جلال خداوندی کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اور آل محمد پر جو محبوب کہ سردار ہیں دنیا و آخرت کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِنَا الْأَكْمَلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

محمد پر اور آل محمد پر جو ہمارے سید اکمل ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَطْفَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد پر اور آل محمد پر جو سردار ہیں بچوں کے (بچپن میں) اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الشُّيُوخِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

فرما محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب کہ سردار ہیں شیوخ کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب کہ سردار ہیں ادھیڑ عمر والوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ السَّيِّدِ الدِّينِ اللَّهُمَّ

و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو نرم مزاج سردار ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ أَهْلِ الرَّتَبِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب سردار ہیں عالی مرتبت

الْفَاضِلَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ السَّيِّدِ

لوگوں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو آقا کہ چودھویں کے

الْبَدْرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

چاند ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو آقا فریقین





الْفَرِيقَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

(عرب و عجم کے سردار ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو

سَيِّدِ الْعَالَمِينَ عَلَى الْإِطْلَاقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آقا سردار ہیں تمام جہانوں کے علی الاطلاق۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور

آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْوُجُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

آل محمد پر جو آقا سید الوجود ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل

مُحَمَّدٍ سَيِّدِ أَهْلِ الْفَضْلِ وَالْجُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

محمد پر جو محبوب سردار ہیں تمام ارباب فضیلت اور اصحاب جود و نوال کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَزَلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

محمد پر اور آل محمد پر جو آقا سید ازل ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَبَدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب سید الابد ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْوَرَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب سید الوری (مخلوق) ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ أَهْلِ الْمَشَارِقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب اہل مشرق کے سردار ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ أَهْلِ الْمَغَارِبِ اللَّهُمَّ صَلِّ

فرما محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب اہل مغرب کے سردار ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَلَائِكَةِ اللَّهُمَّ

و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب کہ ملائکہ کے سردار ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ السَّيِّدِ الْمَجِيدِ اللَّهُمَّ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب کہ بلند مرتبت سردار ہیں اے اللہ





صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأُمَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب کہ سید امت ہیں۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ السَّيِّدِ الْكَامِلِ النَّبِيِّ

و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب کہ سید کامل عظیم المرتبت ہیں

الَّذِي جَاءَ بِالْوَحْيِ وَالتَّنْزِيلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

جو وحی الہی اور کلام منزل لائے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب ہر چھوٹے اور بڑے کے سردار ہیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل

عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ السَّيِّدِ الْمُعَلَّى وَالْعَلِيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ

فرما محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب کہ سید معلی و اعلیٰ ہیں۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ نَاهِ تَبِيَّتِنَا

و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جو محبوب کہ سردار ہیں جن و انس کے۔ منع فرمانے والے ہیں (براہیوں سے) بہار

رَسُولٍ صَاحِبِ النِّعْمَةِ هَاشِمِيٍّ كَرَامَةِ اللَّهِ فَصَلِّ يَا رَبِّ وَسَلِّمْ

نبی۔ رسول۔ مالک نعمت۔ ہاشمی۔ اللہ تعالیٰ کی مجسم عنایت اور کرم۔ پس اے میرے رب صلوات و سلام

وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَاعْفِرْ لِي وَ

اور برکت نازل فرما محمد پر اور آل سیدنا محمد پر اور میرے لیے مغفرت فرما اور

لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ اللَّهُمَّ إِنَّا

تمام مومنین و مومنات کے لیے اے بہت بخشنے والے۔ اے اللہ بے شک ہم

نَسَأُكَ الرِّضَا وَالْعَفْوَ عَمَّا مَضَى يَا مَنْ يَعْفُو عَنِ الزَّلَّاتِ وَ

سوال کرتے ہیں تجھ سے رضاد کا اور عفو کا ان تمام لغزشات سے جو ہو چکیں۔ اے کہ درگزر فرماتا ہے لغزشوں سے اور

يَرْحَمُ الْعُصَاةَ وَيُبْحُوا السَّيِّئَاتِ يَا إِلَهِي عَلَى الذُّنُوبِ نَدِمْنَا

رحم فرماتا ہے گناہگاروں پر اور مٹاتا ہے سیئات کو۔ اے میرے خدا، گناہوں پر ہم نادم ہیں





وَعَلَىٰ عَدَمِ الْعُودِ عَزْمُنَا وَبِنَيْبِكَ تَوَسَّلْنَا وَارْأَيْكَ تَقَرَّبْنَا فَلَا تَرُدَّنَا

دوبارہ نہ کرنے پر عازم ہیں، تیرے نبی کے ساتھ توسل کرتے ہیں اور تیری بارگاہ کا قرب طلب کرتے ہیں پس ہمیں روز

وَلَا تَقْطَعْ حَبْلَ رَجَائِنَا وَلَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا وَقَعْنَا فِي صَبَاحِنَا وَسَائِنَا

فرما اور ہماری امید درجہ کے اسباب قطع نہ فرما۔ اور ہم سے مؤاخذہ نہ فرما ان امور پر جو سرزد ہوئے ہماری صبحوں اور شاموں میں

يَا إِلَهِي إِنْ طَرَدْتَنَا عَنْ بَابِكَ فَعَلَىٰ بَابِ مَنْ نَقَفَ وَإِنْ قَطَعْتَ

اے میرے خدا اگر تو نے ہمیں تھکلا دیا اپنے دروازے سے تو پس کون ہے جس کے در پر ہم بٹھریں اور اگر تو قطع کرے

رَجَائِنَا مِنْ جَنَابِكَ فَهَنْ تَرْجِيئِهِ وَنَسْتَعِظُ كَيْفَ وَقَدْ أَطْمَعْتَ

ہماری رجاء و امید کو تو کون ہے جس سے امید رکھیں اور لطف و کرم کی بھیک مانگیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ تو نے امید دلائی ہے

كُلَّ شَيْءٍ هَالِكٍ فَالْمُؤْمِنُونَ أَوْلَىٰ بِذَلِكَ يَا إِلَهِي سَارَتِ السُّفُنُ

ہر بد بخت۔ تنہا حال کو تو مومن زیادہ حقدار ہیں اس کے۔ اے میرے خدا چل پڑیں سب کی کشتیاں (سوئے منزل)

وَسَفِينَتِي وَقَفْتَ وَأَنْتَهتِ النَّفُوسُ وَنَفْسِي مَا أَنْتَهتِ

اور میری کشتی کھڑی ہے اور باز آگئے تمام نفوس (اپنی خواہشات سے) اور میرا نفس باز نہیں آیا

إِلَهِي أَسْأَلُكَ فَتَحَالِلًا بِبُوابِ تَرْجِيئِنا بِالطَّلَابِ اللَّهُمَّ بَاعِدْ

اے میرے الہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے (بارگاہ کرم کے) دروازوں کے کھولنے کا سائلوں کو خوش آمدید کہنے کیلئے۔ اے اللہ دوری

بَيْنَنَا وَبَيْنَ الشَّرِكِ بَعْدَ الْيُسِّ لَهُ حَدٌّ وَاحْتَمَلْنَا بِالْإِيمَانِ وَ

پیدا فرما درمیان میرے اور درمیان شرک کے اتنی دوری کہ جس کی حد ہی نہیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر منسب اور

أَمْرَجَهُ بِالرُّوحِ وَالْجَسَدِ اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقَوِّنِي بِرِضَاكَ ضَعْفِي

ایمان کو ملا دے ہمارے روح اور جسم کے ساتھ۔ اے اللہ میں کمزور ہوں پس قوی فرما مجھے اپنی رضا کے ساتھ اور بنا دے

وَاجْعَلِ الْإِسْلَامَ مِنْتَهَىٰ رَغْبَتِي وَبَلِّغْنِي بِرَحْمَتِكَ الَّتِي أَرْجُو

اسلام کو میری رغبت کا منتہی اور پہنچا مجھے بظہیل اپنی رحمت کے جس کا میں امیدوار ہوں

رَحْمَتِكَ وَخُذْ لِي الْخَيْرَ بِنَاصِيَتِي وَاجْعَلْ لِي وَدَائِي صُدُورَ الَّذِينَ

اپنی رحمت خاصہ تک۔ اور پکڑ کر منوج کر طرف خیر کے میری پیشانی کو اور پیدا فرما میری محبت ایمان داروں کے سینوں





اٰمَنُوْا وَعٰهَدُوْا عِنْدَكَ فِی قُلُوْبِ جَمِیْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ يَا وَدُوْدُ اَللّٰهُمَّ

میں اور میرا عہد اپنے ہاں تمام مومنین کے قلوب میں لے دو۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمَعْلَمِيْنَ وَالتَّعَلِيْمِيْنَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد پیر اور آل محمد پر جو سردار ہیں معلوموں کے اور اللہ تعالیٰ سے تعلیم پانہ والوں

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْعَالِمُ وَاَنَا الْغَافِلُ فَمَنْ يِّدْعُ الْغَافِلُ اِلَّا الْعَالِمُ

اے اللہ تو ہی عالم ہے اور میں ہی غافل ہوں پس کسی کو پکارے غافل سوائے عالم کے

يَا رَبِّ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْحَقُّ وَاَنَا الْبَاطِلُ فَمَنْ يِّدْعُ الْبَاطِلُ اِلَّا

اے میرے پروردگار۔ اے اللہ تو ہی حق اور دائم ہے اور میں زائل و فنا پذیر ہوں تو کسی کو پکارے غافی سوائے

الْحَقِّ يَا رَبِّ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْعَادِلُ وَاَنَا الْمَظْلُوْمُ فَمَنْ يِّدْعُ

باقی و دائم کے اے میرے رب۔ اے اللہ تو ہی عادل ہے اور میں مظلوم ہوں پس کسی کو پکارے مظلوم

الْمَظْلُوْمُ اِلَّا الْعَادِلُ يَا رَبِّ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَعْبُوْدُ وَاَنَا الْعَابِدُ

سوائے عادل کے اے میرے رب۔ اے اللہ تو ہی معبود ہے اور میں عابد ہوں

فَمَنْ يِّدْعُ الْعَابِدُ اِلَّا الْمَعْبُوْدُ يَا رَبِّ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْقَائِمُ وَاَنَا

پس کسی کو پکارے عابد سوائے اپنے معبود کے اے میرے رب۔ اے اللہ تو ہی قائم اور ابدی ہے اور میں

الْمَعْدُوْمُ فَمَنْ يِّدْعُ الْمَعْدُوْمَ اِلَّا الْقَائِمُ يَا رَبِّ اَللّٰهُمَّ

معدوم ہونے والا ہوں تو کسی کو پکارے معدوم سوائے قائم کے اے میرے رب۔ اے اللہ

اَنْتَ الْقَاسِمُ وَاَنَا الْمَقْسُوْمُ فَمَنْ يِّدْعُ الْمَقْسُوْمَ اِلَّا الْقَاسِمُ يَا رَبِّ

تو ہی قاسم ہے اور میں قسمت و نصیب دیا جانے والا ہوں تو کسی کو پکارے طالب قسمت سوائے قاسم کے اے میرے

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الرَّبُّ وَاَنَا الْمَرْبُوْبُ فَمَنْ يِّدْعُ الْمَرْبُوْبَ اِلَّا الرَّبَّ يَا رَبِّ

رب۔ اے اللہ تو پانے والا ہے اور میں پرورش پانے والا ہوں تو کسی کو پکارے پرورش پانے والا سوائے اپنے رب کے اے میرے رب

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْقَادِرُ وَاَنَا الْمَقْدُوْرُ فَمَنْ يِّدْعُ الْمَقْدُوْرَ اِلَّا الْقَادِرَ يَا رَبِّ

اے اللہ تو ہی قادر ہے اور میں تیرے تصرف میں ہوں تو کسی کو پکارے ماتحت سوائے اپنے مالک قدرت کے اے میرے رب



يَا بَدِيعَ الْعَجَائِبِ بِالْخَيْرِ يَا حَبِيبُ أَنْتَ الْمَحْمُودُ وَرَبُّنَا الْمَعْبُودُ يَا دُودُ

اے عجائب کو خیر کے ساتھ ایجاد فرمانے والے۔ اے محبت تو ہی محمود ہے اور رب ہمارا معبود ہے۔ اے دود

أَنْتَ الْمُوَدُّ وَدَوْدُ فَضْلِكَ الْمَعْمُودُ وَيَا بَرَّانْتَ الْبَارُّ وَبِرُّكَ الْمَوْعُودُ

تو ہی مستحق مودت و محبت ہے اور تیرا افضل معلوم و معروف ہے اور اے احسان کرنے والے تو ہی مومن ہے اور تیرا احسان موعود ہے

خَيْرُكَ الْمَشْهُودُ يَا حَيُّ كُنْتَ حَيًّا حِينَ لَا حَيٌّ وَتَكُونُ حَيًّا حِينَ لَا حَيٌّ

اور تیری غیر دیکھی جہاں ہے۔ اے حی تو زندہ تھا جبکہ کوئی بھی زندہ نہیں تھا اور زندہ ہو گا جبکہ کوئی زندہ نہیں ہو گا

يَا قَائِمٌ أَنْتَ الْقَائِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَالْمُبَازِيءُ بِمَا عَمِلَتْ

اے نگران تو ہی نگران فرمانے والا ہے ہر نفس پر اس کی کمائی میں۔ اور جزا دینے والا ہے اس کے عمل کی

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا جَمِيلٌ أَنْتَ الْمُجَمَّلُ الْجَمِيلُ فَلَا يَحِقُّ هَذَا

اے مالک جلال و اکرام کے۔ اے جمیل تو ہی جمال بخشنے والا، بزرگی والا ہے پس نہیں لائق یہ

الْإِسْمُ إِلَّا لَكَ وَلَا يَلِيْقُ إِلَّا بِكَ أَنْتَ الْكَرِيمُ الْمَكْرَمُ وَأَنْتَ الْجَوَادُ

اسم مگر تیرے ہی اور نہیں موزوں مگر ساتھ تیرے۔ تو کریم مكرم ہے اور تو صاحب جود

الْمُنْعَمُ وَخَيْرُكَ كَثِيرٌ وَفَضْلُكَ كَبِيرٌ يَا كَبِيرُ الْمُتَكَبِّرُ لَكَ التَّعْبَاءُ وَ

صاحب انعام ہے اور تیری خیر عام ہے اور تیرا فضل بہت بڑا ہے۔ اے کبیرے مالک کبریاں کے تیری ملک میں ہی ہیں

الْكِبْرِيَاءُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ الْخُشُوعُ إِلَّا لَكَ وَالتَّوَكُّلُ إِلَّا عَلَيْكَ وَ

تعمتیں اور کبریاں، نہیں زبیا کسی کو خشوع مگر تیرے لیے اور نہ توکل مگر تجھ پر اور نہ

الْإِعْتِصَامُ إِلَّا بِكَ وَالتَّفْوِيضُ إِلَّا إِلَيْكَ يَا فَرْدُ يَا وَتَرَأَيْتَ الرَّبَّ

عصمت حاصل کرنا مگر ساتھ تیرے۔ اور نہ امور کو سونپنا مگر طرف تیرے۔ اے فرد۔ اے یکتا تو ہی رب ہے

وَكُنَّا لَكَ الْعَبْدُ لَا شَرِيكَ لَكَ وَلَا نَدُّ عَوْ لَكَ وَالِدَاؤُا وَلَا وُلْدًا أَيُّهَا

اور ہم سب تیرے عبد، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ نہ ہم تیرے لیے والد مانتے ہیں اور نہ اولاد اے

أَحَدٌ يَا حَيُّ أَحْيَيْتَنِي حَيَاةً طَيِّبَةً وَأَسْقَيْتَنِي مِنْ شَرَابِ مَحَبَّتِكَ أَعْدَابَةَ

یکانہ، اے حی مجھے پاکیزہ زندگی عطا فرما اور مجھے پلا اپنے شراب محبت سے شیریں تر





وَأَطْيَبِيهِ يَا حَبِيبُ إِلَهِي حَقَّقْ حَيَاتِي بِكَ تَحَقِّقْنِي بِحَقَائِقِهَا فَهِيَ

اور پاکیزہ تر مشراب لے حبیب۔ لے میرے خدا میری حیات کو پاٹیدار بنا ساتھ اپنی توفیق کے مجھے قائم فرمائے اس کے حقائق کے

بِحَقَائِقِهَا أَيضًا سِوَاكَ كَمَا أَنَّهَا بِصُورِهَا سِوَاكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

ساتھ اور یہ حیات (مخلوق) اپنے حقائق کے لحاظ سے بھی تیری غیر ہے جیسے کہ باغنا صورت کے تیری غیر اور سوا ہے۔ لے اللہ صلوات و

سَلَامٌ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَى كُلِّ مَنْ لَهٗ نَسْبَةٌ إِلَيْهِ صُورَةٌ أَوْ مَعْنَى

سلام اور برکات نازل فرمان پر اور ہر اس شخص پر جسے ان سے کسی طرح کی نسبت ہو صوری ہو یا معنوی

دِينِيَّةً قَلْبِيَّةً أَوْ رُوحِيَّةً نَبَوِيَّةً أَوْ لَوِيَّةً اللَّهُمَّ اعْفِنِي فِي

دینی قلبی ہو یا روحی نبوی خواہ ولایت والی۔ لے اللہ مجھے عفو سے بہرہ ور فرما

الدَّارَيْنِ بِطَفِيلٍ مِثْرِي وَسَيَادَتِهِ وَبِعِزَّتِهِ وَقَبُولِهِ فِي الْكُونَيْنِ وَكُلِّ

دارین میں بطفیل میرے آقا اور ان کی سیادت کے اور بطفیل ان کی عزت و قبولیت کے کونین میں اور سبھی

يَرْجِعُ إِلَيْكَ وَلَا يَجْرِي الْفَنَاءُ وَلَا الزَّوَالُ عَلَيْكَ يَا بَارِيَّ يَا صُورُ

تیری طرف رجوع کرنے والے ہیں اور نہیں جاری ہو سکتی فنا اور زوال تجھ پر لے صبح و سالم پیدا کرنے والے

أَحْدَثَتْ كُلَّ شَيْءٍ سِوَاكَ كَمَا أَرَدْتِ وَبَرَاتٍ فَأَحْكَمْتِ وَ

لے صورتیں بنانے والے، تو نے ہی پیدا کیا ہے اپنے علاوہ ہر موجود کو جیسے ارادہ فرمایا اور تو نے پیدا فرمایا پس مضبوطی بخشی اور

صَوَّرْتِ وَخَلَقْتِ فَأَحْسَنْتِ وَسَوَّيْتِ فَعَدَلْتِ يَا وَاحِدُ يَا

صورتیں بنائی اور وجود بخشا پس خوب بنایا اور درستی بخشی پس موزوں ترین بنایا لے واحد لے

أَحَدًا لَا شَرِيكَ لَكَ وَلَا مِثْلَ لَكَ وَلَا نَظِيرَ لَكَ يَا غَنِيٌّ وَلَا وَزِيرَ لَكَ وَ

احد۔ نہیں شریک تیرے لیے اور نہ مثل تیری اور نہیں ہے نظیر تیری لے بے نیاز اور نہ کوئی تیرا وزیر اور

لَا مُشِيرَ لَكَ وَلَا مُعِينَ لَكَ وَلَا نِدَّ لَكَ وَلَا جَارَ لَكَ وَلَا حَدَّ لَكَ وَلَا

نہ کوئی تیرا مشیر اور نہ مددگار۔ نہ کوئی مد مقابل۔ نہ پڑوسی۔ اور نہ کوئی تیری حد ہے نہ

كُفُولَكَ وَلَا ضِدَّ لَكَ وَلَا مُنَازِعَ لَكَ وَلَا مُدَبِّرَ لَكَ وَلَا مُعِينَ

تیری کفو ہے اور نہ ہی ضد اور نہ کوئی تیرے ساتھ نزاع کرنے والا اور نہ تدبیر کرنے والا اور نہ اعانت کرنے والا



لَكَ وَلَا ظَهِيرَ لَكَ بَلْ كَانَ قَبْلَ وُجُودِ الْعَالَمِينَ أَجْمَعِينَ وَلَمْ يَزَلْ

اور نہ پشت پناہ - بلکہ (تو) تھا تمام جہانوں سے قبل اور ہمیشہ سے تھا

وَلَمْ يَزَلْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَلِيكًا كَرِيمًا قَيُّومًا أَبَدًا الْأَبَدِينَ وَدَهْرًا

اور ہمیشہ رہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ صاحب ملک، صاحب کرم، قائم رہنے والا ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جب تک اہل دہر موجود

الدَّاهِرِينَ فَهُوَ أَحَاطَتِي مِنْ جَمِيعِ الشَّيَاطِينِ وَالسَّلَاطِينِ وَعَوْنٌ

رہیں گے پس وہی میری نگہداشت کرنے والا ہے تمام شیاطین و سلاطین سے اور میرا مددگار ہے

لِي مِنْ جَمِيعِ الْأَقْرَبِينَ وَالْأَبْعَدِينَ يَا مَا جَدِيًا بِحَمْدِكَ الْمَجْدُ كُلُّهُ

تمام ترقیبوں اور دور کے رشتے والوں سے - اے ماجد - اے مجید - بزرگی تمام تیرے ہی لیے ہے

وَلَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ وَلَكَ الْخَلْقُ كُلُّهُ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ

اور تیرے ہی لیے ہے حمد تمام تیرے لیے ہی ہے مخلوق سبھی اور تیری طرف ہی لوٹتا ہے ہر امر تمام تیرا حمد اللہ کیلئے

الْأَوَّلِ قَبْلَ الْإِنشَاءِ وَالْإِحْيَاءِ وَالْأَخْرَبَعْدَ فَنَاءِ الْأَشْيَاءِ الْعَلِيهِ الَّذِي

ہے جو پہلے ہے (ہر چیز کی) ایجاد اور احیاء سے اور آخر و باقی ہے تمام اشیاء کی فنا کے بعد سبھی - ایسا عظیم ہے کہ

لَا يَنْسِي مَنْ ذَكَرَهُ وَلَا يَنْقُصُ مَنْ شَكَرَهُ وَلَا يُخَيِّبُ مَنْ دَعَاهُ وَلَا يَقْطَعُ

نہیں بھلاتا اپنا ذکر کرنے والوں کو اور نہیں کمی کرتا شکر گزاروں کی جزا میں اور نہیں محروم رکھتا اپنے دعا کرنے والوں کو اور نہیں قطع

رَجَاءً مَنْ رَجَاهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُكَ وَكَفَى بِكَ شَهِيدًا وَأَشْهَدُ جَمِيعَ

کرتا امید رکھنے والوں کی امید کو - اے اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں اور تو کافی ہے بطور گواہ کے اور گواہ بناتا ہوں تیرے تمام

مَلَائِكَتِكَ وَسُكَّانِ سَمَوَاتِكَ وَحَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَنْ بَعَثْتَ مِنْ

ملائکہ اور آسمانوں میں بسنے والوں کو - اور حاملین عرش کو اور جنہیں تو نے مبعوث فرمایا یعنی

أَنْبِيَاءِكَ وَرُسُلِكَ وَأَنْشَأْتَ مِنْ أَصْنَافِ خَلْقِكَ وَإِنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ

انبیاء و رسل کو اور جنہیں ایجاد فرمایا یعنی تمام اقسام کی مخلوق کو اور بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ تو

أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَلَا عَدِيلَ لَكَ وَلَا

ہی اللہ ہے نہیں معبود برحق مگر تو ہی اکیلا تیرا شریک نہیں اور نہ ہم پلہ اور تیرے قول کا





خُفِّ لِقَوْلِكَ وَلَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَتِكَ وَأَنْ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

خلاف نہیں ہو سکتا اور نہ تیرے کلمات میں تبدیلی اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ

وَسَلَّمَ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ أَدْمَى مَا حَمَلْتَهُ إِلَى الْعِبَادِ وَجَاهِدْ فِي اللَّهِ عَزَّ

وسلم تیرے عبد غلام اور رسول برحق ہیں، انہوں نے ادا کر دیا بندوں کی طرف تیرا بار رسالت اور انہوں نے جہاد کیا اللہ

وَجَلَّ حَقُّ الْجِهَادِ وَأَنَّ بَشْرَ بِيَاهُ حَقٌّ مِنَ الثَّوَابِ وَأَنْذِرْ بِمَا هُوَ

عزوجل کی راہ میں جیسے کہ حق تھا جہاد کا اور یہ کہ انہوں نے بشارت دی ثواب برحق کی۔ اور ٹھہرایا سا سخر

صَدَقٌ مِنَ الْعِقَابِ اللَّهُمَّ تَبَتَّنِي عَلَى دِينِكَ مَا أَحْيَيْتَنِي وَلَا

اس عذاب و عقاب کے جو تجھ اور واقعی ہے۔ اے اللہ مجھے اپنے دین پر ثابت قدم رکھ جب تک مجھے زندہ رکھے اور نہ

تُرْغِ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ

ٹیڑھا کر میرے دل کو بعد ہدایت دینے کے اور عطا فرما مجھے اپنی طرف سے رحمت خاصہ بے شک تو

أَنْتَ الْوَهَّابُ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

ہی عطا کرنے والا ہے۔ اے وہاب۔ اے وہاب۔ اے وہاب اور رحمت کاملہ نازل فرما محمد پر

وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْنِي مِنْ أَشْيَاعِهِ وَشَيْعَتِهِ وَأَحْشِرْنِي فِي زُمْرَتِهِ

اور آل محمد پر اور مجھے ان کی جماعت اور گروہ سے بنا اور مجھے انہیں کی جماعت میں اُٹھاتا

وَوَفِّقْنِي لِإِدَاءِ فَرْضِ الْجُمُعَاتِ وَمَا أُوجِبَتْ عَلَيَّ فِيهَا مِنَ الطَّاعَاتِ

اور مجھے توفیق دے فرض جمعوں کی اور ان میں واجب و لازم طاعات کی ادائیگی کی اور

قَسَبْتَ لِأَهْلِهَا مِنَ الْعَطَاءِ فِي يَوْمِ الْجَزَاءِ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

جو قسمت فرمائی اہل طاعات کے لیے عطا سے یوم جزاء میں بیشک تو غالب حکمت والا ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ اللَّيْلَ مُظْلِمًا بِقُدْرَتِهِ وَجَاءَ بِالنَّهَارِ مُبِينًا

تمام تر حمد و ثناء اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو لے گیا تاریک رات کو اپنی قدرت سے اور لے آیا روشن دن کو

بِرَحْمَتِهِ وَكَسَانِي ضِيَاءَهُ وَآتَانِي نِعْمَتَهُ اللَّهُمَّ فَكَمَا أَبْقَيْتَنِي لَهُ

اپنی رحمت کے ساتھ۔ اور مجھے اسکی روشنی اڑھائی اور اپنی نعمت عطا فرمائی۔ اے اللہ پس جیسے تو نے باقی رکھا مجھے اس دن کیلئے



فَأَبْقِنِي لِمِثَالِهِ وَصَلِّ عَلَيَّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَلَا تَفْجَعْنِي فِيهِ وَ

مجھے اس جیسے دوسرے دنوں کے لیے باقی رکھ اور رحمت کا طرنازل فرما محمد پر اور آل محمد پر اور مجھے غمزدہ کراس میں اور

فِي غَيْرِهِ مِنَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ بِأَرْكَابِ الْمَحَارِمِ وَالتَّسَابِ الْمَائِثِ

دوسری راتوں اور دنوں میں حرام کاموں کے سرزد ہونے سے اور گناہ کمانے سے

وَأَرْزُقْنِي خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا فِيهِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ وَأَصْرِفْ عَنِّي شَرَّهُ وَشَرًّا

اور مجھے نصیب فرما اس کی خیر۔ جو کچھ اس میں ہے اس کی خیر اور اس کے بعد کی خیر اور مجھ سے دور فرما اس کا شر۔ اور جو اس

فِيهِ وَشَرًّا بَعْدَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي بِذِمَّةِ الْإِسْلَامِ أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ وَبِحُرْمَةِ

میں ہے اس کا شر اور اس کے بعد والے شر سے۔ اے اللہ میں ذمہ اسلام کے ساتھ تیری طرف وسیلہ پکڑتا ہوں اور حرمت

الْقُرْآنِ أَعْتَمِدُ عَلَيْكَ وَبِمُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

قرآن کے ساتھ تجھ پر اعتماد کرتا ہوں اور وسیلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ساتھ

أَسْتَشْفِعُ لَدَيْكَ فَأَعْرِفِ اللَّهُمَّ ذِمَّتِي الَّتِي رَجَوْتُ بِهَا قَضَاءَ

شفاعت طلب کرتا ہوں تیرے ہاں تو اے اللہ محفوظ رکھ میری اس ضمانت کو جس کی بدولت میں نے امید رکھی ہے تجھ سے قضاء

حَاجَتِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ اقْضِ لِي فِي الْخَمِيْسِ خَمْسًا

حاجات کی لے ارحم الراحمین۔ لے اللہ فیصلہ فرما میرے لیے خمیس میں پانچ مطالب کا

لَا يَتَسَعُ لَهَا إِلَّا كَرَمُكَ وَلَا يَطِيقُهَا إِلَّا نِعْمَتُكَ سَلَامَةٌ أَقْوَى

کہ نہیں گنجائش رکھتا ان کی مگر تیرا کرم اور نہیں استطاعت رکھتی ان کی مگر تیری نعمت (اول سلامتی جس کی بدولت میں

بِهَا عَلَى طَاعَتِكَ وَعِبَادَةِ اسْتَحِقُّ بِهَا جَزِيلٌ مَثْوَبَتِكَ وَسَعَةٌ

تقویت پاؤں تیری طاعت پر (دوم) عبادت جس کی بدولت مستحق ٹھہروں تیرے ثواب جزیل کا (سوم) وسعت

فِي الْحَالِ مِنَ الرِّشْقِ الْحَلَالِ وَأَنْ تُوْمِنَنِي فِي مَوَاقِفِ الْخَوْفِ

رزق حلال کی فری طور پر۔ (چہام) مجھے امن میں رکھے مقامات خوف میں اپنے

بِأَمْنِكَ وَتَجْعَلَنِي مِنْ طَوَارِقِ الْهُومِ وَالْغُومِ فِي حِصْنِكَ وَ

خاص امن کے ساتھ۔ پنجم۔ مجھے اپنے قلعہ حفظ میں رکھے طاری ہونے والے ہوم و غوم سے۔ اور



صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْ تَوْسَلِيَّ بِهِ

رحمت کاملہ نازل فرما سیدنا محمد پر اور آل سیدنا محمد پر اور میرے ان کے ساتھ وسیلہ پڑنے کو بنا دے

شَافِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَافِعًا إِنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ هَذَا الْحَمْدُ لِلَّهِ

شافع و نافع بروز قیامت۔ بیشک تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ سب ترفیحات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں

الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا

جس نے رات کو لباس کی مانند بنایا۔ اور نیند کو موجب آرام و سکون اور دن کو سبب نشور اور کام کا دن کے لیے بنایا

لَكَ الْحَمْدُ أَنْ بَعَثْتَنِي مِنْ مَرْقَدِي وَكُوَشِدْتْ جَعَلْتَهُ سَرْمَدًا أَحَدًا

تیرے لیے حمد ہے کہ تو نے مجھے نیند سے بیدار کیا اور اگر تو چاہتا تو اس کو ہمیشہ کی نیند بنا دیتا

دَائِمًا لَا يَنْقُطُ أَبَدًا وَلَا يُحْصَى لَهُ الْخَلْقُ عَدَدًا اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ

ایسی حمد کہ دائم اور مسلسل اور تمام مخلوقات اس کے اعداد کا احاطہ نہ کر سکیں۔ اے اللہ تیرے ہی لیے حمد ہے

أَنْ خَلَقْتَ فَسَوَّيْتَ وَقَدَّرْتَ وَقَضَيْتَ وَأَمَتَّ وَأَحْيَيْتَ وَأَمْرَضْتَ

کہ تو نے پیدا کیا پس درست بنایا اور اندازہ لگایا اور عمل مندرمایا اور موت دی اور زندہ فرمایا اور مریض

وَشَفَيْتَ وَعَافَيْتَ وَأَبْلَيْتَ وَعَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَيْتَ وَعَلَى الْمَلِكِ

بنایا اور شفا دی۔ عافیت دی اور آزمائش میں ٹالا۔ اور عرش پر غالب ہوا اور ملک کائنات پر

إِحْتَوَيْتَ ادْعُوكَ دَعَاءَ مَنْ ضَعُفَتْ وَسِيلَتُهُ وَانْقَطَعَتْ

طاقت اور غالب ہوا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں مانند ضعیف و سہیلے والے کی دعا کے کہ منقطع ہو چکے ہوں

حِيلَتُهُ وَاقْتَرَبَ أَجَلُهُ وَتَدَانِي فِي الدُّنْيَا أَمَلُهُ وَاسْتَدَّتْ إِلَى

جس کے اسباب دھیلے اور اس کی موت قریب آچھی ہو اور قریب آچھی ہو دنیا میں آرزو اس کی اور سخت ہو چکی

رَحْمَتِكَ فَاقْتَتَهُ وَعَظُمَتْ لِتَفْرِيطِهِ حَسْرَتُهُ وَكَثُرَتْ نَزْلَتُهُ وَ

ہو تیری رحمت کی طرف محتاجی اس کی اور عظیم ہو چکی ہو بوجہ کوتاہیوں کے حسرت اس کی اور بہت ہوں تشریف اس کی

عَثَرْتُهُ وَخَلَصْتُ بِوَجْهِكَ تَوْبَتُهُ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ

اور گراؤ میں اور بہت ہو چکیں تیرے تصدق میں توبہ اس کی۔ پس رحمت کاملہ نازل فرما محمد آخر الزمان نبی پر



وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّاهِرِينَ وَارْزُقْنِي شَفَاعَةَ مُحَمَّدٍ

اور ان کے طیب و طاہر اہل بیت پر اور مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَحْرِمْنِي صُحْبَتَهُ إِنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ

اور مجھے ان کے شرف صحبت سے محروم نہ فرما بے شک تو ارحم الراحمین

الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ اقْضِ لِي فِي الْأَرْبَعَاءِ أَرْبَعًا اجْعَلْ قُوَّتِي فِي

بے۔ اے اللہ میرے لیے فیصلہ فرما بدھ کے دن میں چار چیزوں کا میری قوت صرف فرما

طَاعَتِكَ وَنَشَاطِي فِي عِبَادَتِكَ وَرَغْبَتِي فِي ثَوَابِكَ وَنَهْدِي

اپنی طاعت میں اور میری مسرت و شادمانی اپنی عبادت میں اور میری رغبت اپنے ثواب میں اور میری بے رغبتی

فِيهَا يُوجِبُ لِي أَلِيمَ عِقَابِكَ إِنَّكَ لَطِيفٌ لِّمَا تَشَاءُ وَصَلَّى اللَّهُ

ان امور میں بنا جو عذاب الیم کے موجب ہوں بے شک تو احسان فرمانے والا ہے جس کے لیے چاہے اور رحمت کامل نازل

عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَعَشِيرَتِهِ

فرمائے اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد پر اور آپ کی آل و اصحاب اور اہل بیت اور عزت پر اور قریبی برادری پر

وَأُظْهَارِهِ وَأَنْصَارِهِ أَجْمَعِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يُشْهَدْ أَحَدًا

اور آپ کے معاونین و انصار تمام پر۔ تمام تر حمد اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو گواہ نہ بنایا

حِينَ قَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا اتَّخَذَ مَعِينًا حِينَ بَرَأَ النَّسَابَاتِ

جبکہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور نہ کسی کو معاون بنا یا جبکہ ارواح و نفوس کو پیدا فرمایا

لَمْ يُشَارِكْ فِي الْإِلَهِيَّةِ وَلَمْ يُظَاهَرْ فِي الْوَحْدِ إِنَّيَّةَ كَلَّتِ الْأَلْسُنُ

نہ کوئی اس کی الوہیت میں شریک اور نہ اس کی وحدانیت میں معاون۔ زبانیں گنگ ہیں اس

عَنْ غَايَةِ صِفَتِهِ وَالْعُقُولُ عَنْ كُنْهِ مَعْرِفَتِهِ وَتَوَاضَعَتِ الْجَبَابِرَةُ

کی کامل تعریف سے اور عقول عاجز ہیں اس کی معرفت حقیقت اور سرخوں ہو گئے سرکش

لِهَيْبَتِهِ وَعَدَّتِ الْوُجُوهُ لِخَشْيَتِهِ وَانْقَادَ كُلُّ عَظِيمٍ لِعَظَمَتِهِ فَلَا

اس کی ہیبت کی وجہ سے اور جھک گئے چہرے اس کی خشیت اور تابعداری کی ہر صاحب عظمت نے اس کی عظمت کی وجہ سے پس نہیں



الْحَمْدُ مُتَوَاتِرًا مُتَّسِقًا وَمُتَوَالِيًا مُسْتَوْثِقًا وَصَلَوْتُهُ عَلَى رَسُولِهِ

یہی ہے حمد سے پہلے درپے درپے مسلسل اور لگاتار و مربوط اور اس کی رحمت کا طے ہو اس کے رسول پر

أَبَدًا وَأَسْلَامَةً دَائِمًا سَرْمَدًا اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوَّلَ يَوْمِي هَذَا

ہمیشہ اور اس کا سلام ہر دائمی و سرمدی - اے اللہ بنا دے میرے اس دن کا پہلا حصہ

صَلَاحًا وَأَوْسَطَهُ فَلَاحًا وَآخِرَهُ نَجَاحًا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ يَوْمٍ

بہتری و درستگی - اور درمیانی حصہ کامیابی اور آخری حصہ خلاص اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں ایسے دن سے

أَوَّلُهُ فَزَعٌ وَأَوْسَطُهُ جَزَعٌ وَآخِرُهُ وَجَعٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ

کہ اس کا اول گھبراہٹ و بے چینی ہو اور درمیان بے صبری اور آخر دروالم ہو۔ اے اللہ میں تجھ سے معفرت چاہتا ہوں

لِكُلِّ نَذْرٍ نَذَرْتُهُ وَكُلِّ وَعْدٍ وَعَدْتُهُ وَكُلِّ عَهْدٍ عَاهَدْتُهُ ثُمَّ

ہر اس نذر کی جو میں نے مانی اور ہر اس وعدہ سے جو میں نے کیا اور ہر اس عہد سے جو میں نے کیا پھر

لَمْ أُؤْفِ بِهِ وَأَسْأَلُكَ فِي مَظَالِمِ عِبَادِكَ عِنْدِي فَأَيُّمَا عَبْدٍ مِّنْ

میں نے اس کو پورا نہ کیا اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے بندوں کے حقوق کے متعلق جو میرے پاس ہیں کہ جس تیرے

عَبِيدِكَ أَوْ أَمَةٍ مِّنْ إِمَائِكَ كَانَتْ لَهُ قَبْلِي مَظْلَمَةٌ ظَلَمْتُهَا آيَاهُ

بندے یا باندی کا میرے پاس حق ہے جس میں میں نے ظلم کیا ہے اس پر

فِي نَفْسِهِ أَوْ فِي عَرَضِهِ أَوْ فِي مَالِهِ أَوْ فِي أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ أَوْ غَيْبَةٍ

اس کی ذات میں یا عزت میں یا اس کے مال یا اس کے اہل و اولاد میں یا غیبت ہو

أَغْتَبْتُهُ بِهَا أَوْ تَحَامَلُ عَلَيْهَا بِبَيْلٍ أَوْ هَوَىٰ أَوْ انْفَةٍ أَوْ حَمِيَّةٍ أَوْ

جو میں نے کی یا کسی پر ظلم و زیادتی ہوئی بسبب میلان یا خواہش نفس یا تکبر یا حمیت یا

رِيَاءٍ أَوْ عَصَبِيَّةٍ غَائِبًا كَانِ أَوْ شَاهِدًا حَيًّا كَانِ أَوْ مَيِّتًا فَقَصْرَتْ

ریا کاری یا بیجا طرف داری کی وجہ سے غائب ہو یا حاضر، زندہ ہو یا فرحت شدہ پس قاصر ہو گیا

يَدَايَ وَضَاقَ وَسِعِي عَنْ رَدِّهَا إِلَيْهِ وَالتَّحَلُّلِ مِنْهُ فَاسْأَلُكَ

میرا ہاتھ اور تنگ ہوئی میری وسعت اس کے لوٹانے سے یا معاف کرانے سے پس میں سوال کرتا ہوں تجھ سے



يَا مَنْ يَبْلُغُ الْحَاجَاتِ وَهِيَ مُسْتَجِيبَةٌ لِمَشِيَّتِهِ وَمُسْرَعَةٌ إِلَى

اے کہ مالک ہے تمام حاجات کا جبکہ وہ حاضر ہیں اس کی مشیت کے آگے اور جلدی کرنے والے ہیں اس کے

إِزَادَتِهِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تُرَضِّيَهُ عَنِّي

اور اسے کی طرف کہ صلوٰۃ بھیجے محمد اور آل محمد پر اور یہ کہ راضی کرے انہیں مجھ سے

بِمَا شِئْتَ وَتَهَبَ لِي مِنْ عِنْدِكَ رَحْمَةً إِنَّهُ لَا تَنْقُصُكَ

جس طرح چاہے اور عطا کرے مجھے اپنی طرف سے رحمت، یقیناً شان یہ ہے کہ کوئی کمی پیدا نہیں کرتی تجھ میں

الْمَغْفِرَةَ وَلَا تَضُرُّكَ الْمَوْهَبَةُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ

میری مغفرت۔ اور نہ ضرر پہنچاتی ہے مجھے میرے لیے عطا و بخشش اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ

أُولَيْنِي فِي كُلِّ يَوْمٍ الْاِثْنَيْنِ نِعْمَتَيْنِ مِنْكَ ثَلَاثِينَ سَعَادَةً فِي

عطا فرما مجھے ہر سوموار کے دن اپنی طرف سے دو نعمتیں۔ سعادت مندی ساٹھ تیری

أَوْلِيهِ بِطَاعَتِكَ وَنِعْمَةٍ فِي آخِرِهِ بِمَغْفِرَتِكَ يَا مَنْ هُوَ إِلَهُ وَلَا

طاعت کے اس کے آغاز میں اور نعمت اندوزی ساتھ تیری مغفرت کے اس کے آخر میں۔ اے کہ وہی معبود برحق ہے

يَغْفِرُ الذُّنُوبَ سِوَاكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ حَقٌّ كَمَا يَسْتَحِقُّهُ

اور نہیں بخشتا گناہوں کو سوائے اس کے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور حمد اسی کا حق ہے جیسے کہ اس کے لائق ہے

حَمْدًا كَثِيرًا وَأَعُوذُ بِهِ مِنْ شَرِّ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا

بہت زیادہ حمد۔ اور میں پناہ مانگتا ہوں اس کی اپنے شر نفس سے۔ بیشک نفس بہت حکم دینے والا ہے برائی کا مگر

مَا رَحِمَ رَبِّي وَأَعُوذُ بِهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ الَّذِي يَزِيدُنِي ذَنْبًا إِلَى

یہ کہ رحم کرے میرا رب اور میں پناہ طلب کرتا ہوں اس کی شر شیطان سے جو اضااف کرتا ہے میرے گناہوں میں

ذَنْبِي وَأَحْتَرِزُ مِنْهُ وَمِنْ كُلِّ جَبَّارٍ فَاجِرٍ وَسُلْطَانٍ جَائِرٍ وَعَدُوِّ

اور میں حفاظت حاصل کرتا ہوں اس سے اور ہر سرکش فاجر اور جور پیشہ بادشاہ سے اور غالب دشمن سے

قَاهِرِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ جُنْدِكَ فَإِنَّ جُنْدَكَ هُمُ الْغَالِبُونَ وَ

اے اللہ مجھے اپنے خاص لشکر سے بنا دے کیونکہ تیرا لشکر ہی غالب ہے اور





وَأَجْعَلْنِي مِنْ حَزْبِكَ فَإِنَّ حَزْبَكَ هُمُ الْمَفْدُحُونَ وَأَجْعَلْنِي مِنْ

مجھے اپنی جماعت میں سے بنا دے کیونکہ تیری جماعت ہی فلاح پانے والی ہے اور مجھے اپنے دوستوں

أَوْلِيَاءِكَ فَإِنَّ أَوْلِيَاءَكَ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُمَّ

میں سے بنا دے کیونکہ تیرے دوستوں پر نہ خوف ہے اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ اے اللہ

اصْلِحْ لِي فِي دِينِي فَإِنَّهُ عِصْمَةٌ لِأَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي فِي آخِرَتِي فَإِنَّهَا دَارُ

درست فرما میرے دین کو کیونکہ وہ بچاؤ کا موجب ہے میرے امور کے لیے اور درستگی فرما میری آخرت کی کیونکہ وہی میرا دار قرار ہے

مَقَرِّي وَإِلَيْهَا مِنْ مُجَاوِرَةِ اللَّعَامِ مَقَرِّي وَأَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي

اور اسی کی طرف میرا سفر ہے کمینہ لوگوں کے پڑوس سے اور بنا دے زندگی کو میرے لیے موجب اضافہ کا

كُلِّ خَيْرٍ وَالْوَفَاةَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

ہر خیر میں اور موت کو سبب میری راحت کا ہر شر سے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر

مُحَمَّدٍ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ وَتَمَامِ عُدَّةِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ

جو سب انبیاء کے خاتم ہیں اور مرسلین کی گنتی کو مکمل کرنے والے اور ان کی طیب و طاہر آل پر

الطَّاهِرِينَ وَأَصْحَابِهِ الْمُنْتَجِبِينَ وَهَبْ لِي فِي الثَّلَاثَةِ ثَلَاثًا لَا

اور منتخب و پسندیدہ اصحاب پر اور عطا فرما مجھے ہر (منگل) میں تین اشیاء

تَدْعُ لِي ذَنْبًا إِلَّا غُفِرَتْ لَهُ وَلَا غَمًّا إِلَّا أَذْهَبَتْهُ وَلَا عَدُوًّا إِلَّا

نہ چھوڑ میرے لیے کوئی گناہ بغیر بخشش کے اور نہ کوئی غم مگر اسے دور کر دے اور نہ کوئی دشمن مگر

دَفَعْتَهُ بِسْمِ اللَّهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْأَرْضِ وَ

اسے دفع کر دے بطفیل بسم اللہ کے جو تمام اسماء سے بہتر ہے۔ ساتھ نام اللہ کے جو رب ہے ارض و

السَّمَاءِ اسْتَدْفِعْ كُلَّ مَكْرُوهٍ أَوْ لَهْ سَخَطَةٍ وَاسْتَجِبْ كُلَّ حَبُوبِ

سماؤ کا۔ طلب کرتا ہوں دفاع ہر ناپسندیدہ امر کا جن میں سے اولین اس کی ناراضگی ہے اور طلب کرتا ہوں ہر محبوب

أَوْلَاهُ رِضَاةً فَأَخْتِمْ لِي مِنْكَ بِالْغُفْرَانِ يَا وَلِيَّ الْإِحْسَانِ بِاسْمِ

ان کے حصول کو جن میں سے اولین امر اس کی رضا ہے پس خاتمہ فرما میرے لیے اپنی مغفرت کے ساتھ اے مالک احسان کے۔ ساتھ نام





اللَّهِ كَلِمَةَ الْمُعْتَصِمِينَ وَمَقَالَۃَ الْمُتَحَرِّزِينَ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى

اللہ کے جو کلمہ ہے عصمت حاصل کرنے والوں کا اور قول ہے حرز و پناہ حاصل کرنے والوں کا اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں

مَنْ جَوَّرَ الْجَائِرِينَ وَكَيْدَ الْحَاسِدِينَ وَبَغْيَ الظَّالِمِينَ وَأَحْمَدُهُ

ظالموں کے جوڑے اور حاسدوں کے مکر سے اور ظالموں کے ظلم سے اور میں حمد کرتا ہوں

فَوْقَ حَمْدِ الْحَامِدِينَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْوَاحِدُ بِلَا شَرِيْكَ وَالْمَلِكُ

اس کی سب حمد کرنے والوں سے زائد۔ اے اللہ تو واحد ہے بغیر شریک کے اور بادشاہ ہے

بِلَا تَمْلِيْكَ لَا تَصَادُ فِيْ حُكْمِكَ وَلَا تُنَازَعُ فِيْ مُلْكِكَ

بغیر کسی کے بادشاہ بنائے تیرے حکم میں رکاوٹ نہیں ڈالی جاسکتی اور تیرے ملک میں نزاع نہیں کیا جاسکتا

اَسْأَلُكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَاَنْ تُوَرِّعَنِيْ

میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ صلوٰۃ نازل فرمائے اپنے عبد خاص اور رسول برحق محمد پر اور توفیق دے مجھے

مِنْ شُكْرِ نِعْمَاتِكَ مَا تَبْلُغُنِيْ غَايَةَ رِضَاكَ وَاَنْ تُعِيْنَنِيْ عَلٰى

اپنی نعمتوں کے شکر کی جو کہ مجھے پہنچائے تیری رضا کی انتہا تک اور میری اطاعت فرمائے اپنی

طَاعَتِكَ وَلِزُورِ عِبَادَتِكَ وَاَسْتَحِقُّ اَنْ تُثَوِّبَنِيْ بِطُغْيِ عِنَايَتِكَ

اطاعت پر اور عبادت کے التزام پر اور اپنے ثواب کے استحقاق پر اپنے لطف و عنایت سے

وَتُرْحَمَنِيْ بِصِدِّيْ عَنِ مَعَاصِيْكَ مَا أَحْيَيْتَنِيْ وَتُوفِّقَنِيْ لِمَا

اور مجھ پر رحم فرمائے مجھے روک کر اپنے گناہوں سے جب تک کہ مجھے زندہ رکھے اور مجھے توفیق دے نفع دینے والے

يَنْفَعُنِيْ مَا أَبْقَيْتَنِيْ وَاَنْ تُشْرَحَ بِكِتَابِكَ صَدْرِيْ وَتَحُطَّ بِتِلَاوَتِهِ

امور کی جب تک مجھے باقی رکھے اور کشادہ فرمائے میرے سینے کو اپنی کتاب کے ساتھ اور گرائے اس کی تلاوت کیساتھ

وَنُرْرِئِيْ وَتَمْنَحَنِي السَّلَامَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَنَفْسِيْ وَلَا تُوحِشْ بَنِيَّ

میرا بارگناہ اور عطا کرے میرے دین اور نفس میں سلامتی۔ اور نہ وحشت میں ڈالے میری وجہ سے میرے

أَهْلَ اُنْسِيْ وَتُتِمَّ اِحْسَانُكَ فِيْمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِيْ كَمَا أَحْسَدْتَ فِيْمَا

ساتھ انس رکھنے والوں کو اور اپنا احسان کامل فرمائے میری بقیہ عمر میں جیسے کہ احسان فرمایا





مَضَى مِنْهُ يَا أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهُمَّ اقْذِفْ فِي قَلْبِي رَجَائِكَ

گزی عمر میں لے حسین ترین خالق و موجد - لے اللہ ڈال میرے دل میں اپنی امید و رجاء

وَاقْطَعْ مَا جَاءَنِي عَمَّنْ سِوَاكَ حَتَّى لَا أَرْجُو أَحَدًا غَيْرَكَ اللَّهُمَّ

اور قطع فرما میری امید کو اپنے ماسوا سے حتی کہ نہ امید رکھوں میں تیرے علاوہ کسی سے - لے اللہ

مَا ضَعُفَتْ عَنْهُ قُوَّتِي وَقَصُرَ عَنْهُ عَمَلِي وَلَمْ يَنْتَه إِلَيْهِ

جس سے ضعیف و ناتواں ہے قوت میری اور قاصر ہے اس سے عمل میرا اور نہیں پہنچی اس تک

رَغْبَتِي وَلَمْ تَبْلُغْهُ مَسْئَلَتِي وَلَمْ يَجْرْ عَلَي لِسَانِي مِمَّا أُعْطِيتْ

رغبت میری اور نہ پہنچا اس تک سوال میرا اور نہیں جاری ہوا میری زبان پر یعنی اس یقین سے جو عطا کیا تو نے

أَحَدًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ مِنَ الْبَاقِينَ فَأَتِنِي وَخَصَّنِي بِهِ

کسی بھی شخص کو اولین و آخرین میں سے پس مجھے عطا کر اور مخصوص ٹھہرا مجھے ساتھ اس کے

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَجِيبُ وَأَنَا الدَّاعِي

ساتھ اپنی رحمت کے لے ارحم الراحمین - لے اللہ تو قبول کرنے والا ہے اور میں دعا کرتا ہوں

فَمَنْ يَدْعُ الدَّاعِي إِلَّا الْمَجِيبُ يَا رَبِّ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْعَزِيزُ وَأَنَا

تو کس کو پکارے دعا کرنے والا سوائے قبول کرنے والے کے لے رب میرے - لے اللہ تو ہی عزت والا ہے اور میں

الدَّلِيلُ فَمَنْ يَدْعُ الدَّلِيلُ إِلَّا الْعَزِيزُ يَا رَبِّ اللَّهُمَّ أَنْتَ

ذلیل ہوں تو کس کو پکارے ذلیل سوائے عزیز کے لے میرے رب - لے اللہ تو ہی

الْمُعْطِيُّ وَأَنَا السَّائِلُ فَمَنْ يَدْعُ السَّائِلُ إِلَّا الْمُعْطِيُّ يَا رَبِّ

عطا کرنے والا ہے اور میں سوال ہوں تو کس کو پکارے سوالی سوائے عطا کرنے والے کے لے میرے رب

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْوَهَّابُ وَأَنَا الْبَائِسُ فَمَنْ يَدْعُ الْبَائِسُ إِلَّا الْوَهَّابُ

لے اللہ تو ہیہ کرنے والا ہے اور میں شقت میں مبتلا ہوں تو کس کو پکارے مبتلائے شدت سوائے بخشنے والے کے

يَا رَبِّ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْبِقَرِّجِ وَأَنَا الْمَغْمُومُ فَمَنْ يَدْعُ الْمَغْمُومُ

لے میرے رب - لے اللہ تو ہی کٹائش فرمانے والا ہے اور میں مغموم ہوں تو کس کو پکارے غمزدہ سوائے





إِلَّا الْمَفْرَجَ يَا رَبِّ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمُنْجِيُّ وَأَنَا الْغَرِيقُ فَمَنْ يَدْعُ

عزمِ والم دور کرنے والے کے لیے میرے رب۔ لے اللہ تو نجات دہندہ ہے اور میں غرق ہونے والا ہوں تو کسے پکارے غریق

الْغَرِيقُ إِلَّا الْمُنْجِيُّ يَا رَبِّ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْغَفَّارُ وَأَنَا الْمَتَضَرِّعُ فَمَنْ يَدْعُ

سوائے نجات دہندہ کے لے میرے رب۔ لے اللہ تو مغفرت فرماتے والا ہے اور میں زاری کر رہا ہوں تو کس کو پکاسے

الْمَتَضَرِّعُ إِلَّا الْغَفَّارُ يَا رَبِّ اللَّهُمَّ أَنْتَ الشَّافِيُّ وَأَنَا الْمَرِيضُ فَمَنْ

زاری کرنے والا سوائے عفار کے لے میرے رب۔ لے اللہ تو شفا دیتے والا ہے اور میں مریض ہوں تو کس کو

يَدْعُ الْمَرِيضُ إِلَّا الشَّافِيُّ يَا رَبِّ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْبَاسِطُ وَأَنَا

پکارے مریض سوائے شافی کے لے میرے رب۔ لے اللہ تو کشادگی فرماتے والا ہے رزق کی اور میں

الْمَبْسُوطُ فَمَنْ يَدْعُ الْمَبْسُوطُ إِلَّا الْبَاسِطُ يَا رَبِّ اللَّهُمَّ

وسعت رزق دیا ہوا ہوں تو کس کو پکارے وسعت دیا ہوا سوائے وسعت بخشنے والے کے لے میرے رب۔ لے اللہ

اقْبَلْ مَعْذِرَتِي وَتُوبَتِي وَأَوْصِدْنِي إِلَى مَقْصُودِي بِحُرْمَةِ

قبول فرما میری معذرت اور توبہ اور مجھے واصل فرما میرے مقصود تک بطویل حرمت و عزت

حَبِيبِكَ سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ أَنْ تُرِيَنِي فِي مَنَامِي لِقَاءَ

اپنے حبیب سید اولین و آخرین کے کہ دکھلائے مجھے خواب میں دیدار اپنے

حَبِيبِكَ وَنَبِيِّكَ وَمَا رَجَوْتُ مِنْكَ وَأَكْرَمَنِي بِمَغْفِرَتِكَ خَطِيئَتِي

حبیب اور نبی کا اور جس کی میں نے تجھ سے اتمید رکھی ہے اور مجھے عزت و اکرام بخش میرے گناہوں کی مغفرت سے

إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ الْفَنِي بِحِلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ

ذریعے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ لے اللہ مجھے کفایت فرما اپنے حلال کے ذریعے اپنے حرام سے

وَبِطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

اور اپنی طاعت کے ذریعے اپنی معصیت سے اور بے نیاز فرما مجھے اپنے فضل کے ساتھ اپنے ماسوا سے

إِلَهِي خَلَقْتَنِي وَلَمْ أَكُ شَيْئًا ظَلَمْتُ نَفْسِي وَارْتَكَبْتُ الْمَعَاصِيَ

لے میرے خدا ترنے مجھے پیدا کیا اور میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور گناہ کئے





وَأَنَا مَقْرَبٌ بِذُنُوبِي يَا رَبِّ اغْفِرْ لِي إِنْ غَفَرْتَنِي يَا رَبِّ فَلَا يَنْقُصُ

اور میں اپنے گناہ کا اقربا ہوں۔ اے میرے رب میرے لیے مغفرت فرما۔ اے میرے رب اگر تو مجھے بخش دے تو نہیں کم ہوگی

مِنْ مُلْكِكَ شَيْءٌ وَإِنْ عَذَّبْتَنِي يَا رَبِّ فَلَا يَزِيدُنِي سُلْطَانِكَ

تیرے ملک سے کوئی شے اور اگر مجھے عذاب دے اے میرے رب تو نہیں ترقی ہوگی تیری سلطنت میں

شَيْءٌ يَا رَبِّ تَجِدُ مَنْ تَعَذَّبَهُ غَيْرِي وَأَنَا لَا أَحَدٌ مَنْ يَغْفِرْ لِي

ذوہ بھر۔ اے میرے رب تو پاتا ہے جس کو عذاب دے سوائے میرے اور میں نہیں پاتا جو بخشے میرے

ذُنُوبِي غَيْرِكَ يَا غَفُورٌ يَا رَحِيمٌ يَا حَنَّانٌ يَا مَنَّانٌ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

گناہ سوائے تیرے۔ اے غفور۔ اے رحیم۔ اے مہربان۔ اے محسن۔ اے صاحب جلال و اکرام

أَشْهَدُ أَنَّ كُلَّ مَعْبُودٍ تَحْتَ عَرْشِكَ إِلَى مُنْتَهَى قَرَارِ الْأَرْضِينَ

میں گواہی دیتا ہوں کہ تمام معبود جو تیرے عرش کے نیچے تمام زمینوں کے منتہائے قرار و سکون تک ہیں

بَاطِلٌ مَا خَلَا وَجْهَكَ الْكَرِيمِ أَمَنْتُ بِأَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَضِيتُ

وہ سبھی باطل ہیں ماسوائے تیری ذات کریمہ کے۔ میرا ایمان ہے کہ نہیں معبود برحق مگر تو۔ میں راضی ہوں اس عقیدہ پر

رَبَّنَا يَا عِيَاثَ الْمُسْتَفِيتِينَ اغْتَنِي مِنَ النَّارِ وَنَجِّنِي مِنْ سَخَطِكَ

اے رب ہمارے۔ اے فریاد رس فریادہوں کے میری آتش جہنم سے مدد فرما اور مجھے اپنی ناراضگی سے نجات دے

وَاجْرِنِي مِنْ عَذَابِكَ وَفَرِّجْ عَنِّي شَرَّ كُلِّ خَلْقِكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

اور اپنے عذاب سے پناہ دے اور دور فرما مجھ سے اپنی تمام مخلوق کا شر اے مالک جلال و اکرام کے

اللَّهُمَّ اجْعَلِ التَّوْفِيقَ رَفِيقَنَا وَالصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ طَرِيقَنَا اللَّهُمَّ

اے اللہ بنا دے توفیق کو ہمارا رفیق اور صراط مستقیم کو ہمارا راستہ و طریقہ۔ اے اللہ

أَوْصَلْنَا إِلَى مَقَاصِدِنَا وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ

ہمیں ہمارے مقاصد تک پہنچا اور ہم پر نظر رحمت فرما یے تک تو بہت ہی نظر رحمت فرمانے والا مہربان ہے۔ اے اللہ

ارزُقْنَا لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشُّوقِ إِلَى لِقَائِكَ اللَّهُمَّ بِكَ

ہمیں نصیب فرما اپنی ذات کے دیدار کی لذت اور اپنی ملاقات کا شوق۔ اے اللہ تیری امانت سے



أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَى وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اللَّهُمَّ

ہم نے صبح کی اور تیری امانت سے ہی شام کی اور تیری توفیق سے زندہ ہیں اور تیرے ہی مارتے ہی مرتے ہیں اور تیری طرف ہی منتقل ہونا

رَبِّیْ أَصْبَحْتُ لَكَ لَا أَسْتَطِيعُ دَفْعَ مَا أَكْرَهُ وَلَا أَمْلِكُ نَفْعَ مَا أَرْجُو مِنْ

ہے۔ اے اللہ میں نے تیرے لیے صبح کی ہے میں طاقت نہیں رکھتا ناپسندیدہ امور کے دور کرنے کی اور نہیں مالک اس نفع کا جس کی امید

رَحْمَتِكَ أَصْبَحْتُ مَرْتَهَنًا بِعَمَلِي وَأَصْبَحَ أَمْرِي بِيَدِ غَيْرِي فَلَا فُقِيرٌ

کرتا ہوں تیری رحمت سے، میں اپنے اعمال کے عوض گروی ہو چکا ہوں اور میرا معاملہ میرے ماسوا کے ہاتھ میں جا چکا ہے پس کوئی محتاج بھی

أَفْقَرُ مِنِّي لَا تَشْبَهْتُ بِي عَدُوِّي وَلَا تَسُوِّ بِي صَدِيقِي وَلَا تَجْعَلْ

مجھ سے زیادہ محتاج نہیں۔ میرے ذریعے میرے دشمن کو خوش نہ فرما اور میری وجہ سے میرے دوست کو مشقت میں نہ ڈال اور نہ بنا

مُصِيبَتِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ

میری مصیبت میرے دین اور دنیا میں اور نہ آخرت میں اور نہ بنا حصول دنیا کو میرا بڑا

هَيْبَتِي وَلَا مَبْلَغَ عَلَيَّ وَلَا تَسَلِّطْ عَلَيَّ مِنْ لَا يَرْحَمُنِي فِي الدُّنْيَا وَ

مقصد اور نہ میرا منتہائے علم اور نہ مسلط فرما مجھ پر جو نہ رم کرے مجھ پر دنیا میں اور

الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي تُزِيلُ بِهَا النِّعَمَ

نہ آخرت میں۔ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے گناہوں سے کہ تو زائل فرما دے ان کے سبب

وَمِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي تُوجِبُ بِهَا النِّقْمَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

اپنی نعمتوں کو اور ایسے گناہوں سے کہ واجب کر دے ان کی وجہ سے انتقام کو اے ارحم الراحمین

اللَّهُمَّ أَمْرَنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْتُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَارْتَنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَ

اے اللہ ہمیں دکھلا دے حق کو حق اور ہمیں اس کی اتباع نصیب فرما۔ اور باطل کو باطل دکھلا اور

ارْتُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللَّهُمَّ يَا حَبِيبَ التَّوَابِينَ تَبَّ عَلَيْنَا وَيَا

اس سے دوری نصیب فرما۔ اے اللہ اے حبیب توبہ کرنے والوں کے ہم پر نظر کرم فرما اور اے

أَمَانَ الْخَائِفِينَ أَمَّا وَيَا دَلِيلَ الْمُتَحَيِّرِينَ دَلَّنَا وَيَا هَادِيَ الْبُضْلِيِّينَ

امان خوفزدگان کی ہیں امن عطا فرما۔ اے رہنما حیرت زدگان کے ہماری رہنمائی فرما۔ اے گمراہوں کے ہادی





إِهْدِنَا وَيَا غِيَاثَ الْمُسْتَفِيثِينَ اَعْتِنَا وَيَا رَجَاءَ الْمُنْقَطِعِينَ

ہمیں ہدایت عطا فرما۔ لے فریادیوں کے فریادس ہماری امداد فرما۔ لے امیدگاہ کٹی امیدوں والوں کی

لَا تَقْطَعْ رَجَائَنَا وَيَا رَحْمَانَ الرَّحِيمِينَ اِغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَيَا غَافِرَ الْمُنْذِرِينَ

ہماری امیدوں کو قطع نہ فرماتا۔ لے گناہگاروں پر رحم کرنے والے ہم پر رحم فرما۔ لے گناہگاروں کو بخشنے والے

اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكُفْرَ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ اَللّٰهُمَّ

بخش دے ہمارے گناہ اور دور فرما ہم سے ہماری برائیاں اور ہمیں وفات دے نیک لوگوں کے ساتھ۔ لے اللہ

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ

میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کلمات کاملہ کے طفیل اس کے غضب سے اور اس کے بندوں کے شر سے اور

هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا

شیاطین کے وساوس سے اور ان کے حاضر ہونے سے پاس میرے۔ لے اللہ ہمیں بخش اور ہمارے والدین کو

وَلِمَشَائِخِنَا وَلَا سَادَتِنَا وَلَا اَصْحَابِنَا وَلَا حُبَابِنَا وَلِعَشَائِرِنَا وَ

اور مشائخ کو اور اساتذہ اور ہمارے اصحاب و احباب کو اور ہمارے اقرباء اور

لِقَبَائِلِنَا وَلِمَنْ لَّهٗ حَقٌّ عَلَيْنَا وَلِجَمِيْعِ اُمَّةٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

اہل قبیلہ کو اور ہر اس شخص کو جس کا ہم پر کسی طرح کا حق ہے اور تمام امت محمد علیہ الصلوٰۃ و السلام کو

وَقِنَارِبْنَا شَرِّ مَا قَضَيْتَ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَالْقَبْرِ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاَحْسِرْنَا

اور بچا ہمیں لے ہمارے رب اپنی قضاء کے شر سے اور بچا ہمیں عذاب دوزخ سے اور عذاب قبر سے اور عذاب قیامت سے اور ہمیں

مَعَ الْمُتَّقِيْنَ وَالْاَبْرَارِ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ هَلْ

اٹھانا متقیوں اور نیکو کاروں کے ساتھ۔ لے لوگو یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اپنے اوپر۔ کیا ہے

مِنْ خَالِقِ غَيْرِ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

کوئی خالق اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو تمہیں رزق دے آسمان اور زمین سے نہیں معبود برحق مگر وہی

فَاَلَمْ يَتَوَفَّكُنَّ هٗ اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ

پس تم کو کھڑے رکھو۔ لے اللہ میری امداد فرما اپنے ذکر۔ شکر اور اچھی عبادت



عِبَادَتِكَ وَأَحْسِن رُبُوبِيَّتِكَ وَكَمَالَ مَعْرِفَتِكَ بِعُرْفَانِ

عبادت پر اور اپنی نحوہترین ربوبیت و پرورش پر اور کمال معرفت پر ساتھ اپنے عرفان

وَصَلِّكَ اللَّهُمَّ اعْطِنَا وَسَخِّرْ لَنَا الْقُوَى الْعَالِيَةَ الْمَلَكِيَّةَ وَ

وصل کے۔ اے اللہ ہمیں عطا فرما اور ہمارے لیے مسخر فرما تو اے عالیہ ملکیت اور

الرُّوحِيَّةَ لِأَنَّ اسْتَعْدَابَنَا نَوَارَهَا لِأَنْ نَوَارَ تَجَلِيَّاتِ الْحُجُبِ التُّورِيَّةِ

روحانیہ کو تاکہ میں استعداد حاصل کروں ان کے انوار کے ذریعے حجابات فرانیہ کے انوار تجلیات کی

حَتَّى أَقْدَرَ عَلَى حَلِّ الْمَشْكِلِ مِنْ عِنْدِكَ الْمُضِلِّ لِأَعْدَائِكَ وَأَعْدَاءِ

سختی کہ میں قادر ہو جاؤں حل مشکلات پر تیری طرف سے جو گمراہ کرنے والی ہیں تیرے اعداء کو اور تیرے

رُسُلِكَ وَالْمُحِيْبِي وَالْهَادِي لِأَوْلِيَائِكَ اللَّهُمَّ اقْطَعْ عَنِّي الْجِهَاتِ

رسولوں کے اعداء کو اور زندگی بچھنے والی اور ہدایت دینے والی ہیں تیرے دوستوں کے لیے۔ اے اللہ قطع کر مجھ سے وہ جہات

الْمَوْقِعَةِ لِحَوَاسِنَا فِي أَقْطَارِ حُدُودٍ غَيْرِ خَارِجَةٍ مَحْبُوسَةٍ فِي قِيُودِ

جو واقعہ کرنے والی ہیں ہمارے حواس کو ان حدود کے اطراف میں جو خارج ہونے والی نہیں، مقید ہیں بشریت مادیہ ارضیہ

الْبَشَرِيَّةِ الصَّلْصَالِيَّةِ الْجَامِدَةِ الْمَكِيْفَةِ الْعُنْصُرِيَّةِ اللَّهُمَّ كَمَا رَبَطْتَ

کی قیود میں جو کہ جامد عنصری کیفیت والی ہے۔ اے اللہ جیسے تو نے مربوط

الرُّوحَ الَّذِي هُوَ أَنَا مَبْدِي فِي هَذَا وَالْآتِي فَكَذَلِكَ أَرْبِطُ قَلْبِي بِأَنْوَارِ

فرمایا روح کو جو کہ میری حقیقت ہے میرے اس بدن اور میرے آلات و حواس کیساتھ پس ایسے ہی مرتبط فرما میرے دل کو ساتھ

الْقَيْضِ الَّتِي هِيَ طَالِعَةٌ عَلَى ذَرَاتٍ وَجُودِيَّةٍ أَوْ كَيْفِيَّةٍ أَوْ لَطِيفَةٍ

انوار فیض کے جو طلوع کرنے والے ہیں ذرات وجودیہ یا کیفیہ یا ذرات لطیفہ پر

يَا جِبَالَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا دَهْرًا يَا دِيهَارًا يَا كَانًا يَا كَيْفَانًا يَا أَزْلًا

اے جمال آسمانوں اور زمینوں کے اے رفاقی ادھر۔ اے مدبر ادھر۔ اے موجود اے سرمایہ وجود اے اے بے ابتداء

يَا أَبَدًا أَنْتَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ أَنْتَ الَّذِي وَسَعَتْ كُلَّ

اے بے انتہا، تو ہی اول ہے اور آخر بھی۔ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔ تو ہی ہے جو محیط ہے ہر





ثَنَى رَحْمَةً وَعِلْمًا أَنْتَ مُخْتَرِعُ الْأَصُولِ وَمُكَوِّنُ الْفُرُوعِ وَمَوْجِدُ

شئی کو از روئے رحمت و علم کے۔ تو ایجاد کرنے والا ہے اصول کا۔ اور موجود کر نیوالا ہے فروع کو اور موجد ہے

الْأَشْخَاصِ مِنْ كُهُوفِ الْمَظَاهِرِ أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ

اشخاص کا مظاہر کی غاروں سے۔ تو کیتا و بے نیاز ہے جس نے نہ کسی کو جنم اور نہ

يُولَدُ لِإِلَهِ إِلَّا اللَّهُ الْحَنَّانُ الْمَتَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا إِلَهَ

جنا گیا نہیں معبود برحق مگر اللہ مہربان محسن از سر نو پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمینوں کا۔ اے معبود

الْقَدْرِ الْكَلِّيَّاتِ وَالْجُزْئِيَّاتِ وَيَا إِلَهَ جَمِيعِ الصُّورِ الْعَامِّيَّةِ فِي دَرَجَةِ

مقدورات کلیہ و جزئیہ کے۔ اے معبود۔ اے معبود تمام صور عامیہ کے جو ثابت ہیں

الْكُلِّ وَالْجَمِيعِ وَالْعَلِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُنْتَقِشَةِ فِي نُورِ الْجَمَالِ الْكَائِنَةِ

جمع مخلوق اور کل کائنات کے درجہ میں اور معبود تمام صور علیہ عملیہ کے جو نقش ہیں تیرے نور جمال میں موجود ہیں

عَلَى تَفَاصِيلِهَا فِي اقْتِضَاءِ النُّعُوتِ وَصِفَاتِكَ الْإِضَافِيَّةِ عَلَى نَهْجِ

اپنی تفصیل سمیت تیری نعوت و صفات اضافیہ کے اقتضاء کی وجہ سے معلومات کے اندازہ

الْمَعْلُومَاتِ وَيَا إِلَهَ الْخَلَائِفِ الْأَبْعَدِ مِنْ غَيْرِ انْتِهَاءِ بَصَرِ الْوَهْمِ وَالْعَقْلِ

اسلوب پر اور اے معبود بعید ترین خلفاء کے جس کی انتہاء نہیں ہے وہم و عقل کی آنکھ میں

وَأَنْ تَوَاتُرِ فَعْلِهِ فِي الْأَبَدِ سُبْحَانَ مَنْ عَجَزَتْ الذَّوَاتُ الْمُقَدَّسَةُ

اگرچہ متواتر ہے فعل اس کا ابد میں، پاک ہے وہ ذات کہ عاجز ہیں ذوات مقدسہ

الظَّاهِرَةِ الْقَادِرَةِ عَلَى الْأَرْضِينَ السَّبْعِ مَعَهَا فِيهَا وَالسَّمَوَاتِ فِي

ظاہرہ جو قادر ہیں سات زمینوں کے عبور پر۔ سب ان کے موجودات کے اور تمام آسمانوں کے عبور پر۔ سب ان کے موجودات کے

تَعَقُّلِ الْإِلَهِيَّةِ الْإِضَافِيَّةِ فَمَا بَالُ الذَّاتِ الْمُطْلَقَةِ الْأَحَدِيَّةِ

اس کی الہیت اضافیہ کے ہم و ادراک سے پس کیا حال ہوگا۔ اس کی ذات مطلقہ احدیہ (کے ادراک کا)

الْمُتَتَبِعِ السَّيْرِ إِلَيْهَا اللَّهُمَّ أَنْ أَلْمُدَّ نَسْ الْمُنْغَمِسُ فِي الْحَوَائِجِ وَ

جس کی طرف سیر متتبہ ہے۔ اے اللہ میں آلودہ ہوں اور غرق ہوں حوائج و



الْحَوَادِثِ الرَّدِيَّةِ الدَّيْنِيَّةِ الْمُقَيَّدَةِ لَهُمْ وَمُنَابِتَدَا بِيَدِهَا أَنْتَ الْمُقَدَّسُ

حوادث ردیہ رذیلہ میں جو پابند کرنے والے ہیں ہمارے عزائم کو اپنی تدابیرات کے ساتھ تو یہی مقدس

الْمُطْلَقُ مِنْ صِفَاتِهَا أَنْتَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْوَاهِبُ الْبَاسِطُ غَافِرٌ

اور مطلق ہے ایسی صفات سے تو رحمن - رحیم - واہب - کثائق دینے والا - گناہ

الدَّنْبِ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ يَا قَاهِرُ

بخشنے والا سخت عقاب والا - مالک ہے جلال و اکرام کا نہیں معبود برحق سوا تیرے - اے قہر زمانے والے

عَلَى الْأَعْدَاءِ وَالْقَابِضُ لِبُسُوطِ الْمُتَمَرِّدِينَ وَالْكَاسِرُ لَهُمْ الْجَاهِلِينَ

اعداء پر - اور قبض کرنے والے سرکشوں کی فراموشیوں کے اور توڑنے والے جاہلوں کے عزائم کے

الْقَاصِدِينَ إِلَى سُوءِ الدَّاعِي بِهَذَا الْوَصْلِ وَالْإِلَى أَحَبَّ آئِهِ

جو قصد کرنے والے ہیں برائی کا اس وصل و ربط کی دعا کرنے والے اور اس کے احباب

الْمُخْلِصِينَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا

مخلصین کے ساتھ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، جن پر نہ غضب کیا گیا اور نہ وہ

الصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ أَخْرِجْنِي عَنْ شُكُوكِ الْأَوْهَامِ وَالضَّلَالَاتِ

مگراہ ہونے والے ہیں - اے اللہ مجھے نکال ادھام اور گمراہیوں کے شکوک سے

وَهَبْ لِي مِنْ عِنْدِكَ الْإِسْتِعْدَادَاتِ بِجَمِيعِ مَوَادِّ الْخَيْرِ عِنْدَكَ

اور عطا فرما مجھے اپنے پاس سے تمام مواد خیر کی استعدادیں جو تیرے پاس ہیں

اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ لِي قَصْدٌ إِلَى أَقْبَحِ مَحْبُوبٍ عِنْدَ أَصْحَابِ الْخَطَرِ

اے اللہ اگر میرا قصد ایسی مرغوب چیز کی طرف ہو جو قبیح تر ہے عظیم لوگوں کے نزدیک

فَصَرِّفْنِي عَنْهُ إِلَى مَا هُوَ خَيْرٌ عِنْدَكَ وَمَعْدَلٌ لِمَوَاهِبِكَ وَمَوْفِقٌ

تو مجھے پھیر اس سے طرف بہترین امر کے نزدیک اپنے جو مجھے تیرے عطاؤں کے لائق بنانے والا ہو اور توفیق دینے

عَلَى طَاعَتِكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ بِهَا أَهْلٌ وَأَنَا بِهَذِهِ غَيْرُ مُسْتَعِدِّ

والا ہو تیری طاعت کا - اے اللہ تو ان (کرم نوازیوں) کے لائق ہے اور میں ان کی استعداد سے محروم ہوں





وَأَنْتَ الْمُعْطَى بِالْفَضْلِ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ مَبْنَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

اور تو ہی عطا کرنے والا ہے فضل و احسان کا بغیر میرے استحقاق کے۔ اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ أَطْرَقَ جُلْسَانُهُ كَأَنَّمَا عَلَى

سیدنا محمد پر جو کہ کلام فرماتے تو ان کے ہنشین اس طرح سر جھکا لیتے گویا کہ

رَعَوْ سِرْمَ الطَّيْرِ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَارْحَمْ لِي وَالِدَيَّ وَأَقْرَبَائِي وَ

ان کے سروں پر پندے ہیں۔ اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور میرے والدین و اقرباء پر اور

أَزْوَاجِي وَارْحَمْ أُمَّتَهُ كَمَا بَعَثْتَهُ إِلَيْنَا اللَّهُمَّ ارْحَمْ لِلْأُمَّمِ

میری بیویوں پر اور رحم فرما محبوب کی امت پر جیسے کہ (از روئے رحمت) بھیجا انہیں ہماری طرف اے اللہ پہلی امتوں پر رحم فرما

السَّالِفَةِ الْمَدْعُورَةِ الْمُؤْمِنَةِ بِرُسُوكِ الدَّاعِيَةِ إِلَيْكَ يَا حَيُّ

جنہیں دعوت (ایمان ادی گئی۔ جو ایمان لائے تیرے دعوت دینے والے رسولوں کے ساتھ یا حج

يَا قَيُّوْمُ يَا وَاحِدٌ يَا أَحَدٌ يَا صَدُّ بِحَقِّ يَا حَيُّ حِينَ لَا حَيٌّ فِي دِيْوَانِهِ

یا قیوم۔ یا واحد۔ یا احد۔ اے بے نیاز بظیفیل حق و حرمت (ان کلمات کے) اے زندہ جبکہ نہیں تھا کوئی زندہ اس کے دوام

مُلْكِهِ وَبِقَائِهِ وَيَحَقُّ مَائَةٌ غَيْرٌ وَاحِدٌ مِنْ صِفَاتِكَ الْعَالِيَةِ وَ

ملک اور بقا میں۔ اور بطیفیل اپنی تانے صفات عالیہ اور

النُّعُوتِ الْمُقَدَّسَةِ سَخَّرْنَا الْأَرْوَاحَ الْقُدْسِيَّةَ السَّمَاوِيَّةَ وَ

مقدس نعمتوں کے مسخر فرما ہمارے لیے ارواح قدسیہ سماویہ کو اور

الْقُوَى الْعَالِيَةَ يَا إِلَهَ الْفَلَكَ الْأَطْلَسِ الْكَلْبِيِّ وَالْكَرْسِيِّ وَاللَّهِ مَا فِيهَا

قوائے عالیہ کو اے الہ فلک اطلس کلبی اور کرسی کے اور اللہ ان میں موجود

مِنَ الْأَفْلَاقِ وَالْأَرْضَيْنِ وَمَا فِيهَا سَخَّرْنِي كُلَّ كَوْنٍ فِي خَيْرٍ وَجُودٍ

افلاک و ارضین کے اور جو کچھ ان میں ہے مسخر فرما میرے لیے ہر موجود کو بہتر وجود میں

نَفَاعٍ أَوْ ضَرًّا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا كَلْبِي أَوْ جُزْئِي مُتَفَرِّقٍ أَوْ جَمْعٍ وَكَيْفَ

بہت نافع ہو یا بہت نقصان دہ رصغیر ہو یا کبیر۔ کلبی ہو یا جزئی، متفرق ہو یا مجتمع اور کیا حال ہوگا



إِذَا جُنَّا مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَبِحَقِّ جَمِيعِ السُّورِ الَّتِي أَنْزَلْتَهَا عَلَيَّ عَبْدِكَ

جب ہم لائیں گے ہر نظیر و مثال کو اور بطفیل ان تمام سورتوں کے جن کو تو نے نازل فرمایا اپنے عبد

الرُّحِيِّ الْقَائِمِ فِي كُلِّ أَمْرٍ بِكَ اللَّهُمَّ اكْشِفْ عَلَيَّ مَا طَوَيْتَ فِي الْحُرُوفِ

اتی پر جو قائم ہیں ہر امر میں ساتھ تیرے۔ اے اللہ منکشف فرما مجھ پر جو پوشیدہ کئے ہیں تو نے قرآن

فِي السُّورِ الْقُرْآنِيَّةِ مِنَ الْأَسْرَارِ الْعَجِيبَةِ الَّتِي عَجَزَتْ عُقُولُ الْعُقَلَاءِ

حروف اور سورتوں میں اسرار عجیبہ کہ عقلاء کے عقول عاجز ہیں ان

عَنْ فَهْمِهَا كَمَا قَالَ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ هُوَ وَ

کے فہم سے جیسے کہ فرمایا "اور نہیں کوئی تر اور نہ خشک شئی مگر کتاب میں ہے" اور

بِحَقِّ الْحَقَائِقِ الْمَغْيِبَةِ عَنَّا لِلْمُشَاهِدَةِ الْقَائِمَةِ بِكَ مِنْ غَيْرِ خُطُورٍ

بطفیل ان حقائق کے کہ غائب کر دئے گئے ہمارے مشاہدہ سے جو قائم ہیں تیرے ساتھ بغیر کسی غیر کے

غَيْرِ كَمَا نَبَّهْتَ عَلَيَّ هَذَا فِي الطَّبِيعَةِ الَّتِي خَلَقْتَهَا وَبِحَقِّ الْأَجْسَامِ

کھٹکے کے جیسے کہ متنبہ فرمایا تو نے اس امر پر اس طبیعت میں جسے تو نے پیدا فرمایا اور بطفیل ان اجسام

السُّفْلِيَّةِ الرَّسُولِيَّةِ الدَّاعِيَةِ إِلَى كُلِّ أَمْرٍ عِنْدَكَ مِنْ غَيْرِ

زیریں کے جو رسولوں کے ہیں جو بلائے والے ہیں طرف تیرے تمام احکام کے بغیر

إِشْرَاكَ لَكَ خَالِصَةً لِرُبُوبِيَّتِكَ وَقَابِلَةً لَتَكَالِيفِ أَمْرِكَ

شرک کئے خالص کرتے ہوئے تیری ربوبیت کو اور قبول کرتے ہوئے تیرے امر کی تکالیف کو

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ

"ہم نے پیش کی امانت تمام آسمانوں۔ زمین اور پہاڑوں پر پس انہوں نے انکار کیا اس کے

يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ فَسُبْحَانَ مَنْ خَافَ عَنْهُ

اٹھانے سے اور ڈر گئے سبھی اس سے اور اٹھا لیا اس کو انسان نے" پس پاک ہے وہ کہ ہو گئے

أَجْسَامٌ صُلْبِيَّةٌ شَاقَّةٌ قَوِيَّةٌ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فِي أَنْ يَتَّحَمَلُنْ

اس سے سخت ترین قوی اور مضبوط اجسام خوفزدہ ہو کر مانند دھنی ہوئی روئی کے تیرے امر و تکلیف کو برداشت کرنے





أَمْرِكَ وَتَكْلِيفِكَ وَنَحْنُ قَبْلُنَا لِنَتَعَزِّيمُ كَمَا جَرَى عِنْدَكَ مِنْ قَضَائِكَ

سے اور ہم نے قبول کر لیا تیری تعظیم کے لیے جیسے کہ نافذ ہوئی تیرے ہاں قضاء اور

وَحُكْمِكَ غَيْرُ مُقْتَضَى قَضَائِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَالِمٌ لِنَفْسِي وَأَنْتَ

حکم در آجما لیکہ وہ تیری قضاء کا مقتضی نہیں تھا اگر اس کی قبولیت مفرغ ہوتا اسے اللہ میں اپنے نفس پر ظلم کئے ہوئے ہوں اور تو

فَعَالٌ لِّمَا فِي حُكْمِكَ وَلَوْ حَكَ كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌّ وَقَدْ

کرنے والا ہے ہر امر کا جو تیرے حکم اور لوح محفوظ میں ہے۔ ہر صغیر و کبیر لکھا ہوا ہے اور تحقیق کرنے

قُلْتَ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي إِلَى عُرُوجِ الْبِقَامِ

فرمایا ہے "ہم نے ہر شئی کو اندازے کے ساتھ پیدا فرمایا ہے" اے اللہ میرے لیے آسان فرما مقام لاہوتی پر

اللَّاهُوتِيِّ حَتَّى يَصْدُقَ عَلَيَّ وَمَا مَنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ اللَّهُمَّ

عروج حقیقی کہ صادق آئے مجھ پر کہ "نہیں ہم سے کوئی مگر اس کے لیے متعین مقام ہے" اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ أَهْلِ وَفَائِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما محمد و آل محمد پر جو محبوب تیرے اہل و فقا کے سردار ہیں۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ كُلِّ مَنْ أُرْسِدَ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ

و سلام نازل فرما محمد و آل محمد پر جو محبوب کہ تیری راہ دکھلانے والوں کے سردار ہیں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الرَّزْمِ وَالصَّفَا وَالتَّقْوَى

صلوات و سلام نازل فرما محمد و آل محمد پر جو آقا سردار ہیں زرم۔ صفا اور اہل تقویٰ کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ كَافَّةِ الْإِنَامِ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد و آل محمد پر جو محبوب سردار ہیں تمام مخلوق کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ التُّوْبِ الْعِبَادِ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد و آل محمد پر جو محبوب سردار ہیں توراتی بندوں کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ كُلِّ وَالِدٍ وَمَوْلُودٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما محمد و آل محمد پر جو محبوب سردار ہیں ہر باپ اور بیٹے کے





اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى كُلِّ وَارِثٍ صَاحِبِ

لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کے ہر وارث پر کہ

السَّيِّدِ وَالسِّيَادَةِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْأَوْلِيَيْنِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِ

جو خود سردار ہے اور سیادت کا مالک ہے اور صلوات نازل فرما اولین کے سردار پر اور صلوات نازل فرما

الْآخِرِينَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْمُقْبُولِينَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِ

آخرین کے سردار پر اور صلوات بھیج مقبولین کے سردار پر اور صلوات بھیج محبوبین کے

الْمُحِبِّينَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْمَحْبُوبِينَ بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْأَوْلِيَيْنِ

سردار پر - اور صلوات بھیج محبوبین کے سردار پر - ساتھ نام اللہ کے جو رب ہے اولین و

وَالْآخِرِينَ خَالِقِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ بِأَعْتِ

آخرین کا - خالق ہے آسمان والوں اور زمین والوں کا بھیجنے والا ہے

الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِالْحَقِّ الْمَعْبُودِ فِي كُلِّ مَكَانٍ

انبیاء و مرسلین اور مومنین کو ساتھ حق کے - معبود ہے ہر مکان میں

الْمَوْجِدِ بِكُلِّ لِسَانٍ الْفَاضِلِ الْقَدِيمِ الْمُتَّقِنِ لِمَا صَنَعَ الْقَاهِرِ

توجید والا ہے ہر زبان کے ساتھ، صاحب فضل اور قدیم ہے، مضبوط بنانے والا ہے ہر مصنوع کو، غالب ہے

بِخَلْقِهِ أَجْمَعِينَ الْقُدُّوسِ الَّذِي ذَلَّتْ لَهُ الرِّقَابُ وَخَضَعَتْ

اپنی تمام مخلوق پر - مقدس ہے جس کے لیے تمام گردنیں تواضع کماں ہیں اور عاجزی ظاہر کرتی ہیں

لَهُ الشَّمُّ الشَّامِخَاتُ وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِذِي الْحَى الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ

اس کے لیے بند و بالا شخصیات اور جھکے ہیں سب چہرے جی قیوم کے لیے اور رسوا ہوا جس نے

حَمَلَ ظُلْمًا يَأْتِيهِمْ يَوْمَئِذٍ أَنْتَ تَرَانِي وَتَسْمَعُ كَلَامِي وَتَصْرَعِي

ظلم کیا ہے دائم - لے ہمیشہ ہمیشہ قائم، تو مجھے دیکھتا اور میرا کلام سنتا ہے اور میری نرازی کو

وَشَكْوَايَ أَنْتَ مَقْصِدِي وَسُؤْلِي وَرَجَائِي وَأَنَا الْمُحْتَاجُ إِلَيْكَ

اور اظہار رنج و الم کو - تو ہی میرا مقصود، میرا سوال اور میری رجاؤں و امید ہے اور میں محتاج ہوں تیری طرف



وَأَنْتَ عَالِمُ السِّرِّ وَالتَّجْوَى وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ

اور تو جاننے والا ہے رازوں اور سرگوشیوں کا اور نہیں مخفی تجھ پر کوئی شے زمین میں

وَلَا فِي السَّمَاءِ أَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ هَ اسْأَلُكَ عِلْمًا

اور نہ آسمان میں تو مالک ہے عرش عظیم کا - میں تجھ سے سوال کرتا ہوں علم

تَافِعًا وَدِينًا قَيِّمًا وَيَقِينًا صَادِقًا وَحِكْمَةً بَالِغَةً وَاسْأَلُكَ

نافع اور مضبوط دین کا یقین صادق اور حکمت کا علم کا - اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے

كَشْفَ حِجَابِ الْغَيْبِ بِمَا فِيهِ حَتَّى أُشَاهِدَ الرُّوحَ الْبَاقِيَ يَا

غیب کے پردے اٹھانے کا بیج اس میں موجود تمام اسرار کے حتیٰ کہ میں مشاہدہ کروں روح باقی کا لے

نُورَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اسْأَلُكَ

روشن کرنے والے آسمانوں اور زمینوں کے اور مالک عرش عظیم کے - میں تجھ سے سوال کرتا ہوں

أَنْ تُصَلِّيَ وَتُسَلِّمَ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَنْ تُكْشِفَ لِي عَنْ

کہ صلوٰۃ و سلام نازل فرمائے سینا محمد پر اور مجھ پر ظاہر کرے اپنے اسماء

أَسْرَارِ أَسْمَائِكَ وَأَنْ تُسَخِّرَ لِي جَمِيعَ خَلْقِكَ بِالطَّاعَةِ وَقَلْبِي

کے اسرار اور مسخر فرمائے میرے لیے اپنی تمام مخلوق اطاعت کے ساتھ اور میرے دل کو

لَكَ بِالْعِبَادَةِ وَأَنْ تُرْتِقِي أُنُوسًا هَدَايَتِكَ وَمَعْرِفَةَ أَسْرَارِكَ

اپنی عبادت کے ساتھ اور مجھے اپنی ہدایت اور معرفت اسرار کے انوار عطا کرے

حَتَّى أَكُونَ مُبْتَهَجًا بِبَاهِرِ مَا يَظْهَرُ مِنْ لُطْفِكَ يَا لَطِيفُ اللَّهُ لَطِيفٌ

حتیٰ کہ میں مسرور ہو جاؤں تیرے ظاہر و غالب لطف و کرم کے ساتھ اے صاحب لطف - اللہ مہربان ہے

بِعِبَادَتِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اپنے بندوں کے ساتھ - رزق دیتا ہے جسے چاہے اور وہ قوی عزیز ہے - اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما محمد

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ

اور آل محمد پر جیسے تو نے صلوٰۃ نازل فرمائی ابراہیم و آل ابراہیم پر اور برکت نازل فرما محمد و



عَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ

آل محمد پر جیسے تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر بیشک تو قابل ستائش بزرگی والا ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ وَ

اے اللہ رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر جیسے رحمت نازل فرمائی آل ابراہیم پر اور

بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ

برکت دے محمد اور آل محمد پر جیسے برکت دی آل ابراہیم کو تمام جہانوں میں،

إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُرْمِيِّ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ

بے شک تو حمید مجید ہے۔ اے اللہ صلوات نازل فرما محمد نبی ارحم الراحمین پر اور آل محمد پر

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ

جیسے صلوات نازل فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم پر۔ اے اللہ تیرے ہی لیے حمد ہے

إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا مَلِكَ الْمَلِكِ وَلَكَ الْحَمْدُ يَا إِلَهِي لَا أَحَدًا إِلَّا

اے میرے الٰہ نہیں معبود برحق مگر تو اے مالک ملک اور تیرے ہی لیے حمد ہے اے میرے الٰہ نہیں کوئی دوسرا

أَنْتَ لَا سُلْطَانَ إِلَّا أَنْتَ لَا وَاحِدًا إِلَّا أَنْتَ لَا خَالِقَ إِلَّا أَنْتَ لَا

سوا تیرے۔ نہیں کوئی بادشاہ مگر تو۔ نہیں کوئی کیتا مگر تو نہیں کوئی خالق مگر تو نہیں

بُرْهَانَ إِلَّا لَكَ لَا جَبَّارَ إِلَّا أَنْتَ لَا قَهَّارًا إِلَّا أَنْتَ لَا رَازِقَ إِلَّا

دلیل و ثبوت مگر تیرے لیے نہیں جبار مگر تو۔ نہیں قہار مگر تو، نہیں رزاق مگر

أَنْتَ لَا قَادِرًا إِلَّا أَنْتَ لَا سَمِيعَ وَلَا بَصِيرَ وَلَا كَافِيَ وَالْهَادِيَ إِلَّا

تو نہیں صاحب قدرت مگر تو۔ نہیں کوئی (حقیقی) سمیع و بصیر اور کافی و ہادی مگر

أَنْتَ وَلَكَ الْحَمْدُ إِلَهِي أَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وَأَنْتَ نُقْلُ الْقُلُوبِ

تو ہی اور تیرے ہی لیے حمد ہے اے میرے الٰہ تو بہتر ہے تمام کشف کرنے والوں سے اور تو دلوں میں انقلاب لانے والا ہے

وَاللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اللَّهُمَّ عَظْفُ عَلَىٰ قُلُوبِ عِبَادِكَ مِنْ

اور معبود ہے تمام آسمانوں اور زمینوں میں۔ اے اللہ مہربان فرما مجھ پر ایسے تمام بندوں کے دل



أَوْلَادِ آدَمَ وَبَنَاتِ حَوَاءَ مِنْ كُلِّ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَحِرٍّ وَعَبْدٍ وَصَغِيرٍ

اولاد آدم اور حوا کی بیٹیوں سے ہر مذکر اور مؤنث اور آزاد و غلام چھوٹے

وَكَبِيرٍ بِالْمَحَبَّةِ الدَّائِمَةِ وَالْمُودَّةِ وَالرَّافَةِ وَالرَّحْمَةِ وَاجْتِبَ

اور بڑے کا ساتھ دائمی محبت و مودت اور رافت و رحمت کے اور کھینچنے

قُلُوبَهُمْ مِنْ شَرِّ مَا يُضِرُّونَ وَيُرِيدُونَ لِيُؤَدِّعُوا عَنِّي مَكْرَهُمْ

ان کے دلوں سے اس شر کو جس کو چھپاتے ہیں اور ارادہ رکھتے ہیں اس کا میرے لیے اور دور فرما مجھ سے ان

وَإِذَا هُمْ وَشَرَّهُمُ اللَّهُمَّ بِحُرْمَةِ مَا تَلَوْتَهُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُرَبِّبَنِي

کے مکر۔ ایذا اور شر۔ اے اللہ بطفیل اس کے جس کی میں نے تلاوت کی ہے میں سوال کرتا ہوں کہ مجھے اپنے کم سے

حَرَمَكَ بِكَرَمِكَ وَبَلِّغْنِي نِيَاةَ قَبْرِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ

اپنا حرم دکھائے اور مجھے پہنچائے اپنے نبی محمد کی قبر انور کی زیارت تک صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ يَا مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ فِي

علیہ وسلم۔ اے پورا کرنے والے حاجات کے۔ اے قبول کرنے والے دعاؤں کے

الدَّارَيْنِ بَرُودِيَّتِهِ وَثَبَّتْ قُلُوبَنَا عَلَىٰ مَحَبَّتِهِ وَاسْتَعْمَلْنَا عَلَىٰ

دونوں جہانوں میں ان کے دیدار سے اور ثبات رکھے ہمارے دلوں کو ان کی محبت پر اور ہمیں عامل بنائے

سُنَّتِهِ وَتَوَقَّنَا عَلَىٰ مِلَّتِهِ وَاحْشَرْنَا فِي زُمْرَتِهِ النَّاجِيَةِ وَحِزْبِهِ

ان کی سنت پر اور ہمیں وفات دے ان کی ملت پر اور ہمارا حشر فرمائے ان کی جماعت میں جو نجات پانہ والی ہے اور گروہ

الْمُفْلِحِينَ وَانْفَعْنَا بِمَا أَنْطَوْتُ عَلَيْهِ قُلُوبَنَا مِنْ مَحَبَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ

میں جو نجات پانے والے ہیں اور ہمیں نفع دے ان کی محبت کے ساتھ جسے ہمارے دل محیط ہیں۔ صلی اللہ علیہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ لَا جَدَّ وَلَا مَالَ وَلَا بَنِينَ وَأَوْرِدْنَا حَوْضَهُ الْأَصْفَىٰ

وسلم جس دن نہ نسب کا رآمد ہوگا، نہ مال اور نہ بیٹے اور ہمیں وارد فرمائے ان کے صاف ترین حوض پر

وَأَسْقِنَا بِكَاسِهِ الْأَوْفَىٰ وَيَسِّرْ عَلَيْنَا زِيَارَةَ حَرَمِكَ وَحَرَمِهِ فِي الْمَنَامِ

اور ہمیں پلانا ان کے کافی پیالے کے ساتھ اور آسماں فرما ہم پر اپنے حرم کی اور ان کے حرم کی زیارت خواب





وَالْيَقُظَةُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُمَيِّتَنَا وَأَدِمُّرْ عَلَيْنَا الْإِقَامَةَ بِحَرَمِكَ

اور بیداری میں قبل اس کے کہ وفات دے اور دائمی بنا ہم پر اپنے حرم

وَحَرَمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنْ تُتَوَفَّى اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي

اور حرم حبیب کی اقامت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ ہم (وہیں) وفات پائیں۔ اے اللہ مجھے بنا

مِمَّنْ لَزِمَ مَلَّةَ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَظَمَ

اپنے نبی محمد کی ملت کو لازم پکڑنے والوں سے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی عزت و تعظیم

حُرْمَتَهُ وَأَعَزَّ كَلِمَتَهُ وَحَفِظَ عَهْدَهُ وَذَمَّتَهُ وَنَصَرَ حُزْبَهُ وَدَعَاؤَهُ

کرنے والوں سے اور ان کے کلمہ کو غالب اور ان کے عہد اور ذمہ داری کی حفاظت ان کی جماعت اور دعوت کی امداد کرنے والوں سے

وَكَثَرْتَ تَابِعِيهِ وَفَرَّقْتَهُ وَأَوْفَى زُمْرَتَهُ وَلَمْ يُخَالَفْ سَبِيلَهُ وَ

ان کے تابعین اور جماعت کو بڑھانے والوں اور ان کی جماعت کی موافقت والوں سے جنہوں نے ان کی راہ و سنت کی

سُنَّتَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْإِسْتِمْسَاكَ بِسُنَّتِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ

مخالفت نہیں کی۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان کی سنت کے تسک کا میں پناہ طلب کرتا ہوں تیسری

شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ وَرَسُولُكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

ہر اس شے سے جس سے تیرے نبی و رسول محمد نے تیسری پناہ طلب کی۔ صلی اللہ علیہ

سَلَّمَ اللَّهُمَّ ادْخُلْنَا مَعَهُ بِشَفَاعَتِهِ وَضَمَانَتِهِ وَرِعَايَتِهِ وَمَعَ

وسلم۔ اے اللہ ہمیں ان کے ساتھ داخل فرما ان کی شفاعت۔ ضمانت اور رعایت کے طفیل اور ان کے

إِلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ بِدَارِكَ دَارِ السَّلَامِ فِي مَقْعَدِ صَدَقٍ عِنْدَ بَيْتِكَ تُقْبَلُ

آل و اصحاب کے ساتھ اپنے دار السلام (جنت) میں سچائی کی نشست گاہ میں صاحب ملک و اقتدار کے ہاں

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَأَنْحِفْنَا بِشَاهِدَتِهِ بِلَطِيفِ مَنَازِلِهِ يَا كَرِيمُ

اے صاحب جلال و اکرام اور ہمیں تحفہ عطا فرما ان کے دیدار کا ان کی پاکیزہ ترین منازل میں، اے کریم

يَا رَحِيمُ أَكْرَمْنَا بِالنَّظَرِ إِلَى جَبَالِ سُبْحَاتِ وَجْهِكَ الْعَظِيمِ وَ

اے رحیم ہمیں عزت بخش ساتھ دیکھنے اپنی ذات عظیمہ کے جمال انوار کے اور





أَحْفَظْنَا بِكِرَامَتِهِ بِالشُّكْرِ وَالِتَّبَجُّيلِ وَالِتَّعْظِيمِ ۗ وَ أَكْرَمْنَا بِنَزْلِهِ

ہیں حفظ و امان بخش ان کی بزرگی کے صدقہ میں ساتھ اکرام اور توقیر و تعظیم کے اور ہمیں مکرم فرما ان کی صفائی کیساتھ

نَزَّلْنَا مَنْ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۗ فِي رَوْضِ رِضْوَانٍ أَحَلُّ عَلَيْكُمْ مَرْضَوَانِي

جو درحقیقت صفائی ہے غفور رحیم کی طرف سے رضامندیوں کے باغات میں "حلال ٹھہراتا ہوں میں تم پر اپنی رضامندی

فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ أَبَدًا ۗ وَأَعْطَيْكُمْ مَفَاتِيحَ الْغَيْبِ لِخَزَائِنِ السِّرِّ الْمَكْنُونِ

پس میں ناراض نہیں ہوں گا تم پر کبھی اور عطا کرتا ہوں نہیں غیب کی چابیاں واسطے پرشیدہ اسرار کے خزانوں کے

فِي مَكْنُونٍ حَتَّىٰ تَمَعَّرَفَ صِفَاتِي الْمَعَانِي بِأَنْوَارِ الذَّاتِ عَلَى الْأَرَائِكِ

جو مخفی ہیں مہربان خدا کے ہاں یعنی معارف صفات صفائی کے لطیف انوار ذات کے، آرام کرسیوں پر بیٹھے

يَنْظُرُونَ ۗ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ ۗ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ يَا نِعْطَافِ

دیکھتے ہوں گے اور ان کے لیے ہے جو طلب کریں۔ سلام ہے درآئینہ لیکہ کہا ہوا ہے رب رحیم کی طرف سے سبب مہربانی

رَافَةِ الرَّافَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ ۗ مِنْ عَيْنِ عِنَايَتِهِ فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذَلِكِ

رافت محمدیہ کے جو حاصل ہونے والی ہے ان کی خاص عنایت سے جبکہ وہ فضل ہے تیرے رب کا وہی

هُوَ الْقَوْسُ الْعَظِيمُ فِي مَحَاسِنِ قُصُورِ ذَخَائِرِ السَّرَائِرِ ۗ فَلَا تَعْلَمُ

عظیم کامیابی ہے۔ مخفی اسرار کے ذخائر واسطے خوبصورت محلات میں پس نہیں جانتا کوئی نفس جو

نَفْسٌ مَّا أَخْفَىٰ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۗ فِي

اس کے لیے پرشیدہ رکھا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک سے درآئینہ لیکہ وہ جزاء ہے ان کے اعمال کی

مَنْصَّةٍ مَّحَاسِنِ خَوَاتِمِ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۗ

مصل ظہور میں خوبترین محاسن واسطے آخری کلمات کے یعنی دعا ان کی جنت میں یہ ہوگی پاک ہے تو اے اللہ اور باہمی تحفے ان کے سلام ہیں

وَإِخْرَدُ عَوْمُهُمْ ۗ إِنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۗ اللَّهُمَّ يَا ظَاهِرًا يَا بَاطِنًا

اور آخری دعا ان کی ہے کہ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ "اے اللہ۔ اے ظاہر۔ اے باطن

يَا ذَا الْمَعَارِجِ ۗ تَعْرُجُ إِلَيْكَ أَسْرًا وَاحْنَا وَقَدَّرْتَ أَجَالَنَا يَا مُحْصِي

اے بلندیوں واسطے بلند ہوتے ہیں تیری طرف ہمارے ارواح اور تو نے مقدر فرمایا۔ ہماری مدت عمر۔ اے احاطہ کرنے والا



أَحْصَيْتَ أَنْفُسَنَا وَآكْسَابَنَا وَأَدْرَكْتَ أَسْرَارَنَا وَعَلَانَا يَا حَافِظُ

تو نے اعط کیا ہے ہمارے سانسوں اور ہمارے اعمال کا اور جان لیا ہے ہمارے پرشیدہ اور ظاہر کو اسے حفاظت کرنے والے

يَا خَافِضُ يَا رَافِعُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُوَخَّرُ وَتَخْفِضُ مَنْ تَشَاءُ

لے پست کرنے والے۔ لے بلند کرنے والے۔ تو ہی سبقت دینے والا ہے اور تو ہی مؤخر کرنے والا ہے۔ پست کرتا ہے جسے

قَهْرًا وَتَرْفَعُ مَنْ تَشَاءُ قَدْرًا مَنْ رَفَعْتَهُ ارْتَفَعَ وَمَنْ وَضَعْتَهُ

چاہے اپنے قہر سے۔ اور بلند کرتا ہے قدر جس کی چاہے۔ تو جسے بلند کرے وہ بلند ہو گیا اور جسے پست کرے

ارْتَضَعُ وَمَنْ أَكْرَمْتَهُ لَمْ يَهِنْ يَا رَافِعُ الدَّرَجَاتِ لَكَ الْأَسْمَاءُ

وہ پست ہو گیا جسے تو عزت دے وہ حقیر نہیں ہوتا لے درجات کے بلند کرنے والے تیرے لیے ہی حسین

الْحُسْنَى وَالْأَمْثَالَ الْعُلْيَا يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيدِ يَا مُبْدِيَّ يَا مُعِيدُ

اسما اور اعلیٰ صفات ہیں۔ لے عرش مجید والے۔ لے (تخلیق کی) ابتداء کرنے والے اور لوٹانے والے

يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا رَحِيمًا يَا مُؤْمِنًا يَا مَهِيْمِينَ يَا جَبَّارًا جَبْرًا

لے رحمن لے رحیم ہم پر رحم فرمائے امن دینے والے ہیں امن دے۔ لے عجزان۔ لے جبار ہماری شہنشاہی درست نما

يَا سَلَامٌ سَلَامًا يَا غَفَّارًا يَا غَفُورًا غَفْرًا يَا رَاقٍ أُرْسُقْنَا

لے سلام ہیں سلامتی دے۔ لے غفار۔ لے غفور ہیں بخش لے رزاق ہیں رزق دے

يَا رَءُوفٌ أَرْوْفٌ يَا عَفُوفًا عَافًا عَفًّا يَا لَطِيفًا لَطِيفًا

لے مہربان ہم پر مہربانی فرما۔ لے درگزر فرمانے والے ہیں عافیت دے پس درگزر فرمائے لطیف لطف فرما۔

يَا حَلِيمٌ أَحْلَمُ عَنَّا يَا حَافِظُ يَا حَفِيفٌ أَحْفَظُنَا يَا عَزِيزٌ يَا

لے حلیم ہمارے ساتھ بردباری فرما۔ لے حافظ لے حفیظ ہماری حفاظت فرما۔ لے عزیز لے عزیز

مُعِزٌّ عِزًّا يَا صَبُورٌ صَبْرًا يَا نَصِيرٌ نَصْرًا يَا مُغِيثٌ أَغِيثُنَا يَا

عزت بخشنے والے ہیں عزت دے۔ لے صبور ہیں صابر بنا۔ لے نصیر ہماری نصرت فرما۔ لے فریادرس ہماری فریادری فرما لے

كَافِيٌ كِفَايَةً يَا وَاقِيٌ قِنَا يَا وَالِيٌ يَا مُتَعَالِيٌ يَا مُوَلَايَ تَوْلَانَا يَا حَنَّانٌ

کافی ہیں کفایت فرما۔ لے بچانے والے ہیں بچا لے والی۔ لے بلند نشان۔ لے مولا ہماری کارسازی فرما۔ لے حنان





يَا مَنَّانُ أَمَّنْ عَلَيْنَا يَا كَرِيمُ الْكَرْمَنَا وَلَا تَمَكَّرْ عَلَيْنَا يَا تَوَّابُ تَبُّ

لے مَنَّان ہم پر احسان فرما۔ لے کریم ہمیں عزت دے اور ہمارے خلاف تدبیر نہ فرما۔ لے تَوَّاب ہم پر نظرِ رحمت

عَلَيْنَا يَا ذَا الْفَضْلِ تَفَضَّلْ عَلَيْنَا يَا ذَا الطُّوْلِ تَطَوَّلْ عَلَيْنَا يَا قَابِلُ

فرما۔ لے ماکبِ فضل ہم پر فضل فرما۔ لے وسعت والے ہمیں وسعت بخش۔ لے تَوَّاب قبولے

التَّوْبِ اقْبَلْ تَوْبَتَنَا يَا دَائِمُ اِدْمِ التَّعْمَاءَ عَلَيْنَا يَا هَادِي اِهْدِنَا

کرنے والے ہماری توبہ قبول فرما۔ لے دائم ہم پر نعمتیں دائم رکھ۔ لے ہادی ہمیں ہدایت دے

يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ هَبْ لِي مِنْ جَزِيلِ هِبَاتِكَ مَا

لے وہاب۔ لے وہاب۔ لے وہاب مجھے اپنے وہ عظیم عطیات ہیہ فرما جو

يَبْلَغُنِي إِلَى مَرْضِيَّتِكَ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ اِلٰهِي هَبْ لِي مِنْ

مجھے پہنچائی تیری رضا مندوں تک یا وہاب۔ یا وہاب۔ لے میرے خدا مجھے عطا فرما

لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ اِلٰهِي

اپنے پاس سے رحمت۔ بیشک تو ہی عطا کرنے والا ہے یا وہاب۔ یا وہاب۔ یا وہاب۔ لے میرے خدا

وَيَا وَهَّابَ الْاَسْرَارِ هَبْ لِي مِنْ اَسْرَارِكَ فَيُضَا تَجْعَلَنِي بِهِ دَائِمًا

اور لے عطا کرنے والے اسرار کے عطا فرما مجھے اپنے اسرار سے ایسا فیض کہ بناوے مجھے بسبب اس کے ہمیشہ

مُسْتَحْفَظًا لِمَوَاهِبِكَ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ اِلٰهِي حَقِّقْنِي

محفوظ رکھنے والا اپنے مواہب کا یا وہاب یا وہاب یا وہاب۔ لے اللہ مجھے ثابت و قائم فرما

بِمَوَاهِبِ حَقِيْقَةِ حَقِيْقَتِكَ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ اِلٰهِي

اپنی حقیقتِ الحقیقت کے مواہب سے یا وہاب۔ یا وہاب یا وہاب۔ لے میرے خدا

كُنْ شَاهِدًا عَلَيَّ بِالْاِفْتِقَارِ اِلَى غِنَاكَ الْبَطْلَقِ الْكَامِلِ بِالذَّاتِ

مجھ پر گواہ بن میری محتاجی کا طرف تیری غناءِ مطلق اور کامل بالذات کے پس

فَاَمَّنْ عَلَيَّ عَبْدِكَ الضَّعِيفِ بِغْنِي يَكُوْنُ بِهِ غَنِيًّا مُغْنِيًّا مِّنْ

احسان فرما اپنے عبدِ ضعیف پر ساتھ غنی کے کہ جس کے ساتھ وہ غنی بھی ہو اور مستغنی کرنے والا بھی ہو



بَابُ الْاِفْتِقَارِ اِلَى غِنَاكَ



شَدَّتْ غِنَاءَهُ بِوَصْفِ الْفَقْرِ بَيْنَ يَدَيْكَ أَنْتَ الْغَنِيُّ الْوَهَّابُ

جس کی استغناء تو چاہے باوصف فقر و احتیاج کے تیری بارگاہ میں تو ہی غنی اور ہب کرنے والا ہے۔

يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ يَا وَهَّابُ يَا رَشِيدُ هَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً

یا وہاب یا وہاب یا وہاب - یا رشید - ہبہ فرما ہمیں اپنے پاس سے رحمت کا

وَهْبِيْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رِشْدًا اللَّهُمَّ إِنَّا لَضَالُّونَ فَاهْدِنَا وَإِنَّا فُقَرَاءُ

اور متیا فرما ہمارے لیے ہمارے امور میں راست روی لے اللہ ہم گمراہ ہیں پس ہمیں ہدایت بخش اور ہم فقراء ہیں

فَاعْزِنَا وَإِنَّا ضَعْفَاءُ فَتَقَوْنَا وَإِنَّا مُذْنِبُونَ فَاعْفُ رَنَا يَا نُورَ يَا هَادِي

پس ہمیں غنی فرما اور ہم ناتواں ہیں پس ہمیں قوی فرما اور ہم گنہگار ہیں پس ہمارے لیے مغفرت فرما۔ لے نور لے ہادی

يَا غَنِيُّ يَا قَوِيُّ يَا عَفُوٌّ يَا رَحِيمُ اللَّهُمَّ بَرِّوْهُ مِنْ عِنْدِكَ أَيُّدِنَا

لے غنی۔ لے قوی۔ لے عفور۔ لے رحیم۔ لے اللہ اپنے پاس سے مخصوصیوں کے ذریعے ہمیں تقویت

وَمِنْ عِلْمِكَ الْمَكْنُونِ عَلَّمْنَا وَعَلَى دِينِكَ الَّذِي ارْتَضَيْتَهُ ثَبَّتْنَا

لے۔ اور اپنے پرشیدہ علم سے ہمیں سکھلا اور اپنے اس دین پر جسے تو نے پسند کیا ہے ثابت رکھ

وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ سَبَقَتْ لَهُ مِنْكَ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ اللَّهُمَّ أَحْيِنَا

اور ہمیں ان سے بنا جن کے لیے تیری طرف سے نیکی سبقت لے جا چکی ہے اور مزید احسان لے اللہ ہمیں زندہ رکھ

مُؤْمِنِينَ طَائِعِينَ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ تَائِبِينَ وَاجْعَلْنَا يَوْمَ

مومن مطیع کی حیثیت میں اور ہمیں وفات دینا اسلام اور توبہ کی حالت میں اور بنا نا ہمیں قیامت کے

الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ آمِنِينَ وَثَبَّتْ أَقْدَامَنَا عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ

دن امن والوں سے۔ اور ہمارے قدم ثبات رکھنا صراط مستقیم پر

وَأَدْخَلْنَا بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ فِي جَنَّتِ التَّعِيمِ وَدَجْنَا بِعَفْوِكَ وَحِلْمِكَ

اور داخل فرما ہمیں اپنی رحمت اور کرم کے ساتھ جنات نسیم میں اور نجات دینا ہمیں اپنے عفو اور حلم کے

مِنَ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ يَا بَرُّ يَا رَحِيمُ يَا حَكِيمُ يَا كَرِيمُ اللَّهُمَّ إِنَّا أَصْبَحْنَا

ساتھ عذاب الیم سے۔ لے محسن۔ لے رحیم۔ لے حکیم۔ لے کریم۔ لے اللہ بیشک ہم بوجھلے ہیں



لَا تَمْلِكُ لَأَنْفُسِنَا دَفْعًا وَلَا رَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَلَا نَفْعًا فَقَرَأَ لَا

اس حال میں کہ نہیں مالک اپنے لیے دفع (ضرر) کے اور نہ رفع (کلفت) کے اور نہ ضرر و منفعت کے، فقیر ہیں

شَيْءٍ لَنَا ضَعْفًا لَا قُوَّةَ لَنَا وَأَصْبَحَ الْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ وَأَمْرٌ كُلُّ

ہمارے ملک میں لچر بھی نہیں۔ ناتواں ہیں کچھ قوت ہم میں نہیں۔ اور تمام تر خیر صرف تیرے ہی ہاتھوں میں ہے اور ہر شیء کا معاملہ

شَيْءٍ عَرَّاجٌ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ وَقَفْنَا لَهَا بِهَ امْرُتْنَا وَأَعْتَا عَلَي مَابِهَ كَلَّفْتَنَا

تیری طرف ہی لوٹنے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے اس کی جس کا تو نے حکم دیا اور ہماری امانت فرما ان امور پر جن کا تو نے ہمیں کلفت ٹھہرایا

وَأَعْنَتَا عَنْ كُلِّ شَيْءٍ بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ وَاجْبُرْ كَسْرَنَا وَفَاتِنَا مِنَّا

اور ہمیں بے نیاز فرما تمام اشیاء سے اپنے فضل اور رحمت کے ساتھ اور درست فرما ہماری شکلی اور جو ہم سے قوت ہوا

بِعَنَائِتِكَ وَكَرَمِكَ وَإِيْدِنَا بِتَوَجُّهِ إِلَيْكَ بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ يَا مَالِكُ

اپنی عنایت اور کرم سے اور ہمیں تقویت دے اپنی طرف متوجہ کر کے اپنی قوت و طاقت سے اے مالک

يَا قَدِيرُ يَا سَمِيعُ يَا بَصِيرُ اللَّهُمَّ مَا قَصَرَ عَنْهُ هَمَّتْنَا رَأَيْنَاهُ وَلَمْ تَبْلُغْهُ

اے قدیر۔ اے سمیع۔ اے بصیر۔ اے اللہ جس امر سے قاصر ہے ہماری ہمت۔ جسے ہم نے دیکھا اور اس کو نہ پہنچا

مَسَلْتَنَا مِنْ خَيْرٍ وَعَدْتَنَّهُ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ أَوْ خَيْرًا أَنْتَ مُعْطِيهِ

ہمارا سوال یعنی وہ خیر جس کا وعدہ دیا تو نے کسی کو اپنی مخلوق سے یا وہ خیر کہ تو عطا کرنے والا ہے

أَحَدًا مِّنْ عِبَادِكَ فَإِنَّا نَرْغِبُ إِلَيْكَ فِيهِ وَنَسْأَلُكَ إِيَّاهُ بِرَحْمَتِكَ

اپنے کسی بندے کو پس ہم اس میں تیری طرف رغبت کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں اس کا تجھ سے تیری رحمت کے صدقہ میں

اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيَيْتَنِي مَا عَلِمْتَ

اے اللہ بظہیر اپنے علم غیب کے اور خلق پر قدرت کے مجھے زندہ رکھ جب تک تو جانے

الْحَيَاةَ خَيْرًا لِّي وَتَوَفَّيْتَنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِّي اللَّهُمَّ أَحْسَنُ

حیات کو میرے لیے بہتر اور وفات دے جب جانے وفات کو میرے لیے بہتر۔ اے اللہ اچھا فرما

عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَأَجْرُنَا مِنْ حَزْمِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ

ہمارے انجام کو تمام امور میں اور ہمیں بچا دینوی رسوائی اور آخروی عذاب سے



اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقَوِّنِي بِرِضَاكَ ضَعْفِي وَخَذُلِي الْخَيْرَ بِنَاصِيَتِي

اے اللہ میں ناتواں ہوں پس مجھے قوی فرما اپنی رضا کے ساتھ اور میری پیشانی میں خیر کو باندھ دے

وَاجْعَلِ الْإِسْلَامَ مُنْتَهَى رِضَائِي اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقَوِّنِي يَا

اور اسلام کو میرا منتہا بنانا دے۔ اے اللہ میں ناتواں ہوں مجھے توانا بنا لے

قَوِيٌّ وَإِنِّي ذَلِيلٌ فَأَعِزَّنِي يَا عَزِيزُ وَإِنِّي فَقِيرٌ فَارْزُقْنِي يَا رَازِقُ

قوی۔ میں بے عزت ہوں مجھے عزت عطا فرما لے عزیز اور میں فقیر ہوں پس مجھے رزق دے۔ لے رزاق

ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ وَإِنِّي سَائِلٌ لِّعِزَّةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ

اے قوت والے۔ استقام والے اور میں سوال کرتا ہوں (تجھ سے) دنیا و آخرت کی عزت کا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَفْوَةِ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آل سیدنا محمد پر جو چہنچہ ہوئے ہیں

الْأَمْثَلِ وَالْأَوْجَرِ وَلِسَانَ الْحَضْرَةِ الْأَقْدَسِيَّةِ بِلَا عَدَدٍ

بزرگ ترین لوگوں سے اور آنے والوں سے اور ترجمان ہیں حضرت اقدس کے بغیر شمار کے

الْمُقَوِّي التُّفُوسِ بِلَا مَدَدٍ الْمَوْلَى بِلَا وِلْدٍ الْعَزِيزِ السَّيِّدِ السَّنَدِ

نفوس کو تقویت دینے والے ہیں بغیر کسی مدد کے۔ مولیٰ ہیں بغیر اولاد کے۔ عزیز سردار سند و حجت

وَسِيَادَةِ الْوَاحِدِ الْوَاحِدِ الصَّمَدِ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ

اور (نظر) سیادت ہیں واحد بے نیاز کے جس نے نہ کسی کو جنم دیا اور نہ جنا گیا اور نہیں ہے

يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝

اس کا کوئی ہم پلہ نہ فرما دیکھئے وہ اللہ یکتا

اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ

اللہ بے نیاز ہے۔ اس نے کسی کو جنم نہ دیا اور نہ وہ جنا گیا اور

يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

نہیں اس کے لیے ہم پلہ کوئی شخص۔



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ  
الحمد لله  
کدیرن مانعتا اقرانہا  
ایزومتان تحفہ عجایب و حدیث غرائب الی اللہ  
مقبول بارگاہ کونین حضرت محمد ﷺ  
مستحق بہ

# صَلَوَاتُ الرَّسُولِ

الجزء التاسع

فِي تَحْسِينِهِ وَتَمْجِيدِهِ ﷺ

أَرْضَىٰ خَلْقَهُ وَخَلَقَ الشَّيْءَ مِنْ خَلْقِهِ حَضْرَتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ

حَضْرَتِ خَاجِمِ نَوَاجِحِ نَوَاجِحِ خَاجِمِ مُحَمَّدٍ ﷺ

ساکن چھوہر شریف ضلع ہری پور  
صوبہ سرحد پاکستان



## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِرَفِیْعِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِمَنْبِیْعِ

اے اللہ بے شک میں سوال کرتا ہوں تجھ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی رفعت کے وسیلہ سے اور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِشَفِیْعِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مضبوطی کے وسیلہ سے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شفاعت کے وسیلہ سے

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ مُلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ ۝

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے بہت رحم والا مہربان۔ قیامت کے دن کا مالک ہے۔

اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۝ صِرَاطَ

تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے توفیق طلب کرتے ہیں۔ ہمیں چلا راہ راست پر۔ راہ

الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ ۝

ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام فرمایا ہے نہ ان کی جن پر غضب کیا گیا ہے اور نہ بھٹکے ہوئے لوگوں کی

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا

نہیں کوئی معبود برحق مگر محمد اللہ تعالیٰ کے رسول برحق ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِیْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی فِیْ حُبِّ

محمد پر اور آل سیدنا محمد پر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کی تعریف و شفاء

تَحْمِیْدِهِ وَتَمْجِیْدِهِ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ یُصَلُّوْنَ عَلٰی النَّبِیِّ صَلٰی

اور بزرگی کے بیان کو پسند کرتے ہوئے "بے شک اللہ اور اس کے نماز فرشتے صلوٰۃ بھیجتے ہیں نبی پر صلی

عَلَيْهِ وَسَلَامٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا

اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِیْ قَالَ اللّٰهُ سُبْحٰنَهُ اِنِّیْ اُصَلِّی الصَّلٰوَةَ عَلَیْهِ اَحَدَ عَشَرَ

محمد کی آل پر جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے نبی پر گیارہ مرتبہ صلوٰۃ





مَرَّةً وَعِنْدَ الْبَعْضِ اثْنَيْ عَشَرَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ زَايِدًا اَللّٰهُمَّ صَلِّ

بھیجتا ہوں اور بعض کے نزدیک بارہ دفعہ اور بعض نے کہا اس سے بھی زیادہ۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللهُ تَعَالَى

سیدنا محمد اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے

لِرَجُلٍ اَمْرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اَللّٰهُمَّ

حکم دیتے ہوئے فرمایا: "اے ایمان والو صلوٰۃ بھیجو ان پر اور سلام بھیجو۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ

صلوٰۃ بھیج محمد پر اور آل محمد پر جیسے تو نے صلوٰۃ بھیجی ابراہیم پر اور آل

اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اَللّٰهُمَّ اَرْحَمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ

ابراہیم پر بے شک تو سزاوار حمد اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ رحم فرما محمد پر اور آل محمد پر

كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

جیسے تو نے رحم کیا ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر بے شک تو لائق حمد اور بزرگتر ہے

اَللّٰهُمَّ اَعْظِمْ وَاكْبِرْ مُحَمَّدًا وَاٰلَ مُحَمَّدٍ كَمَا عَظَّمْتَ وَكَبَّرْتَ اِبْرَاهِيْمَ

اے اللہ عظمت و کرامت عطا کر محمد اور آل محمد کو جیسے تو نے عظمت اور بزرگی دی ابراہیم کو

وَآلِ اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ

اور آل ابراہیم کو بے شک تو لائق حمد بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما نبی اتنی

الْاُمِّيِّ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ اِبْرَاهِيمَ

محمد پر اور ان کی آل پر جس طرح تو نے برکت دی ابراہیم کو اور آل ابراہیم کو

اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى آلِ

بے شک تو ہمیشہ مستحق حمد بزرگتر ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ بھیج آل محمد پر جیسے تو نے صلوٰۃ بھیجی آل

اِبْرَاهِيمَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيمَ

ابراہیم پر۔ اے اللہ برکت نازل فرما آل محمد پر جیسے تو نے برکت نازل فرمائی آل ابراہیم پر





اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

اے اللہ صلوٰۃ نازل فرما محمد و آل محمد پر جیسے تو نے صلوٰۃ نازل فرمائی آل ابراہیم پر

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ

بے شک تو حمید مجید ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جیسے تو نے برکت نازل فرمائی

عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

ابراہیم پر بے شک تو حمید مجید ہے۔ اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما محمد پر اور آل

مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

محمد پر جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم پر۔ بے شک تو حمید مجید ہے۔

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

اے اللہ برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جیسے تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم

وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَ

اور آل ابراہیم پر بے شک تو حمید مجید ہے۔ اے اللہ بنا اپنی صلوات اور

بَرَكَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ

برکات نازل ہونے والی محمد پر جیسے تو نے بنایا انہیں نازل ہونے والی ابراہیم پر بیشک تو حمید مجید ہے۔ اے اللہ

اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا

بنا اپنی صلوات و برکات کو محمد و آل محمد پر جیسے کہ

جَعَلْتَهَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

بنایا انہیں ابراہیم اور آل ابراہیم پر بے شک تو حمید مجید ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ

اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما اپنے عبد خاص اور رسول معظم محمد پر اور ان کے اہل بیت پر

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

جیسے کہ رحمت نازل فرمائی تو نے ابراہیم پر بے شک تو حمید مجید ہے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما



مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَأْسُوكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَبَارَكْتَ

اپنے عبد خاص اور رسول معظم محمد پر جیسے رحمت فرمائی ابراہیم پر اور برکت نازل فرما

عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ

محمد اور آل محمد پر جیسے برکت نازل فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم پر

إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَزْوَاجِهِ

بے شک تو حمید مجید ہے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد پر اور آپ کی ازواج پر

وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَبَارَكْتَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ

اور اولاد پر جیسے کہ رحمت نازل فرمائی ابراہیم پر اور برکت نازل فرما محمد پر اور

أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ

آپ کی مقدس بیویوں پر اور اولاد اطہار پر جیسے برکت عطا کی ابراہیم کو تمام جہانوں میں بے شک تو

حَمِيدٌ مُّجِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَىٰ

حمید مجید ہے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد پر اور برکت نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ

محمد اور آل محمد پر اور رحم فرما محمد اور آل محمد پر جیسے تو نے صلوات بھیجی اور برکت دی

وَتَرَحَّمْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ

اور رحم فرمایا ابراہیم اور آل ابراہیم پر بے شک تو حمید مجید ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ آلِ

اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما محمد پر اور ان کے اہل بیت پر جیسے رحمت نازل فرمائی

إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْنَا مَعَهُمْ وَصَلِّوْا

آل ابراہیم پر بے شک تو حمید مجید ہے۔ اے اللہ ہم پر بھی صلوات ہو ساتھ ان کے اور درود ہو

اللَّهُ وَصَلِّوْا الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ

اللہ کا اور مومنین کا نبی امی محمد پر۔ اے اللہ برکتیں عطا کر



مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ

محمد اور آپ کے اہل بیت کو جیسے تو نے برکت دی آل ابراہیم کو بے شک تو حمید

مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَيْنَا مَعَهُمُ اللَّهُمَّ اُبْعَثْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَقَامًا

مجید ہے اے اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ برکت سے نازل کرے اللہ انہیں قائم فرما قیامت کے دن مقام

مَحْمُودًا يَغِيظُهُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ

محمود میں کہ جس پر قیام کی وجہ سے اولین و آخرین ان کے ساتھ رشک کریں گے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما

مُحَمَّدًا وَأَبْلِغْهُ الْوَسِيلَةَ وَالدرَجَةَ الرَّفِيعَةَ مِنَ الْجَنَّةِ اللَّهُمَّ

محمد پر اور پہنچا انہیں مقام وسیلہ اور بلند تر درجہ تک جنت سے۔ اے اللہ

اجْعَلْ فِي الْمُصْطَفِينَ مَحَبَّتَهُ وَفِي الْمُقَرَّبِينَ مَوَدَّتَهُ وَفِي الْأَعْلِينَ

بنا چنے ہوئے حضرات میں محبت ان کی۔ اور ارباب قرب میں مودت ان کی اور بلند مقام حضرات میں

ذِكْرَهُ وَدَارَةَ السَّلَامِ عَلَيْهِ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَبَرَكَاتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

ذکر اور مکان ان کا ان پر اللہ تعالیٰ کا سلام ہو اور اس کی رحمت اور برکتیں۔ اے اللہ صلوات بھیج

عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا

محمد پر اور آل محمد پر۔ اور برکت عطا فرما محمد کو اور آل محمد کو جیسے

صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ وَأَرْحَمُ مُحَمَّدًا

صلوات و برکت نازل فرمائی آل ابراہیم پر بے شک تو حمید مجید ہے اور رحم فرما محمد پر

وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا رَحِمْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ وَبَارِكْ

اور آل محمد پر جیسے تو نے رحم فرمایا ابراہیم پر بے شک تو حمید مجید ہے اور برکت عطا فرما

عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ

محمد کو اور آل محمد کو جیسے برکت عطا کی ابراہیم کو بے شک تو حمید مجید ہے

اللَّهُمَّ وَتَرَحَّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

اے اللہ اور رحمت خاصہ نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جیسے تو نے خاص رحمت نازل فرمائی ابراہیم



وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ وَتَحَنَّنْ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَ

اور آل ابراہیم پر بے شک تو حمید مجید ہے۔ اے اللہ اور مہربانی فرما محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَحَنَّنْتَ عَلَيَّ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ

آل محمد پر جیسے تو مہربان ہوا ابراہیم اور آل ابراہیم پر بے شک تو

حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّمْتَ

مجید مجید ہے۔ اے اللہ اور سلام بھیج محمد و آل محمد پر جیسے تو نے سلام بھیجا

عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ

ابراہیم اور آل ابراہیم پر بے شک تو حمید مجید ہے۔ اے اللہ صلوات بھیج

عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَيَّ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَيَّ مُحَمَّدًا

محمد اور آل محمد پر جیسے تو نے صلوات بھیجی ابراہیم پر اور برکت عطا کر محمد کو

وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَيَّ إِبْرَاهِيمَ وَسَلِّمْ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اور آل محمد کو جیسے برکت دی ابراہیم کو اور سلام بھیج محمد اور آل محمد پر

آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّمْتَ عَلَيَّ إِبْرَاهِيمَ وَتَحَنَّنْ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ

جیسے تو سلام بھیجا ابراہیم پر اور مہربان ہو محمد اور آل محمد پر

كَمَا تَحَنَّنْتَ عَلَيَّ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ

جیسے تو مہربان ہوا ابراہیم اور آل ابراہیم پر بے شک تو حمید مجید ہے۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَيَّ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ

صلوات نازل فرما محمد اور آل محمد پر جیسے تو نے صلوات نازل مہربانی ابراہیم پر اور

آلِ إِبْرَاهِيمَ وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ كَمَا رَحِمْتَ عَلَيَّ إِبْرَاهِيمَ

آل ابراہیم پر اور رحم فرما محمد و آل محمد پر جیسے تو نے رحم فرمایا ابراہیم

وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَيَّ مُحَمَّدًا وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ

اور آل ابراہیم پر اور برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جیسے تو نے برکت نازل فرمائی





عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ

ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر بیشک تو حمید مجید ہے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما

مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

محمد پر جیسے رحمت نازل فرمائی ابراہیم پر بے شک تو حمید مجید ہے اور برکت دے محمد اور

آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ

آل محمد کو جیسے برکت دی ابراہیم کو بے شک تو حمید مجید ہے۔ اے اللہ صلوات

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ

نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد اور آل محمد پر

كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ

جیسے برکت عطا کی ابراہیم کو بے شک تو حمید مجید ہے۔ اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما محمد پر

وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

اور برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جیسے رحمت و برکت نازل فرمائی ابراہیم اور

وَأَلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ

آل ابراہیم پر تمام جہانوں میں بے شک تو حمید مجید ہے۔ اے اللہ بنا اپنی صلوات اور

وَرَحْمَتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

رحمت اور برکات کو محمد اور آل محمد پر جیسے تو نے بنایا انہیں ابراہیم پر

وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَ

اور آل ابراہیم پر بے شک تو حمید مجید ہے۔ اے اللہ کہ اپنی صلوات اور

بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ عَلَىٰ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتَمِ

برکات اور رحمت سید المرسلین امام المتقین اور خاتم

النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ

النبيين محمد پر جو تیرے عبد خاص اور رسول برحق ہیں۔ خیر کے امام و قائد ہیں اور رسول





الرَّحْمَةِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ

رحمت میں اور صلوات بھیج محمد اور آل محمد پر جیسے صلوات بھیجی ابراہیم اور

آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ

آل ابراہیم پر بے شک تو حمید مجید ہے۔ اے اللہ صلوات بھیج محمد۔ ان کے اہل

بَيْتِهِ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ

بیت اور ازواج و اولاد پر جیسے کہ صلوات بھیجی ابراہیم و آل ابراہیم پر

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ

بے شک تو حمید مجید ہے۔ اور برکت نازل فرما محمد پر اور آپ کے اہل بیت اور ازواج پر

وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

اور اولاد پر جیسے برکت دی ابراہیم اور آل ابراہیم پر بے شک تو حمید مجید ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَ

اے اللہ صلوات نازل فرما نبی محمد پر اور آپ کی ازواج اہمات المؤمنین پر اور

ذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ

آپ کی اولاد اور اہل بیت پر جیسے صلوات نازل فرمائی آل ابراہیم پر بے شک تو حمید

مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْهِ

مجید ہے۔ اے اللہ صلوات نازل فرما محمد پر جیسے تو نے ہمیں حکم دیا کہ ہم صلوات بھیجیں ان پر

وَصَلِّ عَلَيْهِ كَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اور صلوات بھیج ان پر جیسی کہ صلوات ان کے شایان شان ہے۔ اے اللہ صلوات بھیج محمد پر

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صَلَوةً تَكُونُ لَكَ رِضَاءً وَلِحَقِّهِ أَدَاءً وَأَعْطِهِ

اور آل محمد پر ایسی صلوات جو تیری رضا کا موجب ہو اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا سبب ہو اور عطا کر انہیں

الْوَسِيلَةَ وَالْمَقَامَ الَّذِي وَعَدْتَهُ وَاجْزِهِ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ وَاجْزِهِ

مقام وسیلہ اور مقام محمد جس کا تو نے وعدہ دیا ہے اور جزاء دے انہیں ہماری طرف سے جس کے وہ حقدار ہیں اور جزاء سے انہیں





عَنَّا مِنْ أَفْضَلِ مَا جَزَيْتَ نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ وَصَلِّ عَلَى جَمِيعِ إِخْوَانِهِ

ہماری طرف سے افضل ترین جزاء جو تو نے کسی بھی نبی کو امت کی طرف سے دی۔ اور صلوٰۃ بھیج ان کے تمام بھائیوں یعنی

مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِتَمْجِيدِكَ

انبیاء و مرسلین پر اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری عظیم تر بزرگی کے وسیلے

الْمَجِيدِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ يَا مَجِيدُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

سے بے شک تو حمید مجید ہے۔ اے صاحب مجد۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عِدَدَ صُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ وَتَسْبِيحِهِمْ وَ

آپ کی آل پر مطابق تعداد صفوں ملائکہ کے اور ان کی تسبیح و

تَقْدِيسِهِمْ وَتَحْمِيدِهِمْ وَتَمْجِيدِهِمْ وَتَكْبِيرِهِمْ وَتَهْلِيلِهِمْ

تقدیس اور تحمید و تمجید اور تکبیر و تہلیل کی مقدار کے مطابق

مَنْ أَوَّلِ الدُّنْيَا إِلَى فَنَاءِهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ابتداء خلق سے لے کر فناء دنیا تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّتِي التُّسَبُّتِ الْعُلُومُ مِنْ عَوَارِفِ

اور آپ کی آل پر وہ محبوب کر حاصل کئے گئے ہیں سبھی علوم ان کے علوم کے سمندروں کے

بُحُورِ عُلُومِهِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِالْحَرْفِ الْجَامِعِ

عوارف سے۔ اے اللہ ہم تو اس طرف اس حرف کے ساتھ جو جامع ہے

لِمَعَانِي كَمَا لَكَ نَسْأَلُكَ إِيَّاكَ أَنْ تُرِينَا وَجْهَ نَبِيِّنَا وَتَمَحُومِنَا

تیرے کمالات کے معانی کو۔ ہم تجھ سے ہی سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے نبی کا چہرہ انور دکھائے اور ہم سے محو کرے

وَجُودَ ذُنُوبِنَا بِشَاهِدَةِ جَمَالِكَ وَأَنْ تُغَيِّبَنَا فِي بَحَارِ أَنْوَارِكَ

ہمارے گناہوں کے نام و نشان کو اپنے مشاہدہ جمال کے ذریعے اور ہمیں غرق کرے اپنے انوار کے سمندروں میں

مَعْصُومِينَ عَنِ الشَّوْاعِلِ الدُّنْيَوِيَّةِ مَّا غَابَ إِلَيْكَ غَائِبِينَ

در انجا کہ ہم محفوظ ہوں دنیوی مشاغل سے رغبت کرنے والے ہوں طرف تیری غائب و مستغرق ہوں



بِكَ يَا هُوَ وَاسْقِنَا مِنْ شَرَابِ مَحَبَّتِكَ وَاغْمِسْنَا فِي بَحَارِ أَحَدِيَّتِكَ

تجھ میں لے ذات محبت اور ہمیں پلا اپنے شراب محبت سے - اور ہمیں غرق فرما دے اپنی احدیت کے سمندروں میں

حَتَّى نَرْتَعِ فِي بُحْبُوحَةِ حَضْرَتِكَ وَتَقْطَعُ عَنَّا أَوْهَامَ خَلِيقَتِكَ

تجھی کہ ہم لطف اندوز ہوں (نورانی غذاؤں کے ساتھ) تیرے حرم ناز میں اور قطع کرے ہم سے مخلوق کے اوہام

بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ وَنَوْمُنَا بِنُورِ طَاعَتِكَ وَاهْدِنَا وَلَا تَضِلَّنَا

اپنے فضل اور رحمت سے اور ہمیں منور فرما اپنے نر طاعت کے ساتھ - ہمیں ہدایت عطا کر اور گمراہ نہ فرما

وَبَصِّرْنَا بِعُيُوبِنَا عَنْ عُيُوبِ غَيْرِنَا بِحُرْمَتِ نَبِيِّنَا وَسَيِّدِنَا

اور ہمیں اپنے عیوب کے ملاحظہ کرنے کی توفیق دے کہ دوسروں کے عیوب سے غافل رکھ بھرت ہمارے نبی اور سردار

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَىٰ إِلِهِ مَصَابِيحِ الْوُجُودِ وَ

محمد کے - اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو ان پر اور اس کی سلامتی اور ان کی آل پر جو ہم موجود کے لیے اور

أَهْلِ الشُّهُودِ بِشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَشْفَعُ بِكَ إِلَيْكَ

اہل شہود کے لیے چراغ نور ہیں بظہیل شہاد و مشہود (نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم اللہم ان کے ساتھ شفاعت طلب کرتے تیری

إِذْ هُوَ أَوْجَهُ الشُّفَعَاءِ إِلَيْكَ وَنُقُصِمُ بِهِ عَلَيْكَ إِذْ هُوَ أَعْظَمُ

بارگاہ میں کیونکہ وہ تیرے ہاں سب شفیعوں سے زیادہ ابرو مند ہیں اور ہم قسم دیتے ہیں ان کی تجھ پر کیونکہ وہ عظیم تر ہیں

مَنْ أَقْسَمَ بِحَقِّهِ عَلَيْكَ وَنَتَوَسَّلُ بِهِ إِلَيْكَ إِذْ هُوَ أَقْرَبُ

ان تمام حضرات سے جن کے حق کا تجھے واسطہ دیا گیا اور ہم ان کے ساتھ تیری بارگاہ میں وسیلہ پہنچاتے ہیں کیونکہ وہ وسائل میں سے قریب ترین

الْوَسَائِلِ إِلَيْكَ نَشْكُو إِلَيْكَ يَا رَبِّ قَسْوَةَ قُلُوبِنَا وَكَثْرَةَ

وسیلہ ہیں تیری طرف - ہم تیری بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں لے رب اپنے دلوں کی قسوت - گناہوں کی کثرت

ذُنُوبِنَا وَطُولِ أَمَلِنَا وَفَسَادِ أَعْمَالِنَا وَتَكَاثُرِ الطَّاعَاتِ

اور لمبی آرزوں اور فاسد اعمال کی اور طاعات میں سستی کی

وَهُجُومِنَا عَلَى الْمَخَالَفَاتِ فَنَعْمَ الْمُشْتَكَى إِلَيْهِ أَنْتَ يَا رَبِّ

اور مخالفتوں پر کہہ رہے ہونے کی پس بہت اچھا ہے شکایات پیش کئے جانے کے لائق تو - لے پروردگار





بِكَ نَسْتَنْصِرُ عَلَى أَعْدَائِنَا وَأَنْفُسِنَا فَانصُرْنَا وَعَلَى فَضْلِكَ نَتَوَكَّلُ

تیری ذات سے ہی مدد طلب کرنے ہیں اپنے اعداء اور نفوس پر ہیں ہماری نصرت فرما۔ اور تیرے ہی فضل پر توکل کرتے ہیں

فِي صَلَاحٍ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ لَعَلَّ نَسْأَلُهُمْ فِيهِ سُبْحَانَكَ يَا مَنْ أَعْتَدَ لِلْغَافِلِينَ أَوَّلَ عَذَابٍ مُّهِينٍ

اپنی اصلاح میں ہیں ہمیں دوسروں کے حوالے نہ فرمائے ہمارے پروردگار اور تیرے رسول محمدؐ کی جناب اقدس سے نسبت رکھتے ہیں

فَلَا تُبْعِدْنَا وَبِبَابِكَ نَقِفُ فَلَا تَطْرُدْنَا وَإِيَّاكَ نَسْأَلُ فَلَا تَخَيِّبْنَا اللَّهُمَّ

پس ہمیں دور نہ فرما اور تیرے ہی در پر کھڑے ہیں تو ہمیں دھتکار نہ دینا۔ اور تجھ سے ہی سوال کرتے ہیں ہمیں محروم نہ رکھنا۔ اے اللہ

إِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنُورِهِ السَّارِي فِي الْوُجُودِ أَنْ تُحْيِيَ قُلُوبَنَا

ہم تیری طرف وسیلہ بناتے ہیں ان کے نور کو جو جملہ موجودات میں سرایت کئے ہوئے ہے کہ ہمارے دلوں کو زندہ فرمائے ان کے

بِنُورِ حَيَاةٍ قَلْبِهِ الْوَاسِعِ لِكُلِّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا وَهُدًى وَ

قلب انور کے نور حیات کے ساتھ جو محیط ہے ہر فرد کائنات کو از روئے رحمت و علم کے اور ہدایت و

بُشْرَى لِّلْمُسْلِمِينَ وَأَنْ تَشْرَحَ صُدُورَنَا بِنُورِ شَرْحِ صَدْرِهِ الْجَامِعِ

بشارت کے اور خصوصاً تمام مسلمین کو۔ اور کشادہ فرمائے ہمارے سینوں کو بطفیل ان کے شرح صدر کے نور کے جو جامع

مَا فَطَرْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ وَتُطَهَّرَ

(روح محفوظ کو جس کی شان یہ ہے) ہم نے کتاب (روح محفوظ) میں کسی شے کی اور جامع ہے از روئے نور سانی اور تذکرہ کے واسطے متقین

نُفُوسَنَا بِطَهَارَةِ نَفْسِهِ الرَّكِيَّةِ الْمَرْضِيَّةِ وَتَعْلِمَنَا بِأَنْوَارِ عُلُومِهِ

کے اور پاک کرے ہمارے نفوس کو آپ کے نفس زکیہ مرضیہ کی طہارت کے طفیل اور سکھائے ہمیں ان کے انوار علوم کی بدولت (اس شان والے علوم)

وَكُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ۗ وَتَسْرِي سَرَائِرَ فِينَا

اور ہر شے کا احاطہ کر دیا ہے ہم نے روح محفوظ میں اور جاری و ساری کرے ان کے اسرار کو ہم میں

بِلَوَامِعِ أَنْوَارِكَ حَتَّى تُفْنِنَا عَنَّا فِي حَقِّ حَقِيقَتِهِ فَيَكُونَ هُوَ

اپنے چمکتے انوار کے ساتھ حتیٰ کہ فنا کر دے ہمیں ان کی حقیقت حقہ میں تاکہ ہو جائیں وہی

الْحَيُّ الْقَيُّومُ فَيَتَابِقِيَوْمِيَّتِكَ السَّرْمَدِيَّةِ فَنَعِيشُ بِرُوحِهِ عَيْشُ

حی و قیوم ہم میں بطفیل تیری قیومیت سمردیہ کی مظہریت کے پس ہم ان کی روح اقدس کے ذریعے پائیں





الْحَيَاةِ الْأَبَدِيَّةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا

حیات ابدیہ صلی اللہ علیہ و آلہ و صحبہ و سلم تسلیما

كثِيرًا أَمِينٌ بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ عَلَيْنَا يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا

کثیراً آمین - بسبب تیرے فضل و رحمت کے ہم پر لے خان، لے مانان - لے

رَحْمَنُ يَا دَيَّانُ أَفْضُ عَلَيْنَا بِتَجَلِّيَاتِ مَنَازِلِكَ فِي مِرَاةِ

رحمن - لے بہت جزاء دینے والے۔ فیضان فرما ہم پر اپنے منازل کی تجلیات کا اس محبوب کے آئینہ شہود

شُهُودِهِ لِمَنَازِلِكَ تَجَلِّيَاتِكَ فَتَكُونُ فِي الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ

میں (جو منظر ہے) تیرے منازل تجلیات کا پس ہم پر جائیں از روئے معنی خلفاء راشدین اور

وَوَلَايَةِ الْأَقْرَبِينَ يَا مَرْبَّنَا بِجَاهِهِ عِنْدَكَ تَقْبَلُ مَنَادَاتِ

اولیاء اقربین سے لے اللہ بطفیل ان کی عز و جاہ کے جو تیری بارگاہ میں ہے قبول فرما ہماری دعائیں۔

وَارْفَعْ لَنَا الدَّرَجَاتِ وَأَفْضُ عَنَّا التَّيْبَعَاتِ وَأَسْكِنْنَا أَعْلَى الْجَنَّاتِ

اور بلند فرما ہمارے درجات کر اور دور فرما ہم سے غلاب اور ٹھہرا ہمیں بلند جنات میں

وَأَبْحُنَا النَّظَرَ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ فِي حَضْرَاتِ الْمَشَاهِدَاتِ وَ

اور مباح فرما ہمارے لیے اپنی ذات کریمہ کا دیدار مقامات مشاہدہ میں اور

اجْعَلْنَا مَعَهُ وَمَعَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ

بنا ہمیں محبوب کریم کا ساتھی اور جن پر تو نے انعام کیا یعنی انبیاء و

الصِّدِّيقِينَ أَهْلَ الْمُعْجَزَاتِ وَأَرْبَابَ الْكِرَامَاتِ وَهَبْ لِي

صدیقین کا ساتھی جو معجزات اور کرامات کے مالک ہیں - اور مجھے عفو و

الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ مَعَ اللُّطْفِ فِي الْقَضَاءِ أَمِينُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

عافیت عطا فرما بمع لطف و احسان کے قضاء میں آمین لے رب العالمین

اللَّهُمَّ أَمِّدْنَا بِمَدَدِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَدُومَ لَنَا

لے اللہ ہماری امداد فرما محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے ساتھ تاکہ ہمیں ہمیشہ کے لیے





الْإِسْتِقَامَةُ وَتَزَايِدَ لِنَابِكَ الْكَرَامَةِ اللَّهُمَّ أَمِدَّنَا بِمَدَدِ إِشْرَافِ

استقامت حاصل ہو اور بڑھ جائے تیری توفیق سے ہماری بزرگی۔ اے اللہ ہماری امداد فرما ساتھ مدد اس ذات کو جو اشرف ہیں

أَنْبِيَائِكَ وَأَجَلَ أَصْفِيَاءِكَ وَتَاجِ أَوْلِيَائِكَ وَسَيِّدِ أَهْلِ وَفَائِكَ

تیرے تمام انبیاء سے، جلیل تر ہیں تیرے تمام اصفیاء سے اور تاج ہیں تیرے اولیاء کے اور سردار ہیں اہل وفا کے

الْبَشِيرِ التَّذِيرِ السَّرَاحِ الْمُنِيرِ الْخَبِيرِ الْبَصِيرِ الْقَدِيرِ اللَّهُمَّ

بشیر و نذیر۔ روشن چراغ ہیں۔ خبر رکھنے والے۔ صاحب بصیرت اور صاحب قدرت ہیں۔ اے اللہ

بِحَاهِ عِنْدَكَ يَسِّرْ لَنَا عِلْمَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا

بظہیر ان کی عزت و حرمت کے جو تیری بارگاہ میں ہے آسان فرما ہمارے لیے علم حقیقی "لا الہ الا اللہ۔ اشہدان لا الہ الا

اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَاجْعَلْنَا بِهِ فِي حَضْرَةِ

اللہ و اشہدان محمداً رسول اللہ " کا اور بنا ہمیں اس کے ذریعے مقدس ربانی

الْقُدْسِ الرَّبَّانِيِّ مِمَّنْ تَبِعَهُ فَاتَّبِعْكَ اللَّهُمَّ كَذَلِكَ فِي كُلِّ

بارگاہ میں ان کے تابعین سے تاکہ تیری اتباع تک پہنچ جاؤں۔ اے اللہ ایسے ہی ہر ان جملہ

ذَلِكَ مَا دَامَ لَكَ كُلُّ مَا كَانَ وَكُلُّ مَا يَكُونُ اللَّهُمَّ بِسْرِهِ

معروضات میں جب تک تیرے لیے ہے وہ سب جو ہو چکا اور وہ سب جو ہو گا یعنی ہمیشہ کے لیے۔ اے اللہ بظہیر ان کے سر حقیقت

لَدَيْكَ أَمِنْ خَوْفِي وَأَقْلُ عَثْرَتِي وَأَذْهَبْ حُرْزِي وَجِرْصِي

کے جو تیرے ہاں ہے میرے خوف کو امن سے بدل اور تبدیل کر میری لغزشیں اور دور فرما میرے غم اور حرص کو

وَكُنْ لِي وَخُذْ لِي إِلَيْكَ مَنِّي وَأَرْزُقْنِي الْفَنَاءَ عَنِّي وَلَا تَجْعَلْنِي

اور تو میرا ہو جا اور مجھے مجھ سے لے کر اپنا بنا لے اور مجھے اپنے آپ سے فنا ہونے کی توفیق دے اور مجھے اپنے نفس کے

مَفْتُونًا بِنَفْسِي مَحْجُوبًا بِحَسْبِي وَاكْشِفْ لِي عَنْ كُلِّ سِرِّ

ساتھ ابتلاء میں نہ ڈال اور حرص کے ذریعے حجاب میں نہ رکھ اور مجھ پر ہر راز سر بستہ کو کشف فرما

مَكْتُومٍ مَكْظُومٍ يَا كَاشِفُ اللَّهُمَّ بَلِّغْ سَلَامِي إِلَيْهِ وَأَوْقِفْنِي

لے کشف کرنے والے۔ اے اللہ میرا سلام نیاز ان تک پہنچا مجھے ان کی بارگاہ میں تھام کی سعادت بخش اور مجھے





بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَفْضُ عَلَيَّ مِنْ مَدَدِهِ وَأَحْسَنِي بَعْدَهُ وَأَنْفَخُ

پران کی مدد کا فیضان فرما اور میری نگہبانی فرما ان کے لشکروں سے اور پھونک

فِي مَنْ رُوحَهُ كِي أَحْيِي بِرُوحِهِ وَلَا شَهْدَ حَقِيقَتِي عَلَى التَّفْصِيلِ

میرے اندر ان کی روح اقدس تاکہ میں ان کی روح سے زندگی پاؤں اور میں مشاہدہ کروں اپنی حقیقت کا تفصیل کے ساتھ

وَأَعْرِفَ بِذَلِكَ الْكَثِيرَ وَالْقَلِيلَ وَأَرَى الْعَوَالِمَ الْغَيْبِيَّةَ تَتَجَلَّى

اور جان لوں اس کی بدولت کثیر و قلیل کو اور دیکھ لوں غیب کے جہانوں کو جلوہ مگن ہوتے

بِالصُّوْرِ الرُّوحَانِيَّةِ عَلَى اخْتِلَافِ الظَّاهِرِ لِاجْمَعِ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَ

صور روحانیہ کے ساتھ باوجود اختلاف مظاہر کے تاکہ میں جامع ہو جاؤں اول و

الْآخِرِ وَالْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ فَكُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهِي بَيْنِي لِي مِنْ

آخر کا اور ظاہر و باطن کا پس ہو جاؤں ساتھ اللہ کے۔ اے میرے الٰہ مجھ پر واضح فرما

صِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ لَيْسَ لِي مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَعْلُومٌ وَلَا جُزْءٌ

ان کی صفات و افعال نہیں میرے لیے امر سے کوئی معلوم شئی اور نہ کوئی قسمت کی ہوئی حصہ

مَقْسُومٌ فَأَعْبُدُكَ بِهِ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ بَلْ بِحَوْلِ اللَّهِ وَقُوَّةِ

تاکہ غلامی کروں ان کی اس امر کے ساتھ تمام احوال میں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توانائی اور

ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللَّهُمَّ يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمِ لَأَسْئِبُ

ذوالجلال والاکرام کی قوت کے ساتھ۔ اے اللہ اے جمع کرنے والے لوگوں کو اس دن میں جو لاریب ہے

فِيهِ أَجْمَعُنِي بِهِ وَعَلَيْهِ وَفِيهِ حَتَّى لَا أَفَارِقَهُ فِي الدَّارَيْنِ وَلَا

جمع فرما مجھے ساتھ ان کے اور ان پر اور ان میں تاکہ میں نہ جدا ہو سکوں ان سے دونوں جہانوں میں اور نہ

أَنْفُصَلَ عَنْهُ فِي الْحَالَيْنِ بَلْ أَكُونُ كَأَنِّي إِتْيَاهُ فِي كُلِّ أَمْرٍ

جدا ہو سکوں دونوں حالوں میں بلکہ میں ہو جاؤں گویا کہ میں ان کا عین ہوں ہر اس امر میں

تَوَلَّاهُ مِنْ طَرِيقِ الْإِتِّبَاعِ وَالْإِنْتِفَاعِ لَا مِنْ طَرِيقِ الْمُهَانَلَةِ وَ

جس کے وہ متولی ہوئے لیکن اتباع و استفادہ کے طور پر نہ کہ برابری یا برتری اور





الْأَمْرِ تَفَاءً أَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى الْمَسْتَجَابَةِ أَنْ تُبَلِّغَنِي

رفعت کے طریقہ پر۔ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے مقبول اسماء حسنیٰ کے وسیلہ سے کہ تو پہنچائے مجھے

ذَلِكَ مَنَّهُ مُسْتَطَابَةٌ وَلَا تَرُدَّنِي مِنْكَ خَائِبًا وَلَا مَمْنُنًا لَكَ

اس مقام تک بطور پاکیزہ منت و احسان کے اور نہ لوٹائے مجھے اپنے در سے اور اپنے نائب کے

نَائِبٌ فَإِنَّكَ الْوَاحِدُ الْكَرِيمُ وَأَنَا عَبْدُكَ الْعَدِيمُ اللَّهُمَّ صَلِّ

در سے ناکام پس بیشک تو صاحب دست اور کریم ہے اور میں تیرا لاشی بندہ ہوں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الرَّفِيعِ الشَّانِ

وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا بلند شان ہیں

الَّذِي تَوَجَّهَ مَعْرَاجُهُ بِسُورَةِ سُبْحَانَ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى

جن کے معراج کا تاج سورہ سبحان ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَقَاهُ اللَّهُ بِكَأْسِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کو پلایا اللہ تعالیٰ نے جام

الْوَحْيِ فَوْقَ سَمَوَاتِهِ وَأَرَاهُ اللَّهُ مِنْ عَظِيمِ آيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ

وحی کے ساتھ آسمانوں سے اوپر اور دکھلائیں انہیں اپنی عظیم آیات اور مخلوقات۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس

الَّذِي مَانَزَاغَ بَصْرُهُ وَمَا طَغَى وَأَمَحَّتْ فَصَاحَتُهُ فَصَاحَةٌ

محبوب کی نگاہ نہ تو پھری دوسری طرف اور نہ حد سے بڑھی اور محو کر دیا ان کی فصاحت نے تمام قصائد کی

الْفُصْحَاءِ وَبِلَاغَةِ الْبُلْغَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

فصاحت اور بلغاد کی بلاغت کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَعَانِمُ الْعَرْشِ تَشْتَاقٌ لِلْقِيَاءِ

اور آپ کی آل پر کہ عرش اعظم کے ستون مشتاق ہیں اس محبوب کے دیدار کے





وَالْمَلَائِكَةُ كَانَتْ يَرَى بِدَحْظِهِ الْمَصُونِ مَا خَفِيَ عَنِ الْعَيُونِ اللَّهُمَّ

اور ملائکہ بھی۔ دیکھتے تھے اپنی معصوم آنکھ کے گوشے سے جو مخفی ہوتا تھا تمام نگاہوں سے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَبْلَ

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ قبول کیا

اللَّهُ خُشُوعَهُ وَخُضُوعَهُ وَكَانَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ سُجُودُ مَنْ خَلْفَهُ

اللہ تعالیٰ نے اس محبوب کے خضوع و خضوع کو اور نہیں مخفی رہتا تھا ان پر بیچھے والوں کا سجدہ

وَلَا رُكُوعَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا

اور نہ ہی رکوع اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي بُوْرَكَ بِهِ طَعَامٌ صَنَعَ لِعَشِيرَتِهِ الْأَقْرَبِينَ اللَّهُمَّ

پر کہ جن کی بدولت مبارک کیا گیا وہ کھانا جو ان کے قریبی رشتہ داروں کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن محبوب نے

أَرُوِي بِقَدْحٍ مِّنَ الْمَاءِ تِلْكَ الْعَشِيرَةَ وَأَشْبَعَهُ مِنَ التَّرِيدِ

سیراب فرمایا پانی کے ایک پیالے سے اس جماعت کو اور سیر فرمایا ترید کے

بِمِقْدَارِ لُقْمَةٍ مِّنْهُ أَبَاهُ رِيْرَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

ایک لقمہ سے حضرت ابوہریرہ کو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى عِنْدَهُ شَوْأًا شَيْبَةً

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کے پاس دیکھا آگ کا شعلہ شیبہ

بْنِ عَثْمَانَ وَنَالَ بِهِ مِنْ شَيْبَةٍ وَسَاوَسَ الشَّيْطَانُ اللَّهُمَّ صَلِّ

بن عثمان نے اور اس کے ذریعے شیبہ سے دربر ہو گئے و سوسے شیطان کے۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ لِعَثْمَانَ

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے منہ مایا عثمان





بُنْ طَلْحَةَ يَقَعُ يَوْمًا فِي يَدِهِ مِفْتَاحُ الْكُعْبَةِ وَصَلَّى الْجَنَازَةَ

بن طلحہ عجیبی کو کہ میرے ہاتھ آئے گی ایک دن چالیس کی درجہ آج تیرے قبضہ میں ہے اور نماز جنازہ ادا فرمائی

عَلَى مُعَاوِيَةَ اللَّيْثِيِّ حِينَ الْغَيْبَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

معاویہ لیثی پر باوجود مسافت طویلہ کے ۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أُلْهِمَ بِيَمِينِهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْ

محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کی بدولت الہام کیا گیا ہر ایک

رُسُلِهِ لِسَانَ كُلِّ مَلَكٍ جَاءَ بِالْكِتَابِ إِلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

رسول کو اس فرشتے کی زبان کا جو ان کی طرف کتاب لایا ۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي غَدَا عَلَيْهِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کے پاس صبح حاضر ہوئے

أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ لَهُ لَقَدْ ضَحِكَ اللَّهُ فُلَانًا وَفُلَانَةً اللَّهُمَّ

ابو طلحہ تو آپ نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ راضی ہوا ہے فلان (ابو طلحہ) اور فلانہ (ام سلیم) سے ۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کے

بَكَى لِبُكَاءِهَا أَصْحَابُ أَحَدٍ وَقَتْلَ بَدْعَائِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ وَدٍّ

رونے سے اصحاب احمد رو پڑے اور قتل ہوا آپ کی دُعا سے عمر بن عبد ود (جنگ خندق میں)

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ

الَّذِي نَبَعَ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ الْمَاءُ لِزِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ فِي

ابن پڑا آپ کی انگلیوں سے پانی (کا چشمہ) زیاد بن حارث کے لیے دوران

السَّفَرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

سفر ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل



مُحَمَّدٍ الَّذِي رِبِحَ بِهِ فِي الصَّفْقَةِ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ اللَّهُمَّ

پر جس محبوب کے صدقہ میں نفع مند ہوئے اپنی تجارت میں حضرت عبداللہ بن جعفر نے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام بھیج سیتنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی

عَذْبُ بِهِ مَاءٌ سَبَّأَهُ نِعْمَانٌ وَسَمَحَتْ لَهُ صُحْبَةُ قَوْمٍ غُطْفَانَ

برکت سے میٹھا ہو گیا رکھاری پانی جس کو اپنے نعمان کا لقب دیا، اور آپ کے لیے صحبت میں دلچسپی ظاہر کی قوم غطفان نے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي كَلَّمَهُ الْجَمَلُ فِي صَاحِبِهِ الَّذِي حَكَمَ عَلَيْهِ لِلسَّرْقَةِ أَنْ

جس محبوب کے ساتھ کلام کیا اونٹ نے اپنے مالک کے متعلق جس پر چوری کی وجہ سے

تَقْطَعُ يَدَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

آپ کے ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر فرمایا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي فَارَ الْمَاءَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ مِنْ بَيْنِ

آل پر کہ جس محبوب کی انگلیوں کے درمیان سے پانی جوش مارنے کا غزوہ

أَصَابِعِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

تبوک میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي شَهِدَتْ بِرِسَالَتِهِ ظُبْيَةُ الْأَعْرَابِيِّ بِلَا

آل پر کہ گواہی دی جن کی رسالت کی اعرابی کی بہرہ نے بغیر

مُرِيَةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

کسی مزد کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیتنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي مَا احْتَرَقَ بِهِ سَفْرَةٌ ابْنِي الدُّرْدَاءِ وَنَزَادِيهِ طَعَامٌ

آل پر کہ جن کے ہاتھ سے چھ جالنے کی وجہ سے دجلہ دسترخوان البرادر داء کا اور بڑھ گیا ان کی برکت سے





وَلِيْمَةٌ فَاطِمَةُ الزَّهْرَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ناظمہ زہراء کے ولیمہ کا کھانا۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي دَخَلَ صَوْمَعَةَ الْيَهُودِ فَأَنْقَطَعَتْ

اور آپ کی آل پر کہ جو آقا یہود کی عبادت گاہ میں داخل ہوئے تو منقطع ہو گئیں

سَلَا سَلُّ الْقِنَادِيلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ان کی قندیلوں کی زنجیریں۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَعْلَمَ بِخُرُوجِ جِبْرِئِيلَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ

آل پر کہ جنہوں نے جسہ دی اپنے صحابہ کو جبئیل کے بنی قریظہ کے ساتھ جنگ کے لیے

أَصْحَابَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

نکلنے کی۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آل سیدنا

مُحَمَّدٍ الَّذِي عَرَجَ بِيَمِينِهِ الْمَاءَ إِلَى رَأْسِ الْبَيْرِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ

محمد پر کہ جس محبوب کی برکت سے بلند ہوا پانی کنوئیں کے سرے تک غزوہ تبوک میں

يَوْمَ نَوْبَةِ الْمُسْلِمِينَ وَغَارَ بِقَعْرِهَا يَوْمَ نَوْبَةِ الْكُفَّارِ اللَّهُمَّ

اہل اسلام کی باری کے دن اور گہرائی میں چلا گیا کافروں کے باری کے دن۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آل سیدنا محمد پر کہ جن کی

صَارَ رَمْلًا وَرَمَادًا ابْنَهُ الْأَحْبَارُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

برکت سے ریت اور راکھ کی مانند ہو گئے سخت پتھر۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَالَ فِي صَوْمَعَةِ بَحِيرَا

محمد پر اور آل سیدنا محمد پر کہ نائل ہو گیا بحیرا راہب کے عبادت خانہ میں

إِظْلَالِهِ الشَّجَرُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

ان پر سایہ کرنے کے لیے درخت۔ لے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آل



سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اخْضَرَّتِ الشَّجَرَةُ الْيَابِسَةُ حِينَ جَلَسَ

ستینا محمد پر کہ سرسبز ہو گیا خشک درخت جبکہ آپ تشریف فرما ہوئے

تَحْتَهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اس کے نیچے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج ستینا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي ظَلَمَتْهُ الْغِيَامَةُ وَكَفَّظَتْ بِهِ الْأَرْضُ مُحِلِّمَ بَنٍ

پر جس محبوب پر سایہ ٹھکن ہوئے بادل اور جن کی دماغے ہلاکت سے باہر پھینک دیا زمین قبر نے محلم بن

جَنَامَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

جنامہ کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج ستینا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَرَوَى بِفَضْلِ وَضُوئِهِ مَا فَوْقَ الْغَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ

جس محبوب نے میرا فرمایا اپنے وضو کے بچے ہوئے پانی سے دو ہزار سے زیادہ صحابہ کو۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ

و سلام بھیج ستینا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے فرمایا

لِبَعْشَرٍ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِنَّكُمْ جُنْتُمْ لَتَسْأَلُونِي عَنْ ذِي الْقُرَيْنِ

اہل کتاب کی جماعت کو بے شک تم اس لیے آئے ہو تاکہ مجھ سے ذوالقرنین کے متعلق سوال کرو۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما ستینا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ

الَّذِي عَدِمَ رِبَهُ لِبَنَاتِ مَسْعُودٍ دَخُلُوا الْأَفْوَاهَ وَشَلَّتْ لَهُ

معدوم ہو گئی ان کی بدولت مسعود کی بیٹیوں کی گنڈہ دہنی اور شل ہو گیا آپ کی وجہ سے

يَدُ كَاتِبِ سَفَرِ الْعَهْدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

مقاطعہ والے اہم نامہ کے کاتب کا ہاتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج ستینا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ يَنَازِحِي الْقَمَرِ وَيُشِيرُ إِلَيْهِ

آپ کی آل پر جو محبوب کہ چاند سے سرگوشی کرتے تھے اور اس کی طرف اشارہ کرتے



فِيهِ إِلَىٰ أَيْ جَانِبٍ يُشِيرُ إِذَا كَانَ فِي الْمَهْدِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

تو ادھر ہی مائل ہو جاتا جدھر اشارہ فرماتے جبکہ آپ پٹھوڑے میں تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَلَّمْتَهُ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کے ساتھ کلام فرمایا

فَاطِمَةُ وَهِيَ فِي بَطْنِ خَدِيجَةَ وَالْفَ بَيْنَ الرَّوْحِ وَالرَّوْحَةِ

فاطمہ زہرا نے جبکہ حضرت خدیجہ کے بطن میں تھیں اور انہیں کے طفیل الفت پیدا فرمائی خاوند اور بیوی (مرتضیٰ و بتول) میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن

الَّذِي انْفَجَرَتْ بِهِ الْعَيْنُ لظَمَاءِ ابْنِ طَالِبٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

بدولت پھوٹ پڑا پانی کا چشمہ ابو طالب کی پیاس (بجھانے) کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي شَرِهَدَ عِنْدَنَا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کے پاس گواہی دی اونٹ نے

الْبَعِيرُ عَلٰی مُدْعَىٰ مَا لِكِهِ أَنَّهُ كَاذِبٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

اپنے مالک کے مدعی کے خلاف کہ یہ جھوٹا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَبْرَأُ جِرْحَ حَارِثِ بْنِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے درست کر دیا حارث بن

أَوْسٍ وَسَبَّحَ فِي كَفِّهِ الْعَنْبُ وَالرَّمَانُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اوس کا زخم اور تسبیح کھی ان کی ہتھیلی میں انگوروں اور اناروں نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ لِخَالِدِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے فرمایا حضرت خالد

بْنِ الْوَلِيدِ إِنَّكَ تَجِدُ أَكْبِدَ دَوْمَةَ وَزَالَ بِهِ الْحَتَّاقُ اللَّهُمَّ صَلِّ

بن الولید کو کہ تم پاؤ گے دومتہ الجندل کے حمران اکبدر کو کہ گرا چکا ہوگا اس کو فرما اونٹ۔ اے اللہ صلوٰۃ



وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ جَاءَكَ

وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کی خدمت میں حاضر ہوئے

جَبْرِيْلُ مَعَ الْمُوَكَّبِ حِيْنَ رَجَعَ مِنَ الْخُدُقِ حَتّٰی رُبِّيَ الْغُبَارُ

جبریل اپنے سواروں کی جماعت میں جبکہ لوٹے خندق سے حتیٰ کہ دیکھی گئی غبار

سَاطِعًا فِي الرِّقَاقِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ

اٹھتی ہوئی کلیوں میں ان کے گھڑوں کے سہوں سے اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ سَارَ بِهٖ جَمَلٌ خَدِيْجَةٌ عَلَيْهَا الرِّضْوَانُ وَ

آل پر کہ جنہیں لے چلا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اونٹ اور ان پر

اَظْلَهُ فِي سَفَرِ التِّجَارَةِ الْمَلَكَانَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

سایہ کیا اس سفر تجارت میں دو فرشتوں نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ اَخَذَ جَبْرًا يَّيْلُ فِيْ ذٰلِكَ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ پڑھی جبرئیل علیہ السلام نے اس سفر میں ان

السَّفَرِ زِمَامَةً وَيَرِي مَا خَلْفَهُ كَمَا يَرِي مَا اَمَامَهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

کی سواری کی لگام اور جو دیکھتے تھے پیچھے سے جیسے دیکھتے تھے آگے سے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ كَانَ

وسلام بھیج سیدنا محمد پر اور آل سیدنا محمد پر کہ آپ جب کبھی (کعبہ کے گرد)

كُلَّمَا طَافَ قَبْلَ ظُهُوْرِ الْاِسْلَامِ خَرَلَهُ الْاَصْنَامُ سَجِدِيْنَ اَللّٰهُمَّ

طواف کرتے ظہور اسلام سے پہلے تو گر پڑتے اصنام حرم ان کے لیے سجدہ میں۔ اے اللہ

اِنِّيْ اَحْمَدُكَ عَلٰی شَرَفِ تَوْسَلِيْ بِاَشْرَفِ الْوَسَائِلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى

میں تیری حمد کرتا ہوں میرے توسل کو مشرف کرنے پر ساتھ افضل ترین وسیلہ یعنی محمد کے صلی

اَللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَعِيْنِكَ فِيْ جَمِيْعِ اُمُوْرِيْ بِجَاهِهِ الْاَعْلٰی

اللہ علیہ وسلم۔ اور میں تجھ سے استعانت کرتا ہوں اپنے تمام امور میں ان کے اعلیٰ مرتبہ اور



وَسِرَّةِ الْأَعْلَىٰ افْتَحْنَا بَابَ حَضْرَاتِهِ وَاجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ شَهَادَةِ

بلند تر سر حقیقت کے طفیل۔ کھول ہم پر ان کے حریم ناز کا دروازہ اور بنادے ہمیں ان کی ذات اقدس کا مشاہدہ

ذَاتِهِ وَقَرِّبْنَا لَدَيْهِ فِي كُلِّ مَشْهَدٍ وَحَقِّقْنَا بِهِ فِي كُلِّ مَهْبِطٍ وَ

کرنے والوں سے اور ہمیں قریب فرما ان کے ہر مقام شہود میں اور انہیں کی بدولت قائم و ثابت رکھ ہر مقام نزول و

مَصْعَدٍ وَأَنْزِلْ آلَهُ وَصَحْبَهُ مِمَّا أَنْزَلْتَهُ مِنَ التَّسْلِيمِ بِالتَّبْعِيَّةِ يَا

صعود میں اور پہنچا ان کی آل اور اصحاب کو ان کے طفیل میں وہ تسلیمات جو انہیں عطا کئے ہیں اے

عَلَىٰ يَا حَلِيمٌ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا بِتَرْقِيَةٍ وَأَسْقِنَا بِتَسْقِيَةٍ مِّنْ

بزرگ و برتر اے حلم والے۔ اے اللہ ہمیں ترقی عطا کر اور ہمیں پلا اپنے عرفان کے

حَوْضِ عَرْفَانِكَ الْمَاءَ الْبَارِدَ مِنْ حَيَاةٍ أَبَدِيَّتِكَ لِأَنْظُمَا بَعْدَهَا

حوض سے ٹھنڈا پانی حیات ابدیہ والا جس کے بعد کبھی ہم پیاسے

أَبَدًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

تہ ہوں۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي بَيْنَ حَلِيَّةِ الْمَرَاةِ الْمَخْطُوبَةِ لِعَالِشَةِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ

کہ جس محبوب نے (از نوبت سے) بیان فرما دیا اپنی مخطوبہ کا حلیہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي بُورِكَ بِهِ طَعَامُ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اللَّهُمَّ

کہ جن کی بدولت بابرکت کیا گیا حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کا کھانا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جلا دیا

أَحْرَقَتْ مَعْشَرَ النَّصَارَىٰ مِنْ أَجْلِهِ النَّارَ الَّتِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَامٌ

نہرا میوں کی جماعت کو ان کی وجہ سے آگ نے جس کو نازل فرمایا اللہ غیبوں کے جاننے





الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

وآلے نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي بَيْنَ لِحَلِيمَةَ شَانَهُ الْغَنَمِ وَالْجِمَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پر کہ بیان کیا علیہ سعدیہ پر ان کی شان کو بھیڑ بگڑوں اور دراز گوش نے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے رکھا اپنا پائے ناز

حَجْرٍ فَخَرَجَتْ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ نَخْلَةٌ عَظِيمَةٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

پہنچر پر تر آپ کے قدم مبارک کے نیچے سے عظیم کھجور برآمد ہو گئی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي مَا نَبَتْ بِهِ

فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ نہ آگیا بسبب ان کے

رُبَاعِيَّةٌ أَوْلَادٍ مَنْ كَسَرُمَا عَيْتَهُ الْكَرِيمَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اس شخص کی اولاد کا سامنے والا دانت جس نے آپ کے دانت (کا کنارہ) توڑا تھا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ يَخْتَفِي الضَّبَّ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ چھپ جاتا تھا سوسمار

الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِهِ حِينَ دُخُولِهِ الْبَيْتِ وَيَخْرُجُ حِينَ خُرُوجِهِ مِنْ

جو آپ کے گھر میں رہتا تھا آپ کے گھر میں تشریف لانے پر اور ظاہر ہوتا تھا آپ کے گھر سے باہر

بَيْتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تشریف لے جانے پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي صَارَ بِهِ الْجَدُّ حَرِيرًا لِلْحَسَنَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

کہ ہو گئی آپ کی بدولت سخت زمین مانند حریر کے واسطے حسین رضی اللہ عنہما کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى سِرِيرَةَ أَصْحَمَةَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جنہوں نے دیکھ لیا اصمہ نجاشی کے جنازہ کو





مِنْ قَسِيرَةٍ شَهْرَيْنِ بِحَدَقَاتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

دو ماہ کی مسافت سے سر کی آنکھوں سے ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَأَى عَائِشَةَ بَعْدَ كِبَالِ

محمد پر اور آل سیدنا محمد پر کہ جنہوں نے دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان کی تخلیق تکمیل پر

الْخَلْقِ وَالتَّصْوِيرِ وَحَمَلَهَا الْمَلَكُ فِي خُرْقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور اٹھائے ہوئے تھا فرشتہ انہیں ریشمی کپڑے میں ۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي حَدَّثَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جنہوں نے آگاہ فرمایا

قُرَيْشًا بِقُدُومِ الْعِيرِ عَلَيْهِمْ مِنَ الشَّامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

قریش کو ان کے شام سے قافلہ تجارت کی آمد کے متعلق ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ أَصْحَابَهُ

سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جس محبوب نے خبر دی اپنے اصحاب کو

بِخَوَاصِّ الْأَسْرَى وَبِمَارَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى اللَّهُمَّ

اسراء کے خواص کی اور جو دیکھی تھیں اپنے رب کی بڑی آیات ۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے لیے

انْكَفَأَ لَهُ الْقَدْحُ فِي الظُّلَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اٹک گیا پیالا تاریکی میں ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ قُرَيْشًا بِرُؤْيَا الْعِيرِ وَأَيْنَ بَاتَ

اور آپ کی آل پر جنہوں نے خبر دی قریش کو (شب اسراء) ان کا قافلہ دیکھنے کی اور جہاں اس نے رات گزاری۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے





أَخْبَرَ قَرِيْشًا وَاسْتَبَطُوا خَيْرَةً وَمَنْعَ اللّٰهُ لَهُ الشَّمْسَ حَتَّى قَدِمَ

قریش کو خبر دی اور انہوں نے اس کو مٹو جانا اور رُزق دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سورج کو حتیٰ کہ آگیا وہ قافلہ

عَلَيْهِمْ قَبْلَ مَضِيِّ النَّهَارِ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ إِلَيْهَا بِالْأَبْصَارِ اَللّٰهُمَّ

ان پر دن چڑھنے سے قبل جبکہ وہ اس کی طرف دیکھ رہے تھے سر کی آنکھوں سے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ اَخْبَرَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جنہوں نے خبر دی

بَعْضَ صَحَابَتِهِ وَقَرَابَتِهِ بِحُلَّةٍ لِاُوَيْسِ الْقُرْنِيِّ وَشَفَاعَتِهِ

اپنے بعض صحابہ کو اور قرابتداروں کو اویس قرنی کے لباس کی اور شفاعت کرنے کی

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے

اَخْبَرَ السَّيِّدِيْنَ اَشْعَلَ الْعَيْنَيْنِ بَعِيْدًا مَا بَيْنَ مَنْكَبَيْنِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

خبر دی سیدین (عمر و علی رضی اللہ عنہما) کو کہ (اویس) روشن آنکھوں والے اور چوڑے کندھوں والے ہیں۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ اَخْبَرَ اَنَّهُ

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے خبر دی کہ اویس لگائے ہوئے ہونگے

ضَارِبًا بِدَقِيْقَةٍ اِلَى صَدْرِهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اپنی ٹھوڑی کو سینہ سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ اَخْبَرَ اَنَّهُ رَا مِنْ بَصْرَةَ اِلَى مَوْضِعِ

اور ان کی آل پر جنہوں نے خبر دی کہ وہ اپنی نظروں کو مقام

سُجُوْدِهِ وَوَاضِعَ يَمِيْنَهُ عَلٰى شِمَالِهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا

سجود پر لگائے ہوئے ہوں گے اور دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھے ہوں گے۔ اے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ اَخْبَرَ اَنَّ تَحْتَ مَنْكَبِهِ الْاَيْسَرَ

محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے خبر دی کہ اویس کے بائیں کندھے کے نیچے برص





لَبْعَةً بَيُّضَاءُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

کا سفید داغ ہوگا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَأَنَّه مُعْتَدِلٌ الْقَامَةِ شَدِيدُ الْأَدَمَةِ ذُو رَأْفَةٍ وَرَحْمَةٍ

پر جس محبوب نے خبر دی کہ اولیس میاں قد سخت گندم گول اور رافت و رحمت کے پیکر ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے

أَخْبَرَأَنَّه يَشْفَعُ فِي كَثِيرٍ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

خبر دی کہ اولیس اس امت کے بہت سے افراد کی شفاعت کریں گے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَخْبَرَ وَهُوَ كَانَ يَقْرَأُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس آقا نے خبر دی کہ وہ

الْقُرْآنَ وَيُبْكِي عَلَى نَفْسِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

قرآن پڑھتا تھا اور روتا تھا اپنے نفس پر۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَمَّى ابْنَ أُمِّ الْفَضْلِ الَّتِي جَاءَتْ

اور آپ کی آل پر کہ جس آقا نے ام الفضل کے بیٹے (عبداللہ) کا نام رکھا ابو الامراء و خلفاء کا باپ جنکو لیکر

بِهِ إِلَيْهِ حِينَ وَلَدَتْهُ أَبَا الْأَمْرَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

آپ کی بارگاہ میں آئی تھیں جبکہ اسے جنم دیا تھا " اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَن آتَاهُ الرُّوحَ الْأَمِينُ مِنْ

محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کے پاس آئے روح الامین

عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

رب العالمین کی طرف سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَرْكَبَهُ الْبُرَاقُ وَخَرَقَ السَّبْعَ الطَّبَاقَ

آپ کی آل پر جنہیں براق نے اپنے اوپر سوار کیا اور جنہوں نے بھاڑا ساتوں آسمانوں کو





بِبِأَشْرَةِ جَمَالِ الْجَلَالِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اپنے جلال جمال آمیز کی مدد سے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي زُفَّتْ عَلَيْهِ مُخَدَّرَاتُ الْكُونِينِ

اور آپ کی آل پر جن پر جمع کی گئیں کونین کی مستور اشیاء

وَأَسْرَارِ الْكُونِينِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اور کونین کے اسرار۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي شَرَقَتْ عَلَيْهِ أُمُورُ الدَّارِ بِنِ وَعُلُومُ

کی آل پر جس محبوب پر روشن ہوئے دارین کے امور اور

الثَّقَلَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

ثقلین کے علوم۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَتَتْهُ رُسُومُ الرُّسُلِ مُسَلِّمَةً عَلَيْهِ وَهُوَ بِالْأَفْقِ

آل پر جس محبوب کے پاس مرسلین کے سردار سلام پیش کرنے کیلئے حاضر ہوئے جبکہ آپ آسمان

الْأَعْلَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

بالا پر تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ أَقْبَلَتْ مَلُوكُ الْأَمْلاِكِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ تَسْعَى بَيْنَ يَدَيْهِ

پر کہ جس محبوب کی طرف متوجہ ہوئے ملوک کے بادشاہ درآئیکہ دوڑتے تھے ان کے آگے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

دُهَشْتُ بِجَبَالِهِ أَبْصَارُ سَكَّانِ الصَّفِيحِ الْأَسْهَى اللَّهُمَّ صَلِّ

کہ جن کے جمال سے مدہوش ہو گئیں بلند ترین مقام پر رہنے والوں کی آنکھیں۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَشَعَتْ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ ٹھک گئیں





لَهَيْبَتِهِ أَعْنَاقُ أَهْلِ السَّرَادِقَاتِ الْأَسْتَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جن کی ہیبت کے آگے گردنیں روشن خیموں والوں کی - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَضَعَتْ لِعِزَّتِهِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جھک گئے ان کی عزت کے لیے

رَعْوُسُ أَصْحَابِ صَوَامِعِ التُّورِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

تورانی عبادت گاہوں والوں کے سر - اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ شَخَصَتْ لِكَمَالِ مَجْدِهِ أَعْيُنُ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ بلند ہوئیں ان کے (مشاہدہ جمال) کے لیے

الْكُرُوبِيِّينَ وَالرُّوحَانِيِّينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کردہ بین اور روحانیوں کی نگاہیں - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وَقَفَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ صُفُوفًا مِّنْ

اور آپ کی آل پر کہ کھڑے ہوئے جن محبوب کے لیے ملائکہ مقربین

الْمُقَرَّبِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

صفیں باندھ کر - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي ابْتَهَجَتْ بِهِ حَطَايِرُ الْقُدْسِ بِأَوَّلِ رَجُلِ الْمَسْبُوحِينَ

پر کہ خوش ہو گئے جن کی بدولت مقدس محفوظ مکانات (عالم بالا کے) تسبیح کہنے والوں کی پہلی گونج سے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ

إِهْتَرَّ الْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ طَرِبًا بِرُؤْيَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

جھوم اٹھے عرش اعظم اور کرسی ان کے دیدار کی خوشی سے - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ يُنْتِ الْجَنَانُ وَالْحُورُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ مزین کیا گیا جنتوں اور خوبصورت حوروں کو



الْحَسَانُ فَرَحًا لِمَقْدَمِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ان کی تشریف آوری کی خوشی میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بِهِ افْتَخَرَ الْعُلَى عَلَى الْعَرَبِيِّ بِمَا

اور آپ کی آل پر کہ جن کے ساتھ فخر کیا بلندیوں نے پستیوں پر بسبب

رَأَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ان کے دیدار کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ الَّذِي انْكَشَفَتِ الْعُلُومُ بِهِ لِعَيْنِ الْمُخْتَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ

پر کہ منکشف ہوئے علوم بسبب ان کے پسندیدہ لوگوں کی نگاہوں پر۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَفَعَتْ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ اٹھائے گئے ان کی بدولت

لِصَاحِبِ الْأَنْوَارِ بِهِ الْأُسْتَارِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اہل انوار پر سے پر دے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَقَدَّمَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ إِلَى دَائِرَةِ وَمَا

اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی بدولت آگے بڑھے روح الامین اس دائرہ تک " نہیں ہے

مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہم میں سے کوئی فرشتہ مگر اس کے لیے معین مقام ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَالَ اللَّهُ لَهَا أَيُّهَا الْحَبِيبُ الْمُقَرَّبُ

اور آل سیدنا محمد پر کہ منرمایا اللہ تعالیٰ نے انھیں اے حبیب مقرب

تَهَيَّأ لِمَلَأَاتِ اللَّهِ وَحَدَاكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

تیار ہو جاؤ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَجَّهُ اللَّهُ فِي التُّورِ وَعِنْدَ

محمد پر اور آل سیدنا محمد پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے آراستہ کیا نور میں (انتہا درجہ) اور





التَّاهِي يَقْضِرُ الْمَطْوِلُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

انتہاء پر پہنچنے کے بعد کڑواہ معلوم ہوتی ہیں دراز قامتوں کی طولانیاں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سید محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَنْتَهَىٰ مُسْرَاةً إِلَىٰ مُسْتَوَىٰ يَسْمَعُ

اور آل سیدنا محمد پر جن کا معراج ختم ہوا اس مقام استواء پر کہ سنتے تھے

فِيهِ صَرِيرُ الْأَقْلَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اس میں کاتبان تقدیر کے قلموں کی آواز۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَارِعًا عَلَىٰ رَفْرِفِ التُّورِ إِلَىٰ أَفْقِ الْأَعْلَىٰ اللَّهُمَّ

سیدنا محمد کی آل پر جنہوں نے سیر فرمائی توران رفرف پر افق اعلیٰ تک۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طَارِعًا

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے پرواز کی

بِجَنَاحِ الْأَشْوَاقِ إِلَىٰ مَقَامِ دَنِي فَتَدَلِّي اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

اشواق کے پرووں کے ساتھ دنیٰ فتدلئی کے مقام تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَنْزَلَهُ فِي مَضِيْفِ الْكَرَمِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جنہیں اتارا اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کے مہمان خانہ میں

فِي رَوْضَةِ قَابِ قَوْسَيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

قاب قوسین کے سبزہ زار میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بَسَطَ لَهُ قَرَّاشَ الدُّنُوفِ رَاشٍ أَوْ

اور آپ کی آل پر کہ جن کے لیے بچھایا بچھانے والے نے بچھونا اُو دُنُفِ کے

أَدْنَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

قرب کا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي سَمِعَ مِنْ جَنَابِ الرَّفِيعِ الْأَعْلَىٰ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا

جس محبوب نے سنا رفیق اعلیٰ کی جناب سے "السلام عليك ايها





النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

النبي و رحمتہ اللہ و برکاتہ۔۔۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تَلَقَّاهُ الْحَبِيبُ بِالْأَكْرَامِ وَنَادَاهُ الْجَلِيلُ

اور آپ کی آل پر جن کی ملاقات کی حبیب اللہ نے عزت کے ساتھ اور نداء دی ان کو رب جلیل

بِالسَّلَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

نے سلام کے ساتھ۔۔۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ بِسَطِّ مُنْقَبِضِ رَوْعِيَّتِهِ وَأَنْسِ مُنْزَعِجَ وَحْشِيَّتِهِ اللَّهُمَّ

پر کہ اللہ تعالیٰ نے کشادہ فرمایا ان کے منقبض دل کو اور انس عطا کیا ان کے اضطراب و وحشت کو۔۔۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُودَى

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کو نداء دی گئی

بِمُخَاطَبَاتِ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ان مخاطبات کے ساتھ۔۔۔ پس وحی کی طرف اپنے عبد خاص کے جو وحی کی " لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُوشِفَ بَعَيْنُ وَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جنہیں مکاشفہ کرایا گیا اس آنکھ کے ساتھ

لَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الْكَرِيمَ وَ

"اللہ تحقیق دیکھا انہوں نے اس کو دوسری دفعہ اترتے" لے اللہ ان کو قائم فرما کرامت والے مقام محمود پر اور

إِلَيْهِ الْفَضِيلَةَ وَالْوَسِيلَةَ وَالذَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ الَّتِي وَعَدْتَهُ فِي

دے انہیں فضیلت اور مقام وسیلہ اور بلند ترین درجہ موقف عظیم میں جس کا تو نے ان کے ساتھ

الْمَوْقِفِ الْعَظِيمِ وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ صَلَوةً دَائِمَةً مُتَّصِلَةً

وعدہ فرمایا ہے۔۔۔ اور صلوات بھیج لے اللہ ان پر صلوات دائم متصل

تَتَوَالِي وَتَدُومُ وَيَلْغُهُ سَلَامُنَا فِي سَلَامِكَ وَصَلَاتُنَا فِي صَلَاتِكَ

جو لگاتار اور مسلسل ہو اور پہنچا انہیں ہمارا سلام اپنے سلام میں اور ہماری صلوات اپنی صلوات میں





اللَّهُمَّ وَإِتِهِ الْفَضِيلَةَ وَالْوَسِيلَةَ وَالشَّفَاعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ

لے اللہ اور عطا فرما انہیں فضیلت و وسیلہ اور شفاعت اور تمام فرما انہیں مقام محمود

الْمَحْمُودِ الَّذِي وَعَدْتَهُ الشَّفِيعَ الْمُرْتَضَى وَالرَّسُولَ الْمَحْتَبَى اللَّهُمَّ

میں جس کا تو نے وعدہ دیا ہے اس شفیع مرتضیٰ اور رسول محتبے کو۔ لے اللہ

سَبِّقِ الصَّلَاةَ كُلَّهَا وَالْبَرَكَاتِ وَالسَّلَامَ وَالرَّفْعَةَ وَالْعِزَّ وَالْأَسْنَاءَ

جلدی پہنچا تمام صلوات۔ برکات۔ سلام۔ رفعت اور عزت و سر بلندیاں

وَالشَّرْفَ وَالْكَرَامَةَ كُلَّهَا إِلَى قَبْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اور شرف و کرامت تمام کی تمام سیدنا محمد کی قبر انور تک۔ صلی اللہ علیہ

وَسَلَّمَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ اللَّهُمَّ إِنَّهُ نَهَايَةُ

وسلم و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ لے اللہ عطا فرما انہیں ان مطالب کی

مَا يُسْأَلُهُ السَّائِلُونَ وَمَا يُرْغَبُ بِهِ الرَّاعِبُونَ أَفْضَلَ وَأَطْيَبَ

استہداجن کا سوال کرتے ہیں سائل۔ اور جن کی رغبت رکھتے ہیں رغبت والے در آگیا لیکہ وہ بہت افضل پاکیزہ

وَأَمْرِكِي وَأَنْبِيَّ وَأَعْلَى وَأَقْرَبَ وَأَكْمَلَ مَا أُعْطِيَتْ أَحَدًا مِنْ

مصطفیٰ تر اور بہت افضول اور اعلیٰ اور قریب تر اور کامل تر ہیں ان تمام مطالب و مقامات سے جو تو نے عطا کئے

خَلْقِكَ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَةَ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اپنی تمام مخلوق میں سے کسی فرد کو۔ لے اللہ قبول فرما ہمارے نبی سیدنا محمد کی

الْكِبْرَى وَبَلِّغْهُ بِنظَرِكَ إِلَيْهِ نَهَايَةَ الْبُشْرَى اللَّهُمَّ بَلِّغْ رُوحَهُ

شفاعت کبریٰ اور پہنچا انہیں نظر عنایت سے بشارت کی استہداجت۔ لے اللہ پہنچا ان کی روح

الطَّاهِرَةَ مِنْ أَفْضَلِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ وَاجْزِهِ عَنَّا أَفْضَلَ وَ

مقدسہ کو ہماری طرف سے افضل ترین صلوات و تسبیحات اور انہیں جزا دے ہماری طرف سے افضل ترین اور

أَكْمَلَ مَا جَازَيْتَ نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ اللَّهُمَّ يَا رَبَّ الْحَبِيبِ

کامل ترین جزا ان تمام جزاؤں سے جو تیرے کسی بھی نبی کو امت کی طرف سے دی۔ لے اللہ اے حبیب محمد کے رب



مُحَمَّدٍ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى الْحَبِيبِ مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ الْحَبِيبُ مُحَمَّدًا

صلوٰۃ و سلام بھیج حبیب محمد پر جیسے کہ تو محبوب رکھتا ہے حبیب محمد کو

يَا رَبِّ بَلِّغْ سَلَامِي ذَاتِيهَا عَلَى الْمُصْطَفَى الْمُصْطَفَى النَّقِيِّ النَّقِيِّ وَيَا

اے اللہ پہنچا میرا سلام ہمیشہ مصطفیٰ مصطفیٰ تقی و نقی کو اور اے

رَبِّ بَلِّغْ سَلَامَنَا عَلَى الدَّوَامِ بِإِلَّا كَرَامٍ عَلَى شَفِيعِ الْبَرِيَاءِ وَلَا تُؤَاخِذْنَا

پروردگار پہنچا ہمارے سلام ہمیشہ عزت و اکرام کے ساتھ سب مخلوقات کے شفیع پر اور ہماری

بِالْخَطِيَايَا اللَّهُمَّ اجْعَلْ ثَوَابَ صَلَاتِي لِمَحْمُودِكَ الْمُتَّقِي وَسَلَّمَ

نحواں پر مواخذہ نہ فرما۔ اے اللہ میری صلوات کا ثواب محقق فرما اپنے قابل ستائش پاکیزہ رسول کے لیے اور سلام بھیج

عَلَيْهِ وَآلِهِ أَهْلِ الثَّقَى اللَّهُمَّ فَصِّلْ وَسَلِّمْ مِنَّا عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ

ان پر اور ان کی متقی آل پر۔ اے اللہ پس تو ہی صلوات و سلام بھیج ہماری طرف ان پر افضل ترین صلوات

وَأَكْمَلُ التَّسْلِيمِ فَإِنَّا لَا نَقْدِرُ قَدْرَةَ الْعَظِيمِ وَلَا نُدْرِكُ مَا يَلِيْقُ بِهِ مِنْ

اور کامل ترین تسلیمات کیونکہ ہمیں اندازہ نہیں ہے ان کی عظیم قدر و منزلت کا اور ہم نہیں جانتے ان کے شایان شان

الْإِحْتِرَامِ وَالْتَعْظِيمِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي الْمُصْطَفَيْنِ مَحَبَّةً وَفِي الْمُتَّقِرِينَ مَوَدَّةً

احترام اور تعظیم کو۔ اے اللہ بنا لیں اصطفاء میں محبت ان کی اور اہل قرب میں مودت ان کی

وَفِي الْأَعْلَى ذِكْرًا وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور اہل علویں ذکر ان کا۔ اور سلام ہو ان پر اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکات۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرْوُسُ

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جلوہ گر ہوئی ان کی رونق اور سرت کی عروس

بِهَجَّتِهِ وَسُرُورًا عَلَى سُنْفِ عُرْفَاتِ النَّعِيمِ وَقُصُورِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

جنتی نعمتوں والے بالا خانوں اور علات کی چھتوں پر۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرْوُسُ

و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جلوہ گر ہوئی ان کے انوکھے محاسن کی عروس





مَحَاسِنِهِ الْبَدِيعَةِ عَلَى مَبَانِي رُتَبَتِهِ الرَّفِيعَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

ان کے رتبہ عالیہ کی عمارات پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرُوسُ مَرْكَبِهِ الْوَجِيه

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جلوہ گر ہوئی ان کی آبرومند سواری کی عروس

عَلَىٰ مَجَلَا التَّنْوِيهِ وَالتَّنْزِيهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تعلیم و تنزیہ کی جلوہ گاہ پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرُوسُ مَرْكَبِهِ وَزَانَ فِي فَيْدَانِ

اور آپ کی آل پر کہ جن کا عروس مرکب جلوہ گر ہوا اور زینت پا گیا مسابقت کے میدان میں

الْمُسَابَقَةِ إِلَىٰ حَضْرَةِ الْمَلِكِ الدِّيَّانِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

جزا دینے والے بادشاہ کی بارگاہ کی طرف۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرُوسُ رِسَالَتِهِ عَلَىٰ الْكُوْنِيْنَ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کا عروس رسالت جلوہ نکلن ہوا کونین پر

وَأَدْمَبَيْنِ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

جبکہ آدم علیہ السلام تھے پانی اور کھجڑ کے درمیان۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرُوسُ وَصَالِهِ وَاسْتَوْلَىٰ يَوْمَ السُّتِّ

آل پر کہ جن کا عروس وصال جلوہ نکلن ہوا اور غالب آگیا روز الست کے موجودین پر جبکہ اللہ نے فرمایا یا کیا نہیں میں

بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

رب تمہارا ہوا تمہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں! اے اللہ صلوٰۃ و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرُوسُ عِزَّةِ الْمَتِينِ عَلَىٰ مَعَالِي قُصُورِ أَهْلِ عِلِّيِّينَ

آل پر کہ جلوہ گر ہوا ان کی پائیدار عزت کا عروس اہل علیین کے محلات کی بلند یوں پر

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جلوہ نکلن ہوا ان کے





عَرَّوْسُ مَظَاهِرِ الْإِنْسَانِيَّةِ عَلَى عُرَافِقِ الْعِنَايَةِ الرَّبَّانِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

مظاہر انسانیہ کا عروس عنایت ربانیہ کے آفاق کی پیشانیوں پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرَّوْسُ مَعَالِيهِ

فرماستینا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جلوہ نگن ہوا ان کے معتاد معالم و نشانات کا عروس

الْمُعْتَادَةِ عَلَى مَرَائِبِ الْيُوبَةِ أَهْلِ السَّعَادَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اہل سعادت کے پرچموں کے مراکز پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام صحیح

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرَّوْسُ سَعُودَةٍ وَشَهُودَةٍ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کی سعادت اور مشاہدہ حقیقت کا عروس جلوہ نگن ہوا

وَهُوَ فِي ظُهُورِ آبَائِهِ وَجُدُودِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جبکہ وہ اپنے آباء و اجداد کی اصلاہ میں تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرماستینا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّ عَرَّوْسُ ظُهُورِهِ وَفَشَا عَلَى نَمَارِقِ

اور سیدنا محمد کی آل پر کہ جن کا عروس ظہور جلوہ گر اور آشکار ہوا اختصام کے گدوں اور قالینوں پر

التَّخْصِيصِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَفَى الْبِعْرَاجَ بِجَسْمِهِ وَفَضَّلَهُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو معراج پر گئے اپنے جسم اقدس کے ساتھ اور فضیلت دی ان کو

اللَّهُ فِي غَيْبِ سَابِقِ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب ازل میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرماستینا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمْ تَكُنْ فَضِيلَةٌ إِلَّا سَبَقَ إِلَيْهَا وَلَمْ

آپ کی آل پر کہ جو محبوب ہر فضیلت کی طرف سبقت لے گئے اور نہیں تھا

تَكُنْ مَرْتَبَةٌ شَامِخَةٌ وَلَا مَنْزِلَةٌ فَآخِرَةٌ إِلَّا جَلَّ عَرَّوْسُ مَحْيَاةٍ

کوئی بلند مرتبہ اور نہ قابل فخر منزلت مگر جلوہ گر ہوا ان کی شرم و حیا کا عروس



عَلَيْهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اس پر لے اللہ صلوات و سلام نازل فرمائیے محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو

الْمُخَاطَبُ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ

مخاطب اللہ عزوجل کے اس فرمان کے "اور نہیں مبعوث فرمایا ہم نے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے

بَشِيرًا وَنَذِيرًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

بشیر اور نذیر بنا کر" لے اللہ صلوات و سلام نازل فرمائیے محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَادَ عَنَانَ التُّدْوَى وَسَادَةَ وَقَلْدَةَ اللَّهِ قَلَابِدًا

کہ جس محبوب نے کھینچی باگ مجلس مشاورت کی اور اس کے سردار بنے اور پنپائے انہیں اللہ تعالیٰ نے

التَّخْصِيصِ وَزَادَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اختصاص کے بار اور ان کو فرقیّت دی۔ لے اللہ صلوات و سلام بھیج سیدنا محمد پر اور

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي وَضَعَتْ لَهُ وَسَادَةَ التَّكْرِيمِ عِنْدَ

ان کی آل پر کہ جن کے لیے رکھا گیا تہمید عزت و تکریم کا ان کے تشریف لانے پر

وَرُودِهِ وَطَلَعَ شُعَاعُ سَجْفِ الْهُودِ بِحَمْدِ مَنْ مَطَالِعِ وَجُودِهِ اللَّهُمَّ

اور طلوع ہوئی شعاع سجدہ کے پردوں کی ان کے وجود مسعود کے مطالع سے۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوات و سلام نازل فرمائیے محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب

سَمَا فَوْقَ السَّمَوَاتِ وَالْمَلَائِكَةُ يَحْرُسُونَهُ وَمَشَى عَلَى

بلند ہوئے تمام آسمانوں پر جبکہ ملائکہ ان کی نگہبانی کر رہے تھے اور چلے اللہ تعالیٰ کے

مَظَاهِرِ عَرْشِ اللَّهِ وَالْحُجُبُ تَحْرُقُ دُونَكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

عرش کے مظاہر پر اور حجابات ان کے آگے سے پھاڑے جا رہے تھے۔ لے اللہ صلوات اور

سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي طَلَبَتْهُ الْمَلَائِكَةُ

سلام نازل فرمائیے محمد پر اور آپ کی آل پر کہ پہلی صفوں والے ملائکہ جن کی تشریف آوری کی





مُبَشِّرَاتٌ بِقُدُومِهِ وَأَفَادَ مَسْرَاهُ مِنْ مَا شَاءَ بِدَقَائِقِ بَحْرِ عُلُومِهِ

بشارت دینے والے تھے اور فیضان بختا ان کے اسرار نے ان کے ساتھ چلنے والوں کو ان کے علمی سمندروں کے ذائقے کا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي وَهَبَ إِيَّاهُ الْهَيْبَةَ وَأَدِيرْتُ عَلَيْهِ كُؤُوسَ الْمَحَبَّةِ

کہ جس محبوب کو ہیبت کی خلعت بشری عطا کی گئی اور ان پر گردش میں لائے گئے محبت کے جام

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو متمکن ہوئے

اسْتَوَى عَلَى كُرْسِيِّ الْجَلَالِ مُنْتَبِطًا وَعَلَى أَرَائِكِ الْكَمَالِ مُتَّكِيًا

کرسی جلال پر سواری کی مانند اور کمال کی مزین کرسی پر اوٹ لگائے ہوئے تھے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی

كُونَ الْكُونَ مِنْ أَجَلِهِ وَجَمِيعَ مَا فِيهِ تَسْتَظِلُّ بِظِلِّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ

خاطر جہان بنایا گیا اور اس جہان میں جو کچھ ہے وہ انہیں کے سایہ میں پرورش پارہے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَطَعَ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے طے کیا

مَقَارِةَ الدُّنْيَا عَلَى جَوَادِ الْقَنَاعَةِ وَالْجُودِ وَهُوَ خَلَاصَةُ الْجُودِ

دنیا کے بیابان کو قناعت اور جود کے رہوار پر اور وہ خود خلاصہ و جوہر ہیں جو خداوندی کے

فِي الْوُجُودِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

جملہ موجودات میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي ارْتَفَى إِلَى حَضْرَةِ الْحَقَائِقِ لَا يُسْبِقُهُ إِلَيْهَا

آل پر کہ جو محبوب بلند ہوئے حضرت حقائق تک کہ نہیں سبقت لے جا سکتا ان پر ان حقائق کی طرف کوئی





سَابِقُ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اہل سبقت۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ الَّذِي أُرْتِعِنِي حَدَائِقَ الْقُرْبِ وَالْوَصَالِ وَوَقَفَ عَلَيَّ

جن کو کھلایا اور میرا کیا گیا قرب و وصال کے باغات میں اور جا ٹھہرے نجات

شَاطِئِ النَّجَاةِ وَالْوَصَالِ اللَّهُ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

و وصال کے کنارے پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَدَارَ اللَّهُ عَلَيْهِ كُؤُوسَ الْمَعْرِفَةِ

اور آپ کی آل پر کہ جن پر گردش میں لایا اللہ تعالیٰ معرفت کے جام

وَمَرْقَاهُ اللَّهُ إِلَى مَقَامٍ يَجُلُّ عَنِ التَّكْيِيفِ وَالصِّفَةِ اللَّهُمَّ

اور بلندی بخشتی ان کو ایسے مقام تک جس کی کیفیت و حالت بیان سے باہر ہے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جنہیں

عَلَّمَهُ اللَّهُ جَوَاهِرَ الْعُلُومِ فِي الْحَضْرَةِ وَكَلَّمَهُ اللَّهُ عَلَى بَسَاطِ

اللہ تعالیٰ نے سکھائے جو اہر علوم اپنی بارگاہ میں اور کلام کیا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی استعداد

الْقُدْرَةِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْقَادِرُ الْقَادِرُ هُوَ الْقَادِرُ وَالْقُدْرَةُ

اور قوت برداشت کے مطابق۔ اے اللہ تو ہی صاحب قدرت ہے پس حقیقی صاحب قدرت وہی قادر ہے اور اسکی

الْقَادِرُ وَالْقُدْرَةُ قُدْرَةٌ وَفِي الْقُدْرَةِ قُدْرَةٌ وَفِي التَّقْدِيرِ

قدرت قادر ہے اور اس کی قدرت ہی حقیقی قدرت ہے اور اس کی قدرت میں ہی قدرت ہے اور اس کی تقدیر میں

قُدْرَةٌ وَفِي التَّقْدِيرِ قُدْرَةٌ قَادِرٌ رَبِّي قَدَّارٌ قَضَاءٌ فَفَقْهَرٌ

قدرت ہے اور تمام تقدیرات میں قادر کی قدرت (مؤثر) ہے جو میرا رب ہے۔ اس نے نزلی فیصلے خاص انداز پر کئے

أَقُولُ بِأَقْرَارٍ مَعَ قَرَقَشٍ فِي قِيْقُوشٍ بِحَقِّ قَلَانِسٍ





الْقُطْبِ الْمَقَامِ الْقَنَامِ فَقَرِّرِي تَقْبِلُ بِقَبُولِ قُرْبٍ قَدَسٍ

ان الفاظ کے معنی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور

عَنِ الْقَرَامِ قِيَا قِيَوْمٍ بِقَوْمِهِا فِي قِيَاتٍ بِقَفْقَفَةٍ فَفَقْفَةٍ فَفَقْرٍ

صاحب تصنیف ہی جانتا ہے

قَطَا طُنٍ وَقَسِمِ فَقْنَهُ يَا قَوِيُّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي فَتَحَ لَهُ الْبَابَ وَرَفَعَ عَنْهُ

محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے لیے اللہ نے اپنے (حرمِ نازکا) دروازہ کھولا اور ان سے

الْحِجَابَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

حجاب اٹھا دیا۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ الَّذِي اخْتَرَقَ الْأَفَاقَ عَلَىٰ مَتْنِ الْبُرَاقِ اللَّهُمَّ صَلِّ

آل پر جس محبوب نے پھاڑا اور عبور کیا آفاق کو براق پر۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَفَعَتْ سَبْعَ

وسلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جو بلند ہوئے سات

الطَّبَاقِ إِلَىٰ حَضْرَةِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا

طبقاتِ سادہ پر تا آسمانوں اور ہر شہنشاہِ خلاق کی بارگاہِ ملک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَارَ بِهِ جَبْرِيْلُ إِلَىٰ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کو لے گئے جبریل علیہ السلام بارگاہِ رضا

حَضْرَةِ الرِّضَا وَتَنَزَّكَ فِي الرِّيَاضِ الدُّرَّةِ الْبَيْضَاءِ اللَّهُمَّ

ملک اور جنہوں نے سیر فرمائی سفید چمکتے موتی جیسے باغات میں۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کو





أَيُّقَظُهُ جَبْرِيْلُ مِنْ مَنَامِهِ وَحَمَلَهُ إِلَى مَحَلِّ تَعْظِيمِهِ وَآكَرَامِهِ

بیدار کیا جبریل نے خوابِ نریشیں سے اور اٹھا کر لے گیا انہیں ان کی عظمت و کرامت کے مقام تک

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر وہ محبوب

الَّذِي لَهَا جَمْعُ الْبَرَقِ عِنْدَ رُكُوبِهِ عَلَيْهِ نَادَا أَهَ جَبْرِيْلُ

کہ جب سرکشی کی براق نے ان کے سوار ہوتے وقت تو جبریل نے اس کو کہا

أُسْكُنْ فِيمَا رَكِبَكَ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنْهُ وَلَا أَعَزُّ مِنْهُ لَدَيْهِ

سکون سے کام لے کیونکہ تمہیں سوار ہوا تجھ پر ان جیسا عزیز والا نزدیک اللہ تعالیٰ کے اور ان جیسا عزیز اس کی بارگاہ میں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ ان کی وجہ سے

أَرْفَضَ الْبَرَقُ مِنْهُ عُرْقًا وَارْتَعَدَتْ قَرَائِصُهُ حَيَاءً وَفُرْقًا

براق کا پسینہ چھوٹ گیا اور لرزنے لگے اس کے اعضاء از روئے شرمندگی اور خوف کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي سَارَ بِهِ الْبَرَقُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَقَطَعَهَا بِالطُّوْلِ

کہ جنہیں لے چلا براق درمیان آسمان اور زمین کے اور طے کیا اس نے دونوں کو

وَالْعَرْضِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

طول اور عرض میں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي فَخَرَتْ بِهِ الْأَرْضُ الْمُقَدَّسَةَ بِمَسِيرَةِ

آل پر کہ فخر کیا ارض مقدسہ نے ساتھ ان کے اس کی طرف تشریف لے جانے

إِلَيْهَا وَأَشْرَقَتْ الْأَرْضُ بِوُطْئِهِ عَلَيْهَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کی وجہ سے اور جگمگا اٹھی وہ زمین آپ کے پاؤں ناز رکھنے سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما





عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي شَرَّفَ اللَّهُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ مشرف فرمایا اللہ تعالیٰ نے

الْمُعْرَاجِ بِرُقِيَّتِهِ عَلَيْهِ وَأَكْرَمَ اللَّهُ الْبُرَاقَ بِدُنُوبِهِ مِنْهُ وَنَظَرَهُ إِلَيْهِ

معراج (نورانی بیڑھی) کو ان کے اس پر چڑھنے سے اور عزت بخشی براق کو آپ کے اس سے قریب ہونے اور نگاہوں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

فوانے سے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ

الَّذِي أَيْنَعَهُ غُصْنٌ وَصَالِهِ وَرَاقٌ وَأَخْتَرَقَ بِهِ الْبُرَاقُ مَسَاحَةَ

کہ پھلدار ہوئی ان کی شاخ وصل اور خوش منظر اور عبور کیا آپ کی وجہ سے براق نے آفاق کی

الْأَفَاقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

مسافت کو۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ

مُحَمَّدٍ الَّذِي كَسَاهُ اللَّهُ بِهَيْجَةِ الْإِبْتِهَاجِ وَرَقَّاهُ اللَّهُ مَعَالِمَ

اللہ تعالیٰ نے پہنائی انہیں مسرت و فرحت کی خلعت اور بلند فرمایا ان کو معراج کے بلند کنارے

فَنَّةِ الْمُعْرَاجِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

کے معالم تک۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي فَتَحَ لَهُ خَازِنُ السَّمَاءِ الْبَابَ وَلَانَ لَهُ

کی آل پر کہ جس محبوب کے لیے آسمان کے نگران فرشتہ نے دروازہ کھولا اور نرم و نیاز مندانه انداز میں

فِي الْخِطَابِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

گفتگو کی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ

مُحَمَّدٍ الَّذِي حَيَّاهُ كُلُّ خَازِنٍ مِّنْ خَزَائِنِ السَّمَوَاتِ بِالتَّنْزِيهِ

سلام پیش کیا تمام آسمانوں کے نگران ملائکہ میں سے ہر ایک نے پاکیزگی

وَالْتَبْجِيلِ وَقَابَلَهُ بِالتَّرْحِيْبِ وَالتَّقْبِيلِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور تعظیم کے ساتھ اور پیش آئے انہیں مرحبا کہتے اور دست بوسی کرتے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل،





عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ

فرماستینا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن پر نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے (یہ قول)

وَجَلَّ عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَأَى بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ اللَّهُمَّ

اپنی کتاب میں "البتہ تحقیق دیکھا انہوں نے اس کو افقِ مبین پر۔" اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي فُتِحَتْ

صلوٰۃ و سلام نازل فرماستینا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے لیے کھولے

لَهُ السَّمَوَاتُ بِأَبَابِهَا وَاخْتَرَقَ حَبْءَ الْعِزَّةِ حَبَابًا حَبَابًا اللَّهُمَّ

تمام آسمانوں کے دروازے یکے بعد دیگرے اور عبور کئے جناباتِ عزت یکے بعد دیگرے۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرماستینا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کے آگے

جِبْرِيلُ يَسِيرُ أَمَامَهُ وَالْمَلٰئِكَةُ خَلْفَهُ وَقَدْ أَمَهُ وَكَانَتْ الْمَلٰئِكَةُ

چلتے تھے جبریل اور دوسرے ملائکہ پیچھے اور آگے تھے (بطور سپاہیوں کے) اور ملائکہ ان کو اپنے جلو میں لیے

تَحْفَهُ وَالْبَشَائِرُ تَرْفَعُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

ہوئے تھے اور بشارتیں ان کا احاطہ کئے ہوئے تھیں۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرماستینا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَلَقَّتْهُ الْمَلٰئِكَةُ بِالتَّرْحِيبِ وَ

آپ کی آل پر جن کی ملاقات کی ملائکہ نے مرحبا کہتے ہوئے اور

بَشَّرَتْهُ الْأَنْبِيَاءُ بِالْمَحَلِّ الرَّحِيبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

بشارت دی انبیاء نے کثادہ مقام کی۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَتْ الْمَلٰئِكَةُ

ستینا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ ملائکہ جن کے گرد

حَوْلَهُ صَافِقُونَ وَبِهِ حَافِقُونَ وَبِقُدْرَاهُ عَارِفُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ

منفیس باندھے ہوئے تھے اور ان کو اپنے جلو میں لیے ہوئے تھے اور ان کی قدر کو پہچانتے تھے۔ اے اللہ صلوات





وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي حَفَّتْ بِهِ

وسلام نازل فرما سیتا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ گھیرا طولا ان کے گرد

الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ الْمَتَوَجَّهُ إِلَىٰ سِتْرِ الْجَلَالِ الْمَدْبُوحَةُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَ

ملائح نے جبکہ وہ متوجہ تھے پردہ جلال کی طرف " سر جھکائے۔ اے اللہ صلوٰۃ و

سَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَلَّمَ عَلَيْهِ أَبُوهُ

سلام فرما سیتا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کو سلام پیش کیا ان کے باپ

أَدَمُ وَجَدَّامَعَهُ حَدِيثٌ عَمْدٍ تَقَادَمَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی

آدم علیہ السلام نے اور تازہ کیا ان کے ساتھ عمدہ حدیث کی گفتگو کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَأَلَهُ أَدَمُ عَنْ حَالِهِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن سے دریافت کیا حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا حال اور

وَبَشَّرَهُ بِبَيْلٍ وَصَالِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

بشارت دی انہیں بیل و بیل و بیل کے حصول کی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیتا محمد پر اور

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَأَدَمُ بِرُؤْيَيْتِهِ وَاسْتَبَشَّرَ بِاشْرَاقِ طَلْعَتِهِ

آپ کی آل پر کہ جن کے دیدار سے مسرور ہوئے آدم علیہ السلام اور خوش و خرم ہوئے ان کی طلعت زیبکے انوار

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیتا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن کے

انْتَشَرَتْ دُرَرُ الْفَاظِهِ فَالْتَقَطَهَا الْمَلَائِكَةُ عُلُومًا وَانْتَضَمَتْ

الفاظ کے موتی بھرے تو انہیں ملائکہ نے چن لیا از روئے علوم راسرا کے اور مرتب ہوئے

فَوَائِدُهُ فَتَزَيَّدَتْ بِهِ السَّمَاءُ نُجُومًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا

ان کے فوائد تو مزین ہوئے آسمان ساتھ ان کے از روئے تاروں کے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیتا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي صَعَدَ يَخْتَرِقُ الْحُجُبَ وَسَبَقَ

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو بلند ہوئے حجابات غطت کو عبور کرتے ہوئے سبق لے گئے





بِصُعُودِهِ الْبُرُقِ وَالسُّحْبِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ایسی بلند پروازی کی وجہ سے برق اور سحاب پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَتْ الْمَلَائِكَةُ تُبَجِّلُهُ وَالْمُنَادِي

اور آپ کی آل پر کہ ملائکہ جن کی تعظیم کرتے تھے اور ندا دینے والا

يُنَادِي هَذَا الَّذِي تَشَقَّ لَهُ قَبْرُ السَّمَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

پکار کر کہتا تھا یہی ہیں وہ جن کے لیے توڑا گیا آسمان کا چاند۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى لِبَطَالَةِ الْأَنْوَارِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے سیر فرمائی انوار النبیہ کے مطالعہ کے لیے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب

سَرَى وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا الَّذِي رُدَّتْ لَهُ شَمْسُ النَّهَارِ اللَّهُمَّ

شب امراء چلے اور ندا دینے والا پکار پکار کر کہہ رہا تھا یہی ہیں جن کے لیے سورج لوٹایا گیا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جنہوں نے سیر فرمائی

إِلَىٰ حَضْرَةِ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

بارگاہ ذوالجلال و الاکرام تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَالْمُنَادِي يُنَادِي

محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے معراج فرمائی اور منادی حق اعلان کر رہا تھا

هَذَا خَيْرُ الْأُمَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

یہی ہیں سب امتوں کے سردار۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى إِلَىٰ أَرْفَعِ مَكَانٍ وَمَقَامٍ

آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے معراج فرمائی بلند ترین مکان اور اعلیٰ مقام و مرتبہ تک





اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں

الَّذِي سَرَى وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا عَدْرُوسُ دَابِرِ السَّلَامِ

نے معراج فرمایا اور منادی حق اعلان کر رہا تھا یہی ہیں دولہا دارالسلام کے

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

الَّذِي سَرَى إِلَى مَحَلِّ التَّعْظِيمِ وَالتَّوْقِيرِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

جو معراج میں پہنچے تعظیم و توقیر کے (اعلام مقام نبی - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَالْمُنَادِي

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے معراج فرمایا اور منادی حق

يُنَادِي هَذَا ابْشِيرُ وَنَذِيرُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اعلان کرتا تھا یہ ہیں بشیر و نذیر - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَقَدْ خَصَّهُ

محمد پر اور آپ کی آل پر جنہوں نے معراج فرمایا جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختص فرمایا

اللَّهُ بِرُؤْيَاةِ اللَّهِ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اپنے دیدار ذات کے ساتھ - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا

آل پر جنہوں نے معراج فرمایا اور منادی حق اعلان کر رہا تھا یہی ہیں وہ جو

خَيْرٌ مَنْ تَبَّأَهُ اللَّهُ وَأَصْطَفَاهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

بہتر ہیں ان تمام حضرات سے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا اور منتخب فرمایا اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى إِلَى

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے معراج فرمایا





مَنْزِلَةٌ عِنْدَ اللَّهِ ط اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم منزلت تک۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَالْمُنَادِي يُنَادِي

آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے معراج فرمایا اور منادی حق اعلان کرتا تھا کہ

هَذَا حَبِيبُ اللَّهِ ط اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے حبیب۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى إِلَى قَابِ قَوْسَيْنِ

اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب نے معراج فرمایا مقام قرب میں کمان کے دو کناروں کی مقدار

أَوْ أَدْنَى اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

بلکہ اس سے بھی قریب تر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي سَرَى وَالْمُنَادِي يُنَادِي هَذَا

آل پر کہ جس محبوب کے معراج پر منادی حق اعلان کر رہا تھا یہی ہیں کہ

الَّذِي نَبَّأَهُ اللَّهُ وَأَدْمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ اللَّهُمَّ صَلِّ

جنہیں اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت عطا کیا جبکہ آدم علیہ السلام پانی اور بچھڑ میں تھے۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَعْنَى

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جو محبوب مصداق ہیں

بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى

اللہ تعالیٰ کے اس قول کا "اللہ وہ ہے جس نے مبعوث فرمایا اپنے رسول کو ہدایت اور

وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ط

دین حق کے ساتھ تاکہ غالب کرے اسے تمام ادیان پر اور کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور گواہ

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَبَدًا أَبَدًا إِلَى

محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ صلوٰۃ بھیجے اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کی آل پر ہمیشہ اور لا تعداد تا





يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَسْمَعُ كَلَامِي وَتَرَى مَكَانِي وَتَعْلَمُ

قیام قیامت۔ اے اللہ بے شک تو سنتا ہے میرا کلام اور دیکھتا ہے میرا مکان اور جانتا ہے

سِرِّي وَعَدْلَانِيَّتِي لَا يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِّنْ أَمْرِي وَأَنَا الْبَائِسُ

میرا باطن اور ظاہر۔ نہیں مخفی تجھ پر کوئی شئی میرے معاملات سے۔ میں مقصبت زدہ محتاج اور

الْفَقِيرُ الْمُسْتَغِيثُ الْمَسْتَجِيرُ الْوَجِلُ الْمَشْفِقُ الْمَقْرُّ الْمَعْتَرِفُ

فریادی ہوں۔ پناہ کا طلب گار ہوں۔ خوفزدہ۔ ڈرنے والا ہوں۔ اقراری اور معترف ہوں

بِذَنْبِي أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمَسَاكِينِ وَأَبْتَهْلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ الْمَذْنِبِ

اپنے گناہوں کا میں سوال کرتا ہوں تجھ سے مانند مساکین کے اور نزاری کرتا تیری طرف مانند نزاری کرنے والا گناہگار

الذَّلِيلُ وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيرِ وَدُعَاءَ مَنْ

ذلیل کے اور دعا کرتا ہوں تجھ سے مانند دعا کرنے خوفزدہ اور آفت زدہ کے اور مانند دعا اس

خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتَهُ وَفَاضَتْ لَكَ عِبْرَتَهُ وَذَلَّ لَكَ جِسْمُهُ

شخص کے کہ جھکی ہے اس کی گردن تیرے لیے اور ابل پڑے ہیں آنسو اس کے تیرے لیے اور مطیع فرمان ہوا اس کا جسم

وَرَعِمَ لَكَ أَنْفُهُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي بِدُعَائِكَ شَقِيًّا وَكُنْ لِي

تیرے لیے اور خاک آلود ہوا اس کا ناک تیرے لیے۔ اے اللہ مجھے نہ بنا اپنی دعا میں بد بخت محروم اور ہومیرے حق میں

رءُ وَفَارِحِيًّا يَا خَيْرَ الْمَسْئُولِينَ وَيَا خَيْرَ الْمُعْطِينَ اللَّهُمَّ لَكَ

رہوف رحیم۔ اے بہتر سب سوال کئے ہوؤں سے اور بہتر سب عطا کرنے والوں سے۔ اے اللہ تیرے ہی لیے

صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَجِيَّايَ وَمِهَابَتِي وَإِلَيْكَ مَا بِي وَلَكَ مَا بِي تَرَانِي

ہے میری نماز اور قربانی اور میری زندگی اور موت اور تیری طرف ہے میرا رجوع۔ اور تیرے ہی ملک میں ہے اے رب

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُوا ضَعْفَ قُوَّتِي وَقِلَّةَ حِيلَتِي وَهُوَ إِنْ عَلِي

میری دراشت۔ اے اللہ تیری طرف ہی شکایت کرتا ہوں اپنی ناتوانی کی اور اسباب کی قلت اور لوگوں کے ہاں بے قدری

النَّاسِ رَبِّ النَّاسِ إِلَى مَنْ تَكَلَّمُنِي إِلَى عَدُوِّ يَتَجَهَّمُنِي أَمْ إِلَى

کی اے رب تمام لوگوں کے مجھ کس کے سپرد کرتا ہے؟ اس دشمن کے جو مجھ پر اچانک حملہ آور ہو یا طرف



قَرِيبٌ مَّمْلُكَةٌ أَمْرِي إِنْ لَمْ تُكُنْ سَاخِطًا عَلَيَّ فَلَا أَبَالِي غَيْرَ أَنْ

اس قریبی کے جسے تو نے میرے امر کا مالک بنا دیا ہے، اگر تو مجھ پر ناراض نہ ہو تو مجھے (ان کی پرواہ نہیں مگر یہ کہ تیری

عافیتک اَوْسَعُ لِي اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَكْثَرَ ذِكْرِكَ

عافیت میرے لیے بہت وسیع ہے۔ اے اللہ مجھے اس طرح بنا کہ تیرا ذکر زیادہ کروں اور تیرا ذکر بکثرت کروں

وَأَتَّبِعُ نَصِيحَتَكَ وَأَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ اللَّهُمَّ إِنَّ قُلُوبَنَا وَ

تیری نصیحت پر عمل پیرا رہوں اور تیری وصیت کو نگاہ میں رکھوں۔ اے اللہ بے شک ہمارے دل اور

نَوَاصِينَا وَجَوَاهِرَ حَنَابِيدِكَ لَمْ تَمْلِكْنَا مِنْهَا شَيْئًا فَاذْ فَعَلْتَ

پیشانیوں اور جملہ اعضاء تیرے دست قدرت میں ہیں تو نے ان میں سے کسی کا ہمیں مالک نہیں بنا یا پس جب تو نے کیا

ذَلِكَ يَنَافِكُنْ أَنْتَ وَوَلِيِّنَا وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ اللَّهُمَّ

ہمارے ساتھ یہ معاملہ تو خود ہمارا متولی امور ہو اور ہمیں گامزن فرما سیدھی راہ پر۔ اے اللہ

اجْعَلْنِي أَحْسَنَكَ كَأَنِّي أَرَاكَ أَبَدًا حَتَّى الْقِيَامِ وَأَسْعِدْنِي

مجھے بنا اے اس طرح کہ ڈروں تجھ سے گویا کہ تجھے دیکھ رہا ہوں (یہ حال ہمیشہ برقرار ہو یہاں تک کہ میں تجھ سے ملاقات کروں اور مجھے سعادتمند

بِتَقْوَاكَ وَلَا تَشُقِّنِي بِمَعْصِيَتِكَ وَأَرْضِنِي فِي قَضَائِكَ وَبَارِكْ

بنا تقویٰ کے ساتھ اور بد بخت نہ بنا اپنی معصیت کے ساتھ مجھے اپنی قضاء پر راضی فرما اور میرے لیے برکت دے

لِي فِي قَدْرِكَ حَتَّى لَا أَحِبَّ تَعْجِيلَ مَا أَخْرَجْتَ وَلَا تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ

اپنی تقدیر میں حتی کہ میں نہ پسند کروں اس امر کی تعجیل جسے تو نے مؤخر کیا اور نہ اس کی تاخیر جسے تو نے جلد موجود

وَاجْعَلْ غَنَائِي فِي نَفْسِي اللَّهُمَّ الطُّفْ بِي فِي تَيْسِيرِ كُلِّ

کیا اور پیدا فرما استغناء میرے دل میں۔ اے اللہ رُحمت فرما مجھ پر ہر مشکل کو آسان

عَسِيرٍ فَإِنَّ تَيْسِيرَ كُلِّ عَسِيرٍ عَلَيْكَ يَسِيرٌ وَأَسْأَلُكَ الْيُسْرَ وَ

فرمانے میں۔ کیونکہ ہر مشکل کو آسان کرنا تجھ پر سہل ہے اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے سہولت اور

الْمَعَاْفَاتِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ اعْفُ عَنِّي فَإِنَّكَ عَفْوٌ

عفو و درگزر کا دُنیا و آخرت میں۔ اے اللہ مجھ سے درگزر فرما بے شک تو درگزر فرمانے والا





كَرِيمٌ وَأَسْأَلُكَ بِمَكُونَاتِ مَحْرُوسَاتِ رَحْمَتِكَ وَبِلَوَائِحِ رَأْفَتِكَ

کریم ہے اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیری رحمت کے پرشیدہ محفوظ خزانے کے طفیل اور تیری رأفت کے انوار کے صدقہ میں

وَبِجَلَالِ عَظِيمِ نِعْمَتِكَ أَنْ تَجْعَلَ عَلَيَّ مُحِيطًا بِكُلِّ شَيْءٍ ظَاهِرَةٍ

اور تیری عظیم نعمتوں کی جلالت کے نوسل سے کہ تو میرے علم کو محیط بنا دے ہر چیز پر ظاہری

وَبِاطْنَةٍ وَرَفِيعَةٍ وَجَلِيلَةٍ أَوَّلِهِ وَأَخِرُهُ فَاتِحَتِهِ وَعَاقِبَتِهِ حَتَّى

اور باطنی بر رفیع اور جلیل پر اول و آخر پر اور آغاز و انجام پر حتی کہ میں

أَغْرَقَ فِي إِنْبَسَاطِ أَسْرَارِ وَحْدَتِكَ وَأَنْتِشَارِ دَقَائِقِ فَضْلِكَ

مستغرق ہو جاؤں تیرے اسرار وحدت کے پھیلاؤ اور تیرے دقائق فضل کی دستوں میں

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نُورِ الْحَقَائِقِ

بیشک تو حمید مجید ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما حقائق غیبیہ کے نور پر

الْغَيْبِيَّةِ الْمُسْتَكْنَةِ فِي وَحْدَةِ الذَّاتِ الْوَحْدَانِيَّ وَسِرِّ الدَّوَاتِ

جو مستور ہیں ذات وحدانی کی وحدت میں اور موجودات غیبیہ کے

الْعَيْنِيَّةِ الْبَارِزَةِ فِي مَرَاتِبِ الْوُجُودِ الْكُونِيَّ الْخَاقَانِيَّ مُحَمَّدٍ

سیر حقیقت میں جو ظہور پذیر ہیں وجود خارجی خاقانی کے مراتب میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں

السَّانِي لِمَرْضَانَا وَالْهَادِي لِمَنْ ضَلَّ مَنَّا حَبِيبِ الْخَالِقِ وَ

جو شفا بخشنے والے ہیں ہمارے مریضوں کو اور ہدایت دینے والے ہیں ہمارے گمراہوں کو جو حبیب ہیں خالق اور

الْخَلْقِ وَاسْطَةَ الْإِرْتِبَاطِ بَيْنَ الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ وَرَابِطَةَ

مخلوق کے، ذریعہ ربط ہیں ذات و صفات کے درمیان اور رابطہ اتصال و اتحاد

الْإِلْتِيَامِ بَيْنَ الصِّفَاتِ وَالْأَفْعَالِ مَنْ تَمَيَّزَ بِحَقِيقَتِهِ الْعَالِيَةِ

ہیں درمیان صفات اور افعال کے وہ ذات اقدس کہ ممتاز و نمایاں ہوئے ان کی حقیقت عالیہ کے طفیل

بُطُونِ الْإِحْدِيَّةِ عَنِ ظُهُورِ الْوَاحِدِيَّةِ وَتَفَرُّدِ بَظِلِّهِ الْعَامِرِ

احدیت کے بطون و اسرار واحدیت کے آشکار اور نمایاں آثار سے اور منفرد ہوا ان کے محیط اور شامل ظل رحمت کے طفیل





الْجُؤْبُ عَنِ الْإِمْكَانِ كَمَلَتْ بِهِ الْإِنْسَانِيَّةُ وَظَهَرَتْ بِهِ

و جب امکان سے۔ انہیں کے ذریعے انسانیت کامل ہوئی اور انہیں کی بدولت رحمانیت باری کا

الرَّحْمَانِيَّةُ لَوْلَا نَزْوُلُهُ لَمَا تَعَدَّدَ الْوَاحِدُ وَلَوْلَا عُرُوجُهُ لَمَا تَخَدَّدَ

ظہور ہوا۔ اگر ان کا نزول (عالم عناصر کی طرف) نہ ہوتا تو وحدت کثرت میں تبدیل نہ ہوتی اور اگر ان کا عروج نہ ہوتا تو کثرت میں

الْمُتَعَدَّدُ الْوَاحِدُ حَقِيقَتُهُ وَالْمُتَعَدَّدُ صُورَتُهُ وَهُوَ الْفَاعِلُ

وحدت کی جلوہ گری نہ ہوتی۔ واحد ہے حقیقت ان کی اور متعدد ہیں صورتیں اور امثال ان کی وہ فاعل و مؤثر بھی

الْمُنْفَعِلُ وَالْمُتَرَقِّي الْمُنْتَزِلُ أَدْمُومٌ وَمَنْ بَعْدَهُ نُوَابِئُهُ وَصُورُهُ

ہیں اور منفعل و متاثر بھی، صاحب ارتقار و عروج بھی اور صاحب تنزل بھی حضرت آدم اور بعد اسی انبیاء و رسل بھی ان کے نائب ہیں اور

ظَلَالِهِ وَجَبْرِيلُ وَمَنْ تَحْتَهُ أَتْبَاعُهُ وَشُعَاعَاتُ شَمْسٍ جَمَالِهِ

ان کے نخل و عکس جبریل اور ان کے ماتحت ملائکہ بھی ان کے نائبدار ہیں اور ان کے آفتاب جمال کی شاخیں ہیں

النُّورِ الْقُدْسِيِّ الْمْتَشَعِّعِ فِي الظَّلَالِ وَالْكَمَالِ الْإِلَهِيِّ وَالظَّاهِرِ فِي

وہ نور قدسی ہیں جو ضوئاً نکلے ہے ظلال اور کمال الہی میں اور ظہور فرماتے

الْجَلَالِ وَالْجَمَالِ الَّذِي هُوَ نُورٌ الْأَنْوَارِ وَسِرٌّ الْأَسْرَارِ

جلال و جمال میں وہ نور الانوار ہے اور سر الاسرار

سِرِّيَّتُهُ فَوْقَ نُورِيَّتِهِ وَنُورِيَّتُهُ فَوْقَ سِرِّيَّتِهِ نُورٌ بِمَا هُوَ

کا سر و باطن ان کی نورانیت سے زائد ہے اور نورانیت سر و باطن سے زائد نور ہے

سِرٌّ وَسِرٌّ بِمَا هُوَ نُورٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِهِ إِلَيْكَ فِي أَنْ

سر اور مخفی ہونے کے اور سر و باطن ہیں بح نور و ظہور کے۔ اے اللہ میں ان کے ساتھ توسل کرتا ہوں تیری بارگاہ میں

تَشْفِيئِي وَتُصَحِّحِي وَتُقَوِّئِي وَتَجْعَلَنِي طَوِيلَ الْعُمُرِ وَتُثَبِّتَنِي

کہ تو مجھے شفا اور تندرستی عطا کرے اور توانائی دے اور طویل العمر بنائے اور ثابت قدم رکھے

عَلَى طَرِيقَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالْمَحَبَّةِ وَالْمَعْرِفَةِ وَتُوصِلَنِي

اہل سنت و الجماعت کے طریقہ پر اور محبت و معرفت کے طریقہ پر اور مجھے واصل فرمائے



إِلَى مَرَاتِبِ الرِّجَالِ الْكَامِلِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى

کامل مردوں کے مراتب تک۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما اور برکات دے

الْمَحْبُوبِ الْمُقَدَّسِ عَنْ أَنْ يُحِبَّ أَحَدًا أَوْ يَعْرِفَهُ أَحَدًا كَمَا

اس محبوب پر جو اس سے مقدس و بالاتر ہیں کہ کوئی ان سے الماحقہ محبت کرے یا ان کی معرفت حاصل کرے

يَلِيْقُ بِشَانِهِ الْعَزِيزِ الْأَعْلَى إِلَّا أَنْتَ فَهُوَ خَاصُّكَ وَفَخُصُوصُكَ

جیسے کہ ان کے شان والا کے لائق ہے سوائے تیرے پس وہ تیرے خاص اور مخصوص ہیں

كَمَا أَنْتَ لَا يَعْرِفُكَ أَحَدٌ إِلَّا هُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَ

جیسے کہ تجھے کوئی نہیں پہچانتا سوائے ان کے صلی اللہ علیہ وسلم پس تو

بِعَنَائِكَ الْخَاصَّةِ خَاصَّةً وَمَخُصُوصَةً اللَّهُمَّ أَنْتَ وَهُوَ

اپنی عنایات خاصہ کی وجہ سے ان کا خاص اور مخصوص ہے۔ لے اللہ تیرے اور وہ ہیں اور

لَيْسَ أَحَدٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نُورِكَ

نہیں درمیان تیرے اور ان کے کوئی واسطہ۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما اپنے نور مقدس

الْمُنَزَّهِ الْمَشْبَهِ وَسِرِّكَ الْمُقَدَّسِ الْمَصُورِ اللَّهُمَّ بِحُرْمَتِهِ وَ

پر جو نوع انسانی کے مشابہ ہیں اور اپنے سر مقدس پر جو تصور و تشکل ہیں (شکل بشری میں) لے اللہ ان کی عزت کا

بِحُرْمَةٍ مَنِ اتَّبَعَهُ إِشْفَانِي شِفَاءً كَامِلًا عَاجِلًا وَاجْعَلْنِي قَوِيًّا

صدقہ اور ان کے متبعین کی حرمت کے طفیل مجھے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما اور مجھے توانا

صَحِيحًا مَعَا فَا فِي الْبَدَنِ وَالْقَلْبِ وَالذِّينِ وَالذُّنْيَا وَطَوَّلْ عُمْرِي

تندرست اور صاحب عافیت بنا بدن و قلب اور دین و دنیا کے لحاظ سے اور میری عمر دراز فرما

وَتَبَتَّنِي عَلَى طَرِيقَةِ الصُّوفِيَّةِ الْمُحَقِّقِينَ الْكَامِلِينَ الَّذِينَ هُمْ

اور مجھے ثابت قدم رکھ محققین کاملین صوفیاء کے طریقہ پر جو کہ

وَرَثَةُ حَبِيبِكَ الْأَصْفَى الْمُجْتَبَى الْمُرْتَضَى صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

وارث ہیں تیرے حبیب اصفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ کے صلی اللہ علیہ



وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَبِيبِكَ ذَلِكَ التَّوْبَةَ الْعَالِيَّ وَالسِّرِّ

وسلم۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے حبیب کے طفیل جو نور عالی اور سرمنقالی

الْمُتَعَالَى أَنْ تَشْفِيَنِي مِنْ جَمِيعِ الْأَمْرَاضِ وَتُصَحِّحَنِي وَتُقَوِّبِنِي

ہیں کہ شفا عطا کرے مجھے تمام امراض سے اور صحت و تقویت عطا فرمائے

وَتَجْعَلَنِي طَوِيلَ الْعُمُرِ أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ

اور مجھے طویل العمر بنائے آمین آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ شِعَاعِ الذَّاتِ الْقَدِيمَةِ السَّرْمَدِيَّةِ التَّوْبَرِيَّةِ وَنُورِ

صلوٰۃ نازل فرما محمد پر جو شعاع ہیں ذات قدیمہ سرمدیہ نوریہ کی اور نور ہیں

أَفْلَاكِ الْوُجُودِ الْكَلْبِيَّةِ الظُّهُورِيَّةِ اللَّهُمَّ حَدِّدْ فَوْقَ طَاقَتِي وَ

وجود کے افلاک کلیہ ظاہریہ کا۔ اے اللہ تیری حمد میری طاقت و بساط سے زائد ہے

ثَنَاءً حَبِيبِكَ لَيْسَ بِقُدْرَتِي وَفِي طَاعَتِكَ وَفِي اتِّبَاعِ شَرِيعَتِكَ

اور تیرے حبیب کی ثناء میری قدرت میں نہیں ہے۔ میں تیری اطاعت اور تیری شریعت کی اتباع میں

مُتَوَسِّلٌ فِي جَمِيعِ مَسَائِلِي بِاسْمِ حَبِيبِكَ الَّذِي اسْمُهُ فَوْقَ

وسیلہ بناتا ہوں اپنے تمام سوالات و حاجات میں تیرے حبیب کے نام نامی کو کہ جن کا نام مقدس بلند و بالا ہے

الْمُسَمِّيَّاتِ وَأَشْرَفُ مِنَ الْمَعَانِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تمام مسمیات سے اور اشرف ہے تمام معانی سے یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

وَأَقُولُ إِنِّي مُتَوَسِّلٌ بِحَبِيبِكَ فَإِنَّ التَّوَسُّلَ بِنَفْسِ حَبِيبِكَ يَقْتَضِي

اور میں کہتا ہوں کہ میں متوسل ہوں تیرے حبیب کے ساتھ کیونکہ تیرے حبیب کی ذات کے ساتھ توسل چاہتا ہے

الْإِتِّصَالَ بِهِ وَهُوَ غَايَةُ الْغَايَاتِ وَلَا غَايَةَ فَوْقَهُ فَإِنْ نَظَرْتُ إِلَى

ان کے ساتھ ربط کامل کو اور وہ سب غایات کی غایت ہیں ان سے اوپر کوئی غایت نہیں ہے پس اگر میں ملحوظ رکھوں اس امر کو

أَنَّ حَبِيبَكَ هُوَ الْمُرَادُ مِنْ اسْمِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ

کہ تیرے حبیب کی ذات ہی مقصود ہے ان کے اسم سے صلی اللہ علیہ وسلم پس ان کی ذات اور اسم ایک ہوئے





هُوَ كَمَا قَالُوا إِنَّ الْإِسْمَ هُوَ عَيْنُ الْمَسِيٍّ فَهَذَا أَشْرَفُ عَظِيمٍ وَفَضْلٌ

جیسے کہا گیا ہے کہ بے شک اسم مسی کا عین ہوتا ہے تو یہ عظیم شرف ہے اور بہت بڑا فضل ہے

جَسِيمٌ مِّنْ قَبْلِ جَبِيكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْفَ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ

تیرے حبیب کی جانب سے رحمت نازل فرمائے ان پر اللہ تعالیٰ اور سلام ہزار دفعہ۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْغَنِيِّ عَنِ تَوْصِيْفِنَا وَالْمُسْتَغْنَى عَنِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جو بے نیاز ہیں ہماری توصیف سے اور مستغنی ہیں

تَكْرِيْبِنَا وَهُوَ الْمَكْرَمُ الْمَكْرَمُ وَالْمُعْظَمُ الْمُعْظَمُ اللَّهُمَّ يَا لَطِيفُ

ہماری تعظیم سے اور وہی صاحب اکرام و تحکیم ہیں اور صاحب عظمت و تعظیم ہیں۔ اے اللہ اے لطیف

يَا رِزَاقُ يَا قَوِيُّ يَا عَزِيزُ لَكَ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ تَبْسُطُ

اے رزاق۔ اے قوی۔ اے عزیز۔ تیرے ہی ملک میں ہیں آسمانوں اور زمینوں کی چابیاں وسیع فرماتا ہے

الرِّزْقَ لِمَنْ تَشَاءُ وَتَقْدِرُ فَاَبْسُطْ لَنَا مِنَ الرِّزْقِ مَا يُوصِلُنَا بِهِ

رزق جس کے لیے چاہے اور اس کی مقدار میں کرتا ہے پس پھیلا ہمارے لیے رزق اتنا قدر کہ پہنچائے اس کے ساتھ

إِلَى رَحْمَتِكَ وَمِنْ رَحْمَتِكَ مَا تَحْوُلُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ نِقْمِكَ وَمِنْ

اپنی رحمت تک اور اپنی رحمت سے اتنا قدر کہ حاصل ہو جائے اس کے ذریعے ہمارے اور اپنے عذاب کے درمیان

حِلْمِكَ مَا يَسْعُنَا بِهِ عَفْوِكَ وَاخْتِمْ لَنَا السَّعَادَةَ الَّتِي خَتَمْتَ بِهَا

اور اپنے حلم سے اتنا قدر کہ اس کی بدولت محیط ہو جائے ہمیں تیری عفو اور ہمارا خاتمہ فرما اس سعادت پر جس پر تو نے اپنے اولیاء

لأَوْلِيَاءِكَ وَاجْعَلْ خَيْرَ أَيَّامِنَا وَأَسْعِدْهَا يَوْمَ لِقَائِكَ وَزَحْرِحْنَا

کا خاتمہ فرمایا اور بنا ہمارے دنوں سے بہتر اور سعادت مندی والادوں اپنی ملاقات کا دن اور دور رکھ ہمیں

فِي الدُّنْيَا عَنْ نَارِ الشُّهُورَةِ وَأَدْخِلْنَا بِفَضْلِكَ فِي مِيَادِينِ الرَّحْمَةِ

دنیا میں شہوت کی آگ سے اور داخل فرما ہمیں اپنے فضل سے رحمت کے میدانوں میں

وَاجْعَلْ لَنَا ظَهِيرًا مِّنْ

اور پناہ ہمیں اپنے پاس سے عصمت کی وسیع چادریں اور بنا ہمارے امدادی ہمارے



عُقُولَنَا وَمُهَيْبَتَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَمَسْخَرًا مِنْ أَنْفُسِنَا كِي نُسَبِّحَكَ

عقول سے اور نجبان ہماری بیویوں سے اور مسخر فرما ہمارے لیے ہمارے نفوس تاکہ ہم تیری بہت تسبیح کہیں

كثِيرًا وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ۝ وَهَبْ لَنَا مَشَاهِدًا

اور بہت زیادہ ذکر کریں بے شک تو ہمارے متعلق بصیر ہے اور عطا فرما ہمیں مشاہدہ

تَصْجِهًا مَكَالِمَةً ۝ وَافْتَحْ أَسْمَاعَنَا وَأَبْصَارَنَا وَإِذْ كَرْنَا إِذَا غَفَلْنَا عَنْكَ

کہ جس کے مصاحب ہو ہمکلامی کا شرف اور کھول ہمارے کانوں کو اور آنکھوں کو اور ہمیں یاد فرما نا جب ہم تجھ سے

بِأَحْسَنِ مَا تَذْكُرُنَا بِهِ إِذَا كَرْنَا وَإِذَا رَحِمْنَا إِذَا عَصَيْنَا بِأَتَمِّ مَا تَرْحَمُنَا

غافل ہو جائیں ساتھ احسن طریقہ کے اس سے بھی کہ یاد فرماتا ہے جب ہم تجھے یاد کرتے ہیں اور رحم فرما ہم پر

بِهِ إِذَا أَطَعْنَاكَ ۝ وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا مَا تَقَدَّرَ مِنْهَا وَمَا تَأَخَّرَ وَالطُّفْ

جب تیری نافرمانی کرے ساتھ کامل ترین صورت رحم کے جو کرنا ہے ہم پر جب تیری اطاعت کریں اور بخش ہمارے گناہ پہلے اور

بِنَا لَطْفًا لَا يَجْبِنَا عَنْكَ شَيْءٌ فَإِنَّكَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ اللَّهُمَّ

پہلے اور ہم پر لطف فرما اس طرح کہ نہ مجبور کرے ہمیں کوئی شئی تجھ سے پس بیشک تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اے اللہ

أَنْتَ الْمَوْجُودُ وَاجْعَلْنِي مَوْجُودًا بِنُورِ وَحْدَانِيَّتِكَ مُؤَيَّدًا بِشَهَادَةِ

تو ہی موجود حقیقی ہے اور مجھے موجود فرما اپنے نور وحدانیت کے ساتھ۔ تائید کیا ہوا اپنے

قُرْبِ أُنْسِكَ الْوُدُّ بِعَبْدِكَ الْمَعْيُوبِ الْمَحْزُونِ إِلَهِي

قرب والہ کے شہود کے ساتھ جو مودت رکھنے والا ہے تیرے معیوب اور محزون بندے کے ساتھ۔ اے میرے خدا

أَنْتَ الْمَوْجُودُ بِذَاتِكَ الْعَلِيَّةِ بِأَلُوْهِتِكَ بِعَيْنِ عَيْنِ هَاءِ

تو ہی موجود ہے بذات خود جو بلند مرتبت ہے الوہیت کے ساتھ، ساتھ عین ہاء

هُوَ بَيْتِكَ اللَّهُمَّ ثَنَائِي وَصَلَوَاتِي وَتَسْلِيمَاتِي عَلَى حَبِيبِكَ مِنْ

ہویت و وجود خالص کے۔ اے اللہ میری ثناء اور صلوات و تسلیمات تیرے محبوب پر

أَكْمَلِ الْوَسَائِلِ وَأَعِزِّ الدَّرَجَاتِ لِي فِي حَضْرَتِكَ اللَّهُمَّ إِنَّا عَاجِزُونَ

کامل ترین وسید اور عزیز ترین درجہ ہیں میرے لیے تیری بارگاہ میں۔ اے اللہ بے شک ہم عاجز و





قَاصِرُونَ بِرَاءِ أَعْيَالِيكَ مِنَ الزَّيْغِ وَالزَّلِيلِ مُطِيعُونَ لِمَا أَمَرْتَ

قاصر ہیں۔ براءت اختیار کرتے ہیں تیری بارگاہ میں ٹیڑھ اور لغزش سے۔ اطاعت گزار ہیں تیرے امر کے

بِهِ مِنْ قَوْلٍ وَفِعْلٍ وَعَمَلٍ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

قول و فعل اور عمل سے پس بلند شان ہے اللہ شہنشاہ برحق۔ نہیں کوئی معبود برحق مگر وہی

رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ بِحُرْمَةِ سَيِّدِنَا وَجَيْبِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ

مالک ہے عرش کریم کا۔ ساتھ وسیلہ حرمت سیدنا و جیبنا و نبینا محمد صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرْفَعْنِي وَلَا تَضَعْنِي وَأَدْفَعْ عَنِّي وَلَا تَدْفَعْنِي وَ

علیہ وسلم کے مجھے بلند فرما اور پست نہ فرما۔ میرا دفاع فرما اور مجھے نہ دھنکار اور

أَعْطِنِي وَلَا تَحْرِمْنِي وَأَكْرِمْنِي وَلَا تُهِنِّي وَبَرِّدْ نَبِيَّ وَلَا تَنْقُصْنِي

مجھے عطا فرما اور محروم نہ فرما مجھے عزت بخش اور خوار نہ فرما اور مجھے زیادہ بخش اور کمی نہ فرما

وَأَثِرْنِي وَلَا تُؤْتِرْ عَلَيَّ أَحَدًا فِي أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاحْفَظْنِي

مجھے ترجیح دے اور مجھ پر کسی کو ترجیح نہ دے نہ دنیوی امر میں اور نہ اخروی میں۔ مجھے محفوظ فرما

وَلَا تَضَيِّعْنِي فَإِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِلَّا جَابَهُ جَدِيرٌ

اور ضائع نہ فرما بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اور قبول دعا کا حقدار اور لائق

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللَّهُمَّ مَا قَدَّرْتَ لِي مِنْ أَمْرٍ وَ

اے صاحب جلال و اکرام۔ اے اللہ جو امر تو نے میرے لیے مقدر فرمایا اور

شَرَعْتَ فِيهِ بِتَوْفِيقِكَ وَتَيْسِيرِكَ فَتَهْتَمُّ لِي بِأَحْسَنِ الْوُجُوهِ

میں اس میں شروع ہوا تیری توفیق اور تیسیر سے پس وہ میرے لیے تمام و عمل فرما احسن ترین طریقہ پر

كُلِّهَا وَأَصْلِحْهَا وَأَصْلِحْهَا فَإِنَّكَ عَلَى مَا تَشَاءُ قَدِيرٌ وَإِلَّا جَابَهُ

اور اتھمائی درست صورت مطابق اور اصولوں کے مطابق کیونکہ تو قدیر ہے ہر اس امر پر جو چاہے اور دعائیں قبول فرماتے

جَدِيرٌ يَا مَنْ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ يَا مَنْ يُبْسِكُ

کے لائق ہے۔ اے کہ قائم ہیں تمام آسمان اور زمینیں اس کے امر سے۔ اے کہ روکے ہوئے ہے





السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَكَرِيمٌ

آسمان کو زمین پر گرنے سے مگر ساتھ اپنے اذن کے بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ البتہ رؤوف

رَحِيمٌ رَبِّ اعْنِيْ وَلَا تَعْنُ عَلَيَّ وَاَنْصُرْنِيْ وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ وَ

درحیم ہے۔ اے اللہ میری امداد فرما اور میرے خلاف امداد نہ فرما۔ میری مدد فرما اور میرے مخالف کی مدد نہ فرما

اَمْكُرْ لِيْ وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ وَاَهْدِنِي الْهُدٰى وَيَسِّرْ لِي الْهُدٰى وَاَنْصُرْنِيْ

میرے لیے خفیہ تدبیر فرما اور میرے خلاف تدبیر نہ فرما۔ مجھے ہدایت خاص تک واصل فرما اور یسیر فرما اور میری مدد فرما

عَلٰى مَنْ بَغٰى عَلَيَّ رَبِّ اَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحَسْبِ عِبَادَتِكَ

مجھ پر ظلم و تعدی کرنے والوں کے خلاف۔ اے میرے پروردگار میری امداد فرما اپنے ذکر و شکر اور اچھی عبادت کرنے میں

اللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى دِيْنِيْ بِالدُّنْيَا وَعَلٰى اٰخِرَتِيْ بِالتَّقْوٰى وَاَحْفَظْنِيْ فِيْهَا

اے اللہ میری امداد فرما دنیا کے ذریعے دین پر اور تقویٰ کے ذریعے آخرت پر۔ اور میری حفاظت فرما ان امور میں جن سے

غِيْبَتْ عَنْهُ وَلَا تَكْلِبْنِيْ اِلٰى نَفْسِيْ فِيْمَا حَضَرْتَهُ يَا مَنْ لَا تَنْصُرُهُ الذُّنُوْبُ

میں غائب ہوں اور مجھے نہ سونپنا میرے نفس کی طرف ان امور میں جن میں حاضر ہوں۔ اے کہ جسے بندوں کے گناہ ضرر نہیں پہنچا سکتے

وَلَا تَنْقُصُهُ الْمَغْفِرَةُ هَبْ لِيْ مَا لَا يَنْقُصُكَ وَاغْفِرْ لِيْ مَا لَا يَغْفِرُكَ اِنَّكَ

اور مغفرت و بخشش اس کی شان میں کمی نہیں کرتی۔ مجھے عطا کر جو تیرے لیے موجب نقصان نہیں اور مجھے بخش جو تیرے لیے ضرر نہیں

اَنْتَ الْوَهَّابُ ۙ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ

بے شک تو عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِيْ اُوْرَثَ اللّٰهُ اُمَّتَهُ الْفِرْدَوْسَ وَهُمْ فِيْهَا

کہ اللہ تعالیٰ نے وارث بنا دیا ہے ان کی اُمت کو فردوسِ اعلیٰ کا اور وہ اس میں

خٰلِدُوْنَ ۙ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

ہمیشہ رہیں گے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو مصلحت ہیں

مُحَمَّدٍ الْمَعْنٰى بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ۙ مَا

اللہ تعالیٰ کے اس قول کا قسم ہے نون کی اور قلم کی اور اس کی جو ملاحظہ رکھتے ہیں۔ میں ہو آپ



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ



أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

اللہ تعالیٰ کی نعمت کے طفیل مجنون - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِ وَإِنَّ

اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے حق میں اللہ نے فرمایا " اور بے شک

لَكَ لَا جُرْأَ غَيْرَ مَمْنُونٍ ۗ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

تمہارے لیے عظیم اجر ہے جو منقطع ہونے والا نہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي فَتَحَ اللَّهُ أَبْوَابَ الرَّحْمَةِ عَلَىٰ أُمَّتِهِ

اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی امت پر اللہ تعالیٰ نے رحمت کے دروازے کھول رکھے ہیں

اللَّهُمَّ كُنْ لَنَا بَرًّا رَحِيمًا وَجَوَادًا كَرِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

اے اللہ ہو تو ہمارے لیے محسن مہربان اور جود فرما و کرم گستر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي فَتَحَ اللَّهُ بَصَائِرَ أُمَّتِهِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ کھول دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی امت کی قلبی نگاہوں کو

لِبِعْرِفَتِهِ وَمَحَبَّتِهِ اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَالْبِرَّ وَالْإِحْسَانَ

اس محبوب کی معرفت اور محبت کے لیے۔ اے اللہ محبوب بنا ہمارے لیے ایمان نیکی اور احسان

وَنَزِّينَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِنَا وَكِرْهَ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعُصْيَانَ

اور مزین کر اسے ہمارے دلوں میں۔ اور نا پسندیدہ بنا ہمارے لیے کفر و فسوق اور عصیان کو

وَاعْفِرِ اللَّهُمَّ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَلِمَشَائِخِنَا وَإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا

اور بخش۔ اے اللہ ہمیں ہمارے والدین۔ مشائخ اور بھائیوں کو جو ہم سے سبقت لے گئے

بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ

ایمان کے ساتھ اور ہمارے دلوں میں کھوٹ اور کینہ پیدا نہ فرما نا ایمان والوں کے حق میں۔ اے ہمارے رب بیشک

رَحِيمٌ اللَّهُمَّ افْتَحْ لَنَا أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَأَنْشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ وَأَدِّمْ

توڑو رحمت ہے۔ اے اللہ کھول دے ہمارے لیے رحمت کے دروازے اور پھیلا دے ہم پر اپنی رحمت اور دائم رکھ





عَلَيْنَا سَوَابِغِ نِعَمِكَ وَادْفَعْ عَنَّا شَرَّ نِقْمَتِكَ وَجَبِّئْنَا عَنْ سَخَطِكَ

ہم پر اپنی کامل نعمتیں اور دور فرما ہم سے اپنے برے انتقام کو اور بچا ہمیں اپنی ناراضگی سے

وَوَفَّقْنَا لِمَرْضَاتِكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

اور توفیق دے ہمیں اپنے پسندیدہ امور کی لے جلال و اکرام کے مالک۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رَبُّهُ اللَّهُ بَعْلُوذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی تربیت فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات و صفات کی بلندی و برتری یا

وَيُسَارِعُ فِي مَرْضَاتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

اور جلدی سے کام لیتا ہے ان کی مرضی پوری کرنے میں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُتَجَلِّيِّ بِتَجَلِّيَّتَيْنِ قَالَ لَهُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ يَا نُورُ نُورِي

آل پر جو محبوب کہ مزین ہیں دو تجلیوں کے ساتھ۔ انہیں فرمایا واحد و احد نے لے میرے نور کے نور

وَيَا سِرِّي وَيَا خَزَائِنَ مَعْرِفَتِي أَفْدَيْتُ مُلْكِي عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ

اور میرے سرا سرا۔ لے میری معرفت کے خزان میں نے اپنا ملک تجھ پر شمار کر دیا ہے لے محمد

مِنْ لَدُنِ الْعَرْشِ إِلَى تَحْتِ الْأَرْضِ كُلُّهُمْ يَطْلُبُونَ رِضَائِي وَأَنَا

عرش اعلیٰ سے تخت الشریٰ تک سبھی مخلوق میری رضا کی طالب ہے اور میں

أَطْلُبُ رِضَائَكَ يَا مُحَمَّدُ فَتَأْتِ فَتَأْتِ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

تمہاری رضا چاہتا ہوں لے محمد، کشادگی کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف کشادگی کار کی توفیق دے دے ہوئے۔ لے اللہ صلوات و سلام

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ شَهِيدٍ عَوَامِنَا رَسُولٍ صَاحِبِ

بیچ سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب ہم تمام کے شہید اور گواہ ہیں۔ تاج شفاعت والے رسول ہیں

التَّاجِ مُحَلِّبٍ بِإِذْنِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

اللہ تعالیٰ کے اذن سے (طبیبات کو) حلال ٹھہرانے والے ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْبُرَاقِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

آل پر جو محبوب صاحب براق ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی



اَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَكْبَرِنَا رَسُولٍ صَاحِبِ الْمِعْرَاجِ عَالِمِ غَيْبِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ

آل پر جو محبوب ہم سب سے بڑے ہیں اور تہجد میں اصحاب معراج رسول ہیں۔ صاحب علم انتزعی وغیبی ہیں اللہ کی طرف سے غیبی کئے ہوئے

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْحَوْضِ

ہیں لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب مالک ہیں اس حوض کے

الْمُرُوْدِ وَاللِّوَاۤءِ الْمَعْرُوْدِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ

جس پر سبھی اہمیت وارد ہوگی اور مالک ہیں پرچم احمد کے جو سبھی کو معلوم ہے۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ وَالْمَكَانِ الْمَشْهُوْدِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

سیدنا محمد کی آل پر جو محبوب مالک ہیں مقام محمود کے اور اس مکان کے جس میں سبھی حاضر کئے جائیں گے۔ لے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْمَوْكِبِ الْاَجْفَلِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو عظیم لشکر والے

وَالْمَنْظَرِ الْاَجْمَلِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا

اور جمیل ترین منظر والے ہیں لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْعِلْمِ الْاَزْقِيِّ وَالْقَلْبِ الْاَتَقِيِّ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جو کہ مالک ہیں بلند ترین پرچم کے اور انتہائی پرہیزگار قلب والے ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ السُّمُوۡةِ الْاَصْعَدِ وَالنَّسَبِ الْاَقْعَدِ اَللّٰهُمَّ

اور آپ کی آل پر جو محبوب مالک ہیں بہت ہی بلندی کے اور عظیم ترین نسب کے۔ لے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْجَحْفَلِ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو آقا مالک ہیں بہت بڑے لشکر جزار کے

الْجَزَّارِ وَالسَّكِيْنَةِ وَالْوَقَارِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی

اور سکینت و وقار کے۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ السَّرَايَا وَالغَزَاوَاتِ وَالْبُعُوْتَاتِ وَالْفَتْوَحَاتِ

آل پر جو محبوب سرایت اور غزوات والے ہیں اور عساکر و فتوحات والے ہیں



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب مالک ہیں

الرَّأْيَةِ وَالْهُدَايَةِ وَالرَّافَةِ وَالْعِنَايَةَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

پرچم کے اور ہدایت کے - رافت کے اور عنایت کے - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الذَّاتِ السَّنِيَّةِ وَالصِّفَاتِ

محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب بلند شان ذات اور عالی شان صفات

الْعَلِيَّةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کے مالک ہیں - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

صَاحِبِ الْمَقَامِ الشَّامِخِ وَالْقَدَمِ الرَّاسِخِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

جو بلند مقام کے مالک ہیں اور راسخ قدم والے ہیں - اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْجِلْمِ الْمَوْجُودِ وَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب کہ مالک ہیں حلم دائم کے اور

الْعَهْدِ الْمَعْهُودِ وَالشَّهَادَةِ فِي الْيَوْمِ الْمَشْهُودِ يَا عَالِي الشَّامِخِ فَوْقَ

عہد معلوم کے اور قیامت کے دن شہادت (تذکیر) کے، اے بلند مرتبہ و مقام والے

كُلِّ شَيْءٍ عُلُوًّا رُتِقَاعَهُ اجْعَلْنِي عَالِيًا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى الْوَلَايَةِ

کہ ہر چیز سے بالا ہے اس کا علو و ارتفاع مجھے بھی ہر چیز پر بلندی عطا کر حتی کہ ولایت

الْقُطْبِيَّةِ وَالْأَوْتَادِيَّةِ ثُمَّ مِنْهَا إِلَى الْعُرْفَانِ فِي الْمَشَاهِدَاتِ

قطبیت و اوتادیہ پر پھر اس سے مختلف انواع کے مشاہدات کے عرفان کی طرف

الْمُتَنَوِّعَةِ حَتَّى فِيهَا بَيِّنَاتُكَ الْعَكْسَاتِ حَتَّى أُعَايِنَهَا فِي الْعَجَائِبِ

جس نے جمع کر لیا اپنے اندر مشاہدات کے عکسوں کو حتی کہ معائنہ کروں میں ان کا مع تمام عجائب کے

فِي الْهَوَاءِ وَالْبَدَائِعِ فِي الْأَرْضِ وَلَا تَقْصُرْ فِي عَلِيٍّ عُلُودَاتِ عُلُوِّ

جو ہوا میں اور تمام انوکھے امور کے جو زمین میں ہیں اور نہ مقصور و محدود فرما مجھے ایک بلندی پر بغیر دوسری





أَنْتَ الْعَالِي الْمَطْلَقُ اجْعَلْنِي شَبِيهَا بِالْعُلُوبِيَّاتِ حَتَّى الْعَقْلُ الْأَوَّلُ

تو ہی تو مطلق بلندی اور رفعت والا ہے بنا دے مجھے مشابہ علویات کے حتی کہ عقل اول کے

مَنْ غَيْرَ قَصُورٍ فِي السَّلْسِلَةِ مَعَ بَقَاءِ الْقُوَّةِ فِي الْإِعَادَةِ وَالتَّكْرُرِ فِي

بغیر قصور کو تا ہی کے سلسلہ میں بمع باقی رہنے اعادہ اور رجوع کی قوت کے

طَرِيقِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ وَاهْتِمَالٍ بَطْنِي زَمَانِي أَوْ مَكَانِي فِي الصُّعُودِ

اس طریق اور راہ میں بغیر کسی توقف اور نظر اندازگی کے کسب طے زمانی یا مکانی کے صعود

وَالهَبُوطِ بِخَيَالٍ صَحِيحٍ بَلْ يَفْعَلُ لِمَا أَنْتَ قَادِرٌ عَلَى تَصْعِيدِ الْكَثِيفِ

اور ہبوط میں ساتھ خیال صحیح کے بلکہ بالفعل اور عملی طور پر کیونکہ تو قادر ہے کثیف و مادی کو

وَتَهْيِيطِ اللَّطِيفِ بِعَظَمَتِكَ الشَّرِيفِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِتَفَرُّغِ نَسِيمِ

بلندی کی طرف لے جانے پر اور لطیف و مجرد کوستی کی طرف لانے پر سبب اپنی عظمت شریف کے۔ اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے غنص

نَسِيمَاتِ نَفَحَاتِ أَسْرَارِكَ وَكَشْفِ إِسْمِكَ الَّذِي الْقَيْتُكَ لِتَلَقِّي

زمانے کا اپنے اسرار کی نمک والی نسیموں میں سے ایک نسیم اور اپنے اس اسم کے کشف کا جس کا اقرار کیا تو نے واسطے زائل کرنے

عَطِشِ الْكِبَادِ وَارِدِي حَوْضِ بَرِّكَ وَقاصِدِي سُبُوحِ بَرِّكَ يَا مَنْ لَا لَهُ

پایں اپنے احسان کے حوض پر وارد ہونے والوں کے مجروں کی اور اپنے مقدس راز کے قصد کرنے والوں کی لے کر جس کی کوئی

حَدٌّ يَعْلَمُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِعِلْمِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

حد معلوم نہیں کی جاسکتی اور وہی بہت جانتے والا ہے اپنے ذاتی علم کے ساتھ۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْرِ نَسِيمٍ وَتَعْبِيسٍ وَتَفْسِيسٍ وَتَرْشِيسٍ وَتَعْيِشِ

کی آل پر مطابق تعداد تمام اصول رویہ اور ہلاکتوں اور رفتن بادلوں اور بد خلقی اور اچھی گزاران کے

وَتَبَشِيشِ وَتَفْتِيشِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ

اور ہر باتشست اور لفتیش کے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ دِكْرِ ثَبِّ وَثَعْبٍ وَثَعْبٍ وَثَقْبٍ وَثَبِّجٍ وَثَعْبِجٍ

آل پر مطابق تعداد ہر مضبوط نشست اور لوٹ۔ زنج و قفل اور سوراخ۔ پاؤں کی انگلیوں پر اور فری جماعت کے













ذَلَّاتٍ وَذُمَّتٍ وَذَهَكِثٍ وَذُهُمُوتٍ وَذَبِجٍ وَذَرَجٍ وَخَزْرَجٍ وَرَبِجٍ وَبَكِجٍ

اور تیز رو کے اور ریتی جگہ اور کوتاہ و مختصر اور نرم و ملائم اور نقش و نگار اور کھائی کے کاغذ اور جنونی ہوا اور زخم اور بھین اور

وَبُلُوجِ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کشاہدی اور سیدۃ صبح۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر

بَعْدَ كُلِّ ذَاذٍ وَذَرَعٍ وَذَمَاءٍ وَذَيْبٍ وَذَنْبٍ وَذَابٍ وَذَهْوِبٍ وَذَيْبٍ

مطابق تعداد ہر اضطراب اور مخطوطی شبی اور امتی حیات اور متحرک ترین جنگلی بیل اور گناہ اور عیب اور جانے والے اور واقف پانی

وَذَمَّتٍ وَذَايَجٍ وَذَلِجٍ وَذُوجٍ وَذَرَجٍ وَذَلِجٍ وَذُوجٍ وَذَلِيلٍ وَذِي

اور ویلے پن اور پانی پینے اور گھونٹ بھرنے اور جلدی کرنے اور تھپڑ مارنے اور کھانا کھانے اور تنہی سے چلنے اور ہر ذلیل اور

رُوحٍ وَغَيْرِ ذِي رُوحٍ وَذُورٍ وَذَبْرٍ وَذَبْرٍ وَذَبْرٍ وَذَبْرٍ وَذَبْرٍ وَذَبْرٍ

ہر جاندار اور بے جان شئی اور ہر شئی کا وسط اور ہر کتاب اور بھوری چیز نئی اور کھرا ہٹ و خوف اور ذکر اور بہادر اور

ذُورٍ وَذَفْطِيسٍ وَذَنْشٍ وَحَفِيشٍ وَحَصَايِسٍ وَحَصِيسٍ اللَّهُمَّ

الگلا حصہ عمدہ کا اور مال برباد کرنے والا اور تیز رفتار اور ٹوکری اور تیز دوڑ اور زعفران کے۔ اے اللہ

يَا قَاهِرَ الْبَطْشِ الشَّدِيدِ أَنْتَ الَّذِي لَا يُطَاقُ انْتِقَامُهُ أَنْتَ

اے سخت گرفت پر قادر تو ہی ہے جس کے انتقام کی تاب نہیں لائی جاسکتی۔ تو ہی غالب ہے

الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَكُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْجِبَالِ

اپنے بندوں پر اور تمام آسمان و زمین والے حتیٰ کہ مستحکم بنیاد والے بندوں بالا

الرَّاسِيَاتِ الشَّامِخَاتِ وَجَلُّ مَنْ قَهْرِكَ وَهَيْبَتِكَ مِنْ حِينِ

پہاڑ خوف زدہ ہیں تیرے قہر اور ہیبت سے جب سے تو نے

نَزَعْتَ اللَّيَاسَ الْمَلَكُوتِيَّ مِمَّنْ يَدْعِي الْعِلْمَ وَالرِّيَاسَةَ بِالْقَهْرِ

اتار دیا ہے ملکہتی لباس علم و ریاست کا دعویٰ رکھنے والے سے قہر اور جبر کے ساتھ

وَالْجَبْرِ أَنْتَ الْفَرَّاقُ بَيْنَ الْمُتَمَائِلَاتِ وَالرَّكَابِ بَيْنَ الْمُتَفَرِّقَاتِ

تو میدان پیدا کرنے والا ہے باہم متماثل اشیاء میں اور ترکیب دینے والا ہے متفرقات میں



هَذَا هَوْنٌ عَلَيْكَ فِي عَالِمِ الْمَثَالَاتِ وَالْمَحْسُوسَاتِ مِنْ عَالِمِ

یہ سمجھ پر زیادہ آسان ہے عالم مثال اور عالم محسوسات میں بے نسبت عالم

الْمَجْرَدَاتِ وَالْمَعْقُولَاتِ فَبَطْشِكَ شَدِيدٌ قَاهِرٌ اِنْ اَخَذْتَهُ

مجردات اور عالم معقولات کے پس تیری گرفت بہت سخت اور غالب ہے اگر تو اس گرفت پر آئے

فَاَحْفَظْنِي عَنْ قَهْرِكَ بَلْطِفِكَ وَرَحْمَتِكَ وَلَيْسَ قَهْرُكَ وَغَلْبَتُكَ

تو مجھے محفوظ رکھنا اس قہر سے اپنے لطف اور رحمت کے ساتھ اور نہیں تیرا قہر اور غلبہ

مَحْصُورَةٌ فِي قُوَّةِ دُونَ قُوَّةٍ بَلْ كُلُّ جُنْدٍ مِّنْ جُنُودِ قَهْرِكَ وَ

محصور ایک قوت میں بغیر دوسری کے بلکہ ہر لشکر تیرے قہر و غلبہ کے لشکروں میں

غَلْبَتِكَ اِنْ اَرَدْتَ التَّسْلِيْطَ عَلٰى اَصْحَابِ الظُّلْمِ وَالْعُدُوِّ اِنْ

سے اگر ارادہ کرے تو اسے تسلط کرنے کا اہل ظلم و تعدی پر

فَالِدُّ وَدَاةُ الصَّغِيْرَةِ الْمَسْمَاةُ بِالْبُعُوْضَةِ تُعْجِزُ حَيَوَانًا كَثِيْرًا

تو ایک چھوٹا سا کیڑا جس کو بچھڑ کہا جاتا ہے عاجز کر دے بہتیرے حیوانات کو

مُدْهِسًا اِنْ اَرَدْتَ تَسْلِيْطَهَا عَلَيْهِ فَتَدْخُلُ فِيْ مَدَاخِلِهِ مِنْ

دہشت زدہ کرنے ہوئے اگر تو ارادہ کرے اس کے تسلط کرنے کا ان حیوانوں پر پس وہ داخل ہو جائیگا منافذات

الْبَحْرِ وَتَصِيْرُهَا كُلُّهَا دَرَكَاتِ جَهَنَّمَ حَارَّةٌ تُفَرِّقُهُ جُزْءًا

درخ میں سمندروں سے اور کر دیگا ان تمام کو جہنم کے طبقات، سخت گرم اور ان کو ٹکڑوں میں بانٹ دے گا اور اٹھائیکہ

طَبَاخَةً مُّغْلِيَةً اَجْسَادُ مَنْ اَرَدْتَهُ بِهَا فِيْ مَرَاتِبِ النَّسَبِ وَ

پکانے اور گلانے والا ہوگا ان کے اجسام جن کا تو نے اس کے ذریعہ تباہی کا ارادہ کیا (یہ معاملہ تو بے انسی اور

اِلْضَافَاتٍ فَمَا بَالُ الْقَهْرِ الْاَحْدَى الْحَقِيْقِي وَ اِنَّمَا الْقَهْرُ الْمَفْنِي

اضافی مراتب خلق میں پس کیا حال ہوگا اللہ تعالیٰ کے قہر حقیقی کا اور حقیقت یہ ہے کہ وہ قہر جو فنا کرنے والا ہے

لِشَيْءٍ صَلْبٍ كَالْجِبَالِ الشَّدِيْدَةِ الْاِحْكَمِ الْقَاعِدَةِ اَصُوْلُهَا اِلَى

کسی بھی سخت ترین شے کو مثلاً سخت پہاڑوں کو جو بہت مستحکم ہوں ان کے اصول اور بنیادیں





مُتَّهِى الْأَرْضِ بِشَيْءٍ لَّطِيفٍ غَيْرِ مُحْسُوْسٍ يَجْعَلُ الْقَهْرَ الْقَلَاءَ

مُتَّهِى زَمِنْ تَمَّ سِجِّى هُوْنِى هُوْنِى تُوُوهُ تَبَاهُ كُنْ قَهْرُ كَرُ الْكَيْطُ يَهِيكُنْ وَاللَّهُ بِنَدَائِهِ كَا الْبَيْطِ لَطِيفٌ غَيْرُ مُحْسُوْسٍ شَيْءٌ كُو

لَهُ الْآلَةُ التَّحْلِيلِ وَالتَّجْرِزِ يَجْعَلُ أَجْزَاءَهَا مَسْلُوبَةً الْقُوَّةَ

اَلْاَلَةُ التَّحْلِيْلُ وَتَقْسِيْمُ كَا جَرْ كَرُ دَسُ كَا اِسْ كُ الْاِجْزَاءُ كُو عَارِى قُوْتِ

وَالثَّقْلَ حَتَّى يَصِيرَ الْمَقْهُورُ كَالْعَيْنِ الْمَنْفُوشِ بِقَهْرِ ذِي

اُوْر ثَقْلٍ سَعِى شَيْءٌ كُو وَهُ مَقْهُوْرٌ بِبِهَاطٍ رَضَى هُوْنِى رُوْنِى كِي مَانَدٌ هُوْجَايْنِ سَبَبِ اِسْ قَهْرِ كُ

نَسْبَةٍ وَإِضَافَةٍ وَلَوْ تَعَلَّقَ أَصْلُهُ بِشَيْءٍ مَّا بَقِيَ شَيْءٌ لَّا فِي

جُوْنِسْتِ وَاِضَافَتِ رُكْنَابِى اُوْر اَلْحَقِيْقِي قَهْرُ كَا تَعَلَّقَ كِسْمِي شَيْءٌ سَعِى هُوْ تُوُو كُوْنِي شَيْءٌ بِهِي بَاتِي نَرْبِى نِ

الْحِسِّ وَلَا فِي الْمَعْنَى بِتَغْيِيْبِهِ فِي جَنْسِهِ حَتَّى يَصِيرَ الْمَقْهُورُ

حُوْاْسِ مِي اُوْر نِ حَقِيْقَتِ مِي سَبَبِ غَايْبِ هُوْرِنِ قَهْرِ كُ مَقْهُوْرِ كِي جَنْسِ مِي حَتَّى كُو هُوْجَايْنِ كَا مَقْهُوْرُ

عَيْنَ الْقَهْرِ الْمُهْلِكِ فَلْقَهْرِكَ مَرَاتِبٌ لَا يُحْصَى عَدُّهَا اللَّهُمَّ

مِيْنِ تَبَاهُ كُنْ قَهْرُ كَا بِسِ تِيْرِ سَعِى قَهْرِ كُ يَسُ اَسْتِ مَرَاتِبِ هِيْنِ كُو اِنْ كِي كُنْتِي نِيْسِ كِي جَا سَكْتِي . اَسُ اَللّٰهُ

اجْعَلْ قَهْرَكَ نَاصِرِي حَيْثُ دَعَوْتُهُ بِالْهَامِكِ الصَّحِيحِ حَتَّى يَقْلَعَهُ

بِنَادِى اَيْنِ قَهْرُ كُو مِيْرَا اِعْمَادِي جِهَانِ بِهِي اِسْ كُو بِكَارُوْنِ تِيْرِ سَعِى صَحِيْحِ اَلْهَامِ سَعِى حَتَّى كُو الْكَيْطُ دَسُ اِسْ كُو

مِنَ الْأَصْلِ كَالْجِبَلِ الْمَقْلُوعِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْأَصْلِ أَوْ يَصْرِفَهُ

بِنِيَادِى سَعِى مَانَدِ اِنِ بِبِهَاطُوْنِ كُ جُو الْكَيْطُ سَعِى هُوْرِنِ هُوْنِى كُ بِنِيَادُوْنِ سَعِى قِيَامَتِ كُ دِنِ يَابِجْهَرِ دَسُ اِسْ زَخْلَامِ وَجَابِرِ

مِنْ قُوَّةٍ مُؤْذِيَةٍ بَغَيْرِ حَقٍّ فَيُؤْذِيَهُ بِأَيْلَامٍ وَشِدَّةٍ حَتَّى يَكْفَ

كُو اِسْ كِي نَاْحِقِ اِيْزَادِ رَسَانِي كِي قُوْتِ سَعِى هِيْسِ اِسْ كُو اِيْزَادِ دَسُ اَلْمُ وِشْدَتِ كُ سَاْتَهْ حَتَّى كُو اِسْ بَا زُرْ كُحْ اِسْ

مَنْ فَعَلَهُ يَا إِلَهَ الْقَهَّارِ أَنْتَ تَعْظُمُ وَتُكْرَمُ لِمَنْ تَشَاءُ مِنْ عِبَادِكَ

فَعْلُ سَعِى . اَسُ اَللّٰهُ غَالِبٌ تُوُو هِي غَطَّتِ وَاِكْرَامِ عَطَا كُرْتَابِى سَعِى چَا بَى اَيْنِ بِنْدُوْنِ مِي سَعِى

وَإِنْ كَانَ حَقِيْرًا ذَلِيْلًا عِنْدَ عِبَادِكَ الْاَغْنِيَاءُ وَالْمَغْرُوْرِيْنَ

اَلْاِرْجُ حَقِيْرٍ اُوْر ذَلِيْلٍ هُو تِيْرِ سَعِى اَغْنِيَاءِ اُوْر مَغْرُوْرٍ بِنْدُوْنِ كُ اَسُ زُوْدِيْكَ





فَهَذَا عَبْدُكَ الدَّاعِي مِنْ أَرْضِكَ وَفَقْرَائِكَ وَلَيْسَ لَهُ

تو یہ تیرا دعا طلب بندہ تیرے رزق اور فقیر بندوں میں سے ہے۔ نہیں اس کا کوئی

جَاهٌ وَلَا صَدَارَةٌ فِي الْأَغْنِيَاءِ غَيْرَ أَنََّّهُ مُتَوَجِّهٌ إِلَيْكَ طَالِبٌ

مرتبہ اور مقام عزت اغنیاء کے نزدیک مگر وہ متوجہ ہے تیری طرف طلب گار ہے

لِدُجَاهِهِ وَالْعِظْمَةُ عِنْدَكَ بِأَنْ تَجْعَلَنِي وَلِيًّا مُتَصَرِّفًا فِي أَرْضِكَ

جاہ و عظمت کا تیرے ہاں بایں طور کہ کرے تو مجھے ایسا ولی جو تصرف رکھتا ہو تیری زمین میں

مُسْتَقِلًّا فِي دَعْوَةٍ كُلِّ اسْمٍ مِنْ أَسْمَائِكَ غَيْرِ مُتَخَلِّفٍ وَ مُتَوَقِّفٍ

مستقل ہو تیرے اسماء میں سے ہر اسم کی دعوت میں نہ ناکام اور نہ متوقف ہو ان

فِي ظُهُورِ الْأَشَارِ وَالْأَفَاعِيلِ وَإِنْ كَانَتْ فِي كُلِّ سَاعَةٍ مُتَكَرِّرَةً

کے آثار اور افعال کے ظاہر ہونے میں۔ اگرچہ ہوں ہر گھڑی میں ہزار دفعہ تکرار

أَلْفَ مَرَّةٍ ثُمَّ إِذَا قَارَبْتُ إِلَى الْفِعْلِ وَارْدَتِ الصَّرْفَ فَاصْرِفْهَا

کئے جانے والے پھر جب قریب ہوں فعل و تاثیر کے اور ارادہ فرمائے تو انہیں پھیرنے کا تو پھیرنا نہیں

اللَّهُمَّ أَقْطَابَ الْمَلَكُوتِ وَالسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالنَّاسُوتِ

اے اللہ ملکوت۔ سموات اور ارض اور عالم اجسام کے

نُؤَابِكُ وَخَلْفَائِكَ فَاجْعَلْ قَهْرَهُمْ قَهْرِي مُتَصَرِّفًا بِهِ فِي

اقطاب تیرے نائب اور خلیفے ہیں پس بنا دے ان کے قہر و غلبہ کو میرا قہر و غلبہ تصرف کروں ساتھ

مَلَكُوتِ الْأَرْضِ بِالتَّوَهُمِ وَالتَّخْيِيلِ ثُمَّ بِالْفِعْلِ فِي الْخَارِجِ

اس کے ملکوت ارض میں ساتھ توہم و تخیل کے پھر عملی طور پر خارج و واقع میں

مَعَ حُسْنِ الرِّضَا فِي الْعَاقِبَةِ أَمِينٌ مَعَ كُلِّ مَلِكٍ وَرُوحِ نَبِيٍّ

مع حسن رضا کے عاقبت میں مع ہر فرشتہ اور نبی مرسل کی روح کے امین

مُرْسِلِ اللَّهِ إِلَيَّ مُذْنِبٌ وَمُقَصِّرٌ فَاسْتُرْنِي وَلَا تَقْضِحْنِي

اے اللہ میں گناہگار ہوں اور کوتاہیوں کا مرتکب پس مجھ پر پردہ ڈال اور مجھے روانہ فرما





أَنْتَ سِتَارُ الْعُيُوبِ وَعَفَّارُ الذُّنُوبِ وَقَرِيبِي يَوْمَ الْجَزَاءِ وَ

تو عیوب کو چھپانے والا ہے اور گناہوں کا بچھنے والا ہے اور قریب کر مجھے جہاد اور

الْحَشْرِ إِلَى نَبِيِّي وَرَسُولِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُشْفِقًا رَحِيمًا لَا

حشر کے دن طرف میرے نبی و رسول محمد علیہ السلام کے جبکہ وہ مجھ پر مشفق و رحیم ہوں

عَبُوسًا وَلَا كَارِهًا مَبْنِي اللَّهُمَّ أَنْتَ الْقَادِرُ عَلَيَّ أَنْ تَجْعَلَنِي

نہ ناراض اور متنفر مجھ سے۔ اے اللہ تو قادر ہے اس پر کہ مجھے بالمشافہہ ان سے کلام کرنے

مُشَافِهًا مَعَهُ بِأَحْسَنِ كَلَامٍ حَتَّى يُحِبَّنِي وَيُحِبَّ أَصْحَابَهُ مِنْ

والا بنائے حسین کلام کے ساتھ حتی کہ وہ مجھ سے محبت فرمائیں اور محبت فرمائیں ان کے

الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَالْأَيُّمَةَ الْمَهْدِيِّينَ اللَّهُمَّ اهْدِنِي إِلَى صِرَاطِ

اصحاب۔ خلفاء راشدین اور آئمہ مہدیین۔ اے اللہ مجھے ہدایت دے راہ راست

مُسْتَقِيمٍ وَأَمْرِنِي عَلَيْهِ مَعَ الْمُتَّقِينَ بِفَضْلِكَ وَهُوَ قُوَّةٌ هَدَايَتِكَ

کی اور مجھے مامور فرما اس پر مع متقین کے ساتھ اپنے فضل کے اور سہی تیری قوی ہدایت ہے

أَمِينٍ مَعَ كُلِّ أَمِينٍ فِي الدِّينِ اللَّهُمَّ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

آمین ساتھ ہر آمین کے امور دین میں۔ اے اللہ ہدایت عطا کر ہمیں صراط مستقیم کی

صِرَاطَ مَحَبَّتِكَ وَمَحَبَّةِ جِبِّيكَ وَمَحَبُّوبِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

جو راہ ہے تیری محبت کا اور تیرے حبیب و محبوب کی محبت کا صلی اللہ علیہ

وَسَلَّمَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ يَا سُبُّوحٌ يَا قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ

وسلم۔ پاک ہے بادشاہ قدوس۔ اے سبوح۔ اے قدوس۔ رب ملائکہ

وَالرُّوحِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَى نَفْسِهِ وَزِنَةَ

اور روح کے۔ پاکیزگی ہے اللہ کے لیے اور ساتھ ہی حمد و ثناء اس کیلئے اس کی مخلوق کی تعداد اور ذات کی رضا

عَرْشِهِ وَمَدَادُ كَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اور اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کی مقدار سبحان اللہ۔ والحمد لله ولا اله الا الله





وَاللَّهُ أَكْبَرُ سُبْحَانَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اللَّهُ

واللہ اکبر۔ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اللہ

أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا سُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا سُبْحَانَ

بہت بڑا ہے۔ اللہ کے لیے بہت حمد ہے۔ تسبیح ہے اللہ کے لیے صبح اور شام۔ پاک ہے

اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لَا

اللہ مالک تمام جہانوں کا۔ نہیں بازگشت (گناہوں) سے اور زطاقت نبی کی مگر ساتھ اللہ غالب حکمت والے کے نہ

مَنْحًا وَلَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي

جائے نجات ہے اور نہ جائے پناہ اللہ تعالیٰ سے مگر طرف اسی کے۔ اے اللہ مجھے بخش۔ مجھ پر رحم فرما اور مجھے ہدایت دے

وَارْزُقْنِي وَاجْبُرْنِي وَعَافِنِي وَمَنْ يُعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى

اور رزق عطا فرما میری سب کئی غماز دور فرما۔ مجھے عافیت دے اور جو اللہ تعالیٰ سے عصمت حاصل کرے تو یقیناً اس کو ہدایت

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللَّهُمَّ اعْطِنِي فِي الْحَيَاةِ رَبُّطَ مُحَمَّدٍ فِي الْمَمَاتِ

دی گئی ہے صراط مستقیم کی طرف۔ اے اللہ مجھے عطا فرما زندگی میں ربط محمد کریم کے ساتھ۔ اور حالت موت میں

شَطَطِ مُحَمَّدٍ وَفِي الْقَبْرِ رِفَاقَةَ مُحَمَّدٍ وَفِي الْعَرَصَاتِ رِيقَةَ مُحَمَّدٍ

انصال محمد کریم سے اور قبر میں رفاقت محمد کریم کی اور میدان قیامت میں مسربانی محمد کریم کی

وَبِأَنْقِسَامِ الْكَوْثَرِ رِكَوَةَ مُحَمَّدٍ وَبِالْحِسَابِ رَحْمَةَ مُحَمَّدٍ وَبِجَمِيعِ

اور تقسیم کواثر کے وقت جام محمد کریم کا اور مقام حساب میں رحمت محمد کریم کی اور تمام

الْأُمُورِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَشْمِيتِ مُحَمَّدٍ وَبِمَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ

دنوی اور اخروی امور میں دعائے رحمت محمد کریم کی اور صفائے کبائر گناہوں کی

الْكَبَائِرِ وَالصَّغَائِرِ شَفَاعَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ صَلِّ

مغفرت کے وقت شفاعت محمد کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَىٰ مَحْبُوبِكَ مُحَمَّدٍ الَّذِي تَجَلَّيْتَ وَتَعَيَّنْتَ أَوْلًا بِصُورَةٍ

و سلام نازل فرما اپنے محبوب محمد پر کہ تو تجلی فرما ہوا اور تعین و تشخص اختیار کیا پہلے پہل ان کی





حَقِيقَتِهِ الْعِلْمِيَّةِ الْعَالِيَةِ الْمَطْلَقَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى سَائِرِ

حقیقت علیہ عالی مرتبت اور بلند شان مطلقہ کی صورت کے ساتھ نسبت دوسرے

الْحَقَائِقِ الْمُقَيَّدَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيْبِ غُيُوبِكَ الَّذِي لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ

حقائق کے جو مقید ہیں ساتھ نسبت کے طرف غیب کے تیرے غیوب میں سے کہ نہیں لوٹتا طرف اس

تَعَيَّنُ وَلَا يَمِيلُ إِلَيْهِ وَصَفٌ وَكَانَتْ تِلْكَ الْحَقِيقَةُ إِلَّا صُورَةً

کے کوئی تبیین اور نہیں میلان کرتا طرف اس کے کوئی وصف اور نہیں ہے وہ حقیقت مگر تیرے علم

عَلَيْكَ بِذَاتِكَ وَصِفَاتِكَ عَلَى الْوَجْهِ الْإِجْمَالِيِّ الْإِنْدِرَاجِيِّ الْمُشْتَمِلِ عَلَى

ذات و صفات کی صورت اور اوپر طریقہ اجمال و اندراج کے جو مشتمل ہے ان

جَمِيعِ الْحَقَائِقِ الَّتِي هِيَ صُورُكَ الْعِلْمِيَّةُ التَّفْصِيلِيَّةُ لِلشَّيْءِ وَالصِّفَاتِ

تمام حقائق پر جو تیری علمی تفصیلی صورتیں ہیں واسطے تمام شیوں کے اور تمام صفات

الْوُجُودِيَّةِ الْإِلَهِيَّةِ وَالْكُونِيَّةِ مُتَمَيِّزَةً لِكُلِّ صُورَةٍ عِلْمِيَّةٍ مِّنْ غَيْرِهَا

وجودیہ الہیہ اور کونیہ باہم ممتاز ہیں ہر ایک کے لیے دوسری سے مختلف صورت ہے

فَالصُّورَةُ التَّفْصِيلِيَّةُ هِيَ جَانِبٌ ظُهُورِيٌّ تِلْكَ الْحَقِيقَةُ الْعَالِيَةُ كَمَا أَنَّ

تو تمام صور تفصیلیہ اس حقیقت عالیہ کی جانب ظہور ہیں جیسے کہ تیری احدیت اس کی جانب

أَحَدِيَّتِكَ جَانِبٌ بَطُونِيٌّ وَتِلْكَ الْحَقِيقَةُ بَرَزَخَةٌ بَيْنَ الْبَطُونِ وَالظُّهُورِ

بطون و خفاء ہے اور وہ حقیقت برزخ و واسطہ ہے احدیت کے بطون اور احدیت کے ظہور کے

الْأَحَدِيَّةِ وَالْوَأْحِدِيَّةِ ثُمَّ تَجَلَّتْ بِصُورَةٍ ظُهُورِيَّةٍ تِلْكَ الْحَقِيقَةُ وَظِلِّهَا

درمیان پھرتی تجلی فرما ہوا اس حقیقت کے ظہور والی صورت کے ساتھ اور اس کے ظل و پرتو کے ساتھ

الَّذِي يُسَمَّى بِالْحَقِيقَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ وَالْوُجُودِ الْعَامِّ وَهَذَا الظِّلُّ بَرَزَخٌ بَيْنَ

جس کو حقیقت انسانیہ اور وجود عام کا نام دیا جاتا ہے اور یہ ظل و عس و برزخ ہے

الْوُجُوبِ وَالْإِمْكَانِ وَالْأَلُوْهِيَّةِ وَالْعُبُودِيَّةِ فَيَشْتَمِلُ سَائِرُ الْحَقَائِقِ

وجوب و امکان اور الوہیت و عبودیت کے درمیان پس شامل و محیط ہے تمام حقائق کو



إِلَهِيَّةٌ كَانَتْ أَوْ خَلْقَانِيَّةٌ وَفِي هَذَا الْبُرْزُخِ تَحَقَّقَتِ الْحَقَائِقُ كُلُّهَا وَ

النبیہ ہوں یا مخلوق والے۔ اور اسی برزخ میں۔ مستحق ہیں تمام حقائق اور

تَمَيَّزَتْ بِهِ الْوَجُوبِيَّةُ عَنِ الْإِمْكَانِيَّةِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ

اسی سے ممتاز ہوئی وجوبیت امکانیت سے۔ پاک ہے تو لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَخَاطِبُ بِقَوْلٍ مِنْ أَيْدِيَ اللَّهِ بِرُوحِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جو محبوب مخاطب ہیں اس قول کے جو قول ہے ان کا جنہیں اللہ تعالیٰ

الْقُدْسِ مِنْ عُنْدِهِ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَمَّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالتَّبَيُّنُ مِنْ

نے تائید بخشی روح القدس کے ساتھ اپنے پاس سے "بینک ہم نے وحی نازل کی طرف تمہارے جیسے وحی نازل کی طرف نوح کے اور ان کے بعد

بَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

والے انبیاء کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

آل پر جو محبوب کہ بلند مرتبت نبی ہیں۔ لے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

إِلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سِرِّ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ وَبِأَسْمَائِكَ

آل پر جو محبوب کہ راز مخفی ہیں اسماء حسنی کا۔ لے اللہ بطفیل تیرے اسم اعظم۔ اور اسماء

الْحُسْنَىٰ وَصِفَاتِكَ الْكُبْرَىٰ وَكُتُبِكَ الْعُظْمَىٰ وَصَحْفِكَ الْعُلْيَا وَ

حسنى اور بلند شان صفات اور عظیم کتب اور عالی شان صحف کے اور

نُعُوتِ نَبِيِّكَ الْمُصْطَفَىٰ وَشِبَائِلِ رَسُولِكَ الْمُجْتَبَىٰ اجْعَلْ هَذِهِ

بطفیل اپنے نبی مصطفیٰ کی صفات عالیہ کے اور رسول مجتبیٰ کے خصائل کے بنا دے ہماری ان

الصَّلَوَاتِ مُفْرَحَاتٍ لِقُلُوبِنَا مَا نَعَاتٍ لِهَلِكَاتِنَا بِاعْتِنَاتٍ لِمُنْجِيَاتِنَا

صلوات کو موجب فرحت ہمارے قلوب کے لیے اور مانع ہماری ہلاکتوں سے اور باعث ہماری کامیابیوں کا

مَا حَيَاتٍ لِّذُنُوبِنَا مُكْفِّرَاتٍ لِسَيِّئَاتِنَا سَاتِرَاتٍ لِعُيُوبِنَا مُضَاعَفَاتٍ لِحَسَنَاتِنَا

شانے والی ہمارے گناہوں کی۔ دور کرنے والی ہمارے سینہات کی پروردہ پوشی کرنے والی ہمارے عیوب کی۔ بڑھانے والی ہماری نیکیوں کی





نَاصِرَاتٍ عَلَىٰ أَعْدَائِنَا وَفَاتِحَاتٍ لِّمُهَيَّبَاتِنَا فِي الدَّارَيْنِ وَمُبْرَعَاتٍ لِّقُبُورِنَا

مدرگاہ ہمارے لیے اعداء کے خلاف اور کھولنے والی ہمارے لیے مہمت کے دروازے دونوں جہانوں میں۔ جہلائی کی موجب ہوں ہماری

وَقَائِدَاتٍ إِلَى اللَّهِ لِلصَّلَاةِ حِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

قہروں میں اور اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والی ہوں صالحین کو۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور

عَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَثْنَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ عِنْدَ اخْتِصَاصِهِ

آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی ثناء کی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے قول کے ساتھ وقت مختص فرماتے ان کے ساتھ

بِقُرْبِهِ أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اپنے قرب کے ایمان لائے رسول ساتھ تمام ان امور کے جو نازل کئے گئے ان پر رب کی طرف سے اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي بَادَرَتْ الْمَلَائِكَةُ بِقَوْلِهِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کے لیے جلدی کی ملائکہ نے اس قول و اقرار میں

لَمَّا عَلِمُوا أَنَّكَ حَبِيبُهُ وَخَلِيلُهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ

جب جان لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب و خلیل ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں معبود برحق مگر اللہ وحدہ لا شریک لہ

لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ تعالیٰ کے عبد خاص اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي نَادَاهُ مَوْلَاهُ تَلَذُّذًا

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کو پکارا کہما ان کے مولیٰ نے لطف اندوز ہونے کے لیے

بِالْوَصَالِ الْعَالِيِ وَجُزْمَقَامِ الشَّرْفِ الْعَالِيِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ساتھ قیمتی وصل کے اور گزر جائیے شرف عالی کے مقام سے بھی اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَنْبَأَهُ اللَّهُ بِمَا كَانَ وَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب کو اللہ تعالیٰ نے خیر دی گزرے ہوئے امور کی

بِمَا يَكُونُ وَأَطَّلَعَهُ عَلَى سِرِّ الْغَيْبِ الْمَكْنُونِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ

در آئے والوں کی اور مطلع فرمایا ان کو مخفی غیب کے اسرار پر۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما





سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَصَفَّحَ صَفَحَاتِ السِّرِّ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جنہوں نے ملاحظہ کیا ایک ایک کر کے سر مخفی کے صفحات کا

المُسْتَوْر وَتَلَدَّ ذِيًا بِإِطْلَاعِهِ عَلَى الْكِتَابِ الْمَسْطُورِ يَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

اور لطف اندوز ہوئے کتاب مسطور پر اطلاع کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي اتَّحَفَهُ اللَّهُ بِأَنْوَاعِ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کو بطور تحفہ دیں اللہ تعالیٰ نے تمام قسم کی

الْكَرَامَاتِ وَخَصَّهُ بِفَرَضِ خَمْسِ صَلَوَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

کرامات اور بزرگیاں اور مخصوص ٹھہرایا انہیں پانچ نمازوں کی فرضیت کے ساتھ۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي رُفِّتْ عَلَيْهِ عَرَائِسُ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی طرف بھیجا گیا صلواتِ خمسہ والی

خَمْسِ صَلَوَاتٍ عَلَىٰ مَنْصَّاتِ الْخَلَوَاتِ وَالْجَلَوَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ

دلہنوں کو خلوتوں اور جلوہ گاہ پر۔ اے اللہ صلوٰۃ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَوَّلَ عُرُوسٍ جَلِيَّتٍ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ پہلی دلہن جس کو آتشکارا کیا گیا

عَلَيْهِ مِنَ الْخَمْسِ الْمَعْدُودَةِ صَلَاةِ الْفَجْرِ الْمَشْهُودَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ

ان پر ان پانچ شمار کردہ دلہنوں سے تو وہ صلوٰۃ فجر تھی جس میں حاضر ہوتے ہیں ملائکہ دن اور رات والے۔ اے اللہ

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلِيَّتْ عَلَيْهِ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن پر آشکار کی گئی

الظُّهْرُ وَهِيَ ثَانِيَةُ الْأُولَىٰ قَدْ كَسَتْ صَاحِبَهَا رِضًا وَسُؤْلًا اللَّهُمَّ صَلِّ

صلوٰۃ ظہر جبکہ وہ دوسرے درجہ میں تھی جس نے پہنائی اپنے ادا کرنے والے کو خلعتِ رضا اور حصول مقصود کے

وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلِيَّتْ عَلَيْهِ

اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن پر جلوہ ظاہر کیا گیا





ثَالِثَةُ الثَّانِيَةِ وَهِيَ الْعَصْرُ الْوَسْطَى مَنْ تَرَكَهَا آثَمَ وَأَخْطَأَ اللَّهُمَّ

تیسرے مرحلہ میں نماز عصر کا کہ جس نے اسے ترک کیا گناہگار اور خطا کار ہوا۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّيْتَ عَلَيْهِ

صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ ظاہر کی گئی ان پر

الْمَغْرِبِ رَابِعَةٌ مَاضِيَةٌ مُبَشِّرَةٌ بِالْفَوْزِ وَالرِّضَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

نماز مغرب چوتھے درجہ میں پہلی تین سے درآغا لیکر وہ بشارت دینے والی ہے کامیابی اور حصول رضا کی۔ اے اللہ صلوات و

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّيْتَ عَلَيْهِ خَامِسَةٌ

سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن پر آشکار کیا گیا قیمتی موتیوں سے پانچواں

الدَّرَجَةِ الْفَاخِرَةِ وَهِيَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى

موتی اور وہ صلوات عشاء ہے۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَلَّيْتَ عَلَيْهِ تِلْكَ

سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جن پر ظاہر کئے گئے یہ نفیس جواہر

التَّفَائِسُ وَتِلْكَ ذَرِيَعَةُ الْوَحْدَةِ بِمَحَاسِنِ تِلْكَ الْعَرَائِسِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اور لطیف اندوز ہوئے مقام تفرود و اختصام میں ان عرائس کے محاسن کے ساتھ۔ اے اللہ صلوات

وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي تَلَقَّى مَا اقْتَرَضَ عَلَيْهِ

و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جس محبوب نے قبول کیا اپنے رب کے

رَبِّهِ بِالْقَبُولِ وَنَالَ مِنْهُ بِذَلِكَ السُّؤْلِ وَالْبَأْمُولِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

فرائض کو اور پایا اس وجہ سے اس کی بارگاہ سے مطلوب و بامول۔ اے اللہ صلوات و سلام

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قَرَّ عَيْنِيهِ بِالصَّلَاةِ وَ

نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر کہ جس محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے اور

كَانَتْ لِأُمَّتِهِ رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ اللَّهِ أَرْحَمَنَا وَاغْفِرْ لَنَا

یہ نماز ان کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور صلوات (کی موجب) تھی۔ اے اللہ ہم پر رحمت فرما اپنی رحمت و سلام





بِرَحْمَتِكَ الْوَاسِعَةِ بِمَغْفِرَتِكَ الْكَامِلَةِ إِلَهِي لَكَ الْحَمْدُ تَقَحَّصْتُ

کے ساتھ اور مغفرت فرما اپنی مغفرت کاملہ کے ساتھ۔ اے اللہ تیرے لیے ہی حمد ہے میں تکلف و اہل

أُودِيَةَ الْهَلَاكِ وَحَلَلْتُ شَعَابَ تَلْفٍ تَرْضَيْتُ فِيهَا لِسَطْوَاتِكَ

ہو گیا ہوں ہلاکت کی وادیوں میں اور اتر گیا بربادی کی گھاٹیوں میں راضی ہو چکا میں ان میں تیری سطوتوں پر

وَلِحُلُولِ عُقُوبَاتِكَ وَوَسِيلَتِي إِلَيْكَ التَّوْحِيدُ وَذَرِيعَتِي أُنِّي لَمْ

اور تیری عقوبتوں کے نزول پر اور میرا وسیلہ تیری بارگاہ میں صرف عقیدہ توحید ہے اور میرا ذریعہ صرف یہ

أَشْرِكُ بِكَ شَيْئًا وَلَمْ أَتَّخِذْ مَعَكَ الْهَاءَ وَقَدْ فَرَرْتُ إِلَيْكَ بِنَفْسِي وَإِلَيْكَ

ہے کہ میں نے تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانا اور الا اختیار نہیں کیا اور میں نے دوڑایا ہے تیرے اپنے نفس

مَفْرَأُ الْمَسِيءِ وَمَفْرَعُ الْمُضِيِّ لِحِطِّ نَفْسِهِ الْمَلْتَجِي فِكْمُ مَنْ عَدُوِّ

کو اور تیری طرف ہی جائے فرار ہے ہر خطا کار کی اور جملے پناہ ہے اپنے نصیبوں کو برباد کرنے والے طالب پناہ کی۔ کتنے ہی دشمن ہیں جنہوں نے

أَنْتَضَى عَلَيَّ سَيْفَ عَدَاوَتِهِ وَشَحَذَ لِي طَبَّةَ مَدْيَتِهِ وَأَرْهَفَ لِي شَبَا

سونت رکھی ہے مجھ پر عداوت کی تلوار اور تیز کر رکھی ہے اپنی چھریوں کی دھار اور تیز کر رکھی ہے

حَدَّاهُ وَدَافَ إِلَى قَوَاتِلِ سُمُومِهِ وَسَدَّ دَنُجُومِي صَوَائِبَ سَهَابِهِ وَلَمْ

ان کی دھار اور پہنچائی ہیں مجھ تک قتل کرنے والی زہریں اور مضبوطی سے لٹب کئے ہیں میری جانب اپنے نشانہ پر لگنے والے

تَنْمُ مَنِي عَيْنٍ حِرَاسَتِهِ وَأَضْمَرَ أَنْ يَسُومَنِي الْمَكْرُوهَ وَيَجْرِعَ عَنِي رِجَاقٌ

تیرا اور نہیں سوئی مجھ سے اس کی تاک والی آنکھ اور دل میں پوشیدہ کر رکھا ہے مجھے شہانہ سے دوچار کرنے کا عزم اور گھونٹ گھونٹ کر کے پلاٹے

مِرَارَتِهِ فَنَظَرْتُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

اپنے عزم و عقیدہ کا کڑوا پانی جس کو ترنہ دیکھا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی

مُحَمَّدٍ وَعَلَى قَرْبَتِهِ فِي الْقَدْرَابِ وَقَدَحِهِ فِي الْأَقْدَاحِ وَكُؤُنِبِهِ فِي

آل پر اور آپ کی مشف پر مشکیزوں میں اور پیالے پر پیالوں میں اور جام پر

الْكِيْزَانِ وَكُؤُبِهِ فِي الْأَكْوَابِ وَمَشْرَبَتِهِ فِي الْمَشَارِبِ وَصَرَاحِيَّتِهِ

جاموں میں۔ اور کلاس پر گلاسوں۔ اور ان کے پینے کے برتن پر برتنوں میں اور ان کی صراحی پر





فِي الصَّرَاحِيَّاتِ وَكَاسِهِ فِي الْكُؤُسِ وَصَحْنِهِ فِي الصُّحُونِ وَصَحْفَتِهِ

صراحیوں میں اور ان کے پیالہ پر پیالوں میں اور ان کے چھوٹے پیالہ پر ایسے پیالوں میں۔ اور بڑے پیالے

فِي الصِّحَافِ وَأُمِّهِ فِي الْأَقْمَاتِ وَسَلْفِهِ فِي الْأَسْلَافِ وَخَلْفِهِ فِي

پر ایسے پیالوں میں ان کی والدہ پر جملہ اہمات میں۔ اور ان کے پیش رو پر جملہ اسلاف میں اور جانشین پر

الْأَخْلَافِ وَسَوْمَلِيَّتِهِ فِي السُّومَلَاتِ وَقَصْعَتِهِ فِي الْقِصَاعِ وَقَارُورَتِهِ

جملہ اخلاف میں اور آپ کے برسیدہ کپڑے پر برسیدہ کپڑوں میں اور پیالے پر پیالوں میں اور بوتل پر

فِي الْقَوَارِيرِ وَأَوْقِيَّتِهِ فِي الْأَوَاقِي وَكَيْلِهِ فِي الْأَكْيَالِ وَصَاعِهِ

بوتلوں میں اور آپ کے اوقیہ (چالیس درم کا سکہ) ہر اوقیوں میں اور آپ کے ناپ پر

فِي الْأَصْوَعِ وَمُدِّهِ فِي الْأُمْدَادِ وَرِطْلِهِ فِي الْأَرَطَالِ وَمَعِيشَتِهِ فِي

ناپوں میں اور صاع (چار سیر کا پیمانہ) پر صاعوں میں اور مد (سیر کا پیمانہ) پر مدوں میں اور رطل (آدھ سیر کا پیمانہ) پر رطلوں میں اور آجی

الْمَعَايِشِ وَجُوعِهِ فِي الْجُوعَانِ وَحَجْرِبَطْنِهِ فِي الْأَحْجَارِ وَعُطْشِهِ

معیشت پر معیشتوں میں اور بھوک پر بھوکوں میں اور آپ کے پیٹ پر بندھے پتھر پر پتھروں میں اور آپ کی پیاس پر

فِي الْعَطَاشِ وَزَادِهِ فِي الْأَزْوَادِ وَشَرَابِهِ فِي الْأَشْرِبَةِ وَمَشْرُوبِهِ فِي

پیاسوں میں اور آپ کے نادرہ پر زادوں میں اور آپ کے پینے پر پینے کے طریقوں میں۔ اور آپ کے مشروب پر

الْمَشْرُوبَاتِ وَشُرْبِهِ فِي الشَّارِبِينَ وَغَذَائِهِ فِي الْأَغْذِيَةِ وَطَعَامِهِ

مشروبات میں اور آپ کے پینے پر پینے والوں میں اور غذا پر غذاؤں میں اور طعام پر

فِي الْأَطْعِمَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

طعاموں میں۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل

مُحَمَّدٍ وَعَلَى مَا كُوِلِهِ وَأَكْلِهِ وَوَلِيَمَّتِهِ وَنَارِهِ وَمَاءِهِ وَحَطْبِهِ وَضَيْفِهِ

پر اور آپ کے ماکول پر اور کھانے پر اور ولیمہ پر اور آگ۔ پانی۔ ایندھن پر۔ مہمانوں پر

وَضِيَّافَتِهِ وَرَحِيهِ وَصَلَايَتِهِ وَتَوَابِلِهِ وَمَلْحِهِ وَبَصَلِهِ وَإِدَامِهِ فِي

اور ضیافت پر جہی پر اور آپ کی سل پر اور مصالحے پر اور نمک پر اور پیاز پر اور سالن پر





الْأُدْمُ وَخَلِّهِ وَقَلْقَاسِهِ وَقَرْعِهِ وَسَلْقِهِ وَخَضْرَاتِهِ فِي الْخَضْرَاتِ

سالنوں میں اور سرکہ پر۔ بہاری سبزیوں پر اور کدو پر اور چکندر پر اور ترکاری پر ترکاریوں میں

وَشَعِيرَةٍ فِي الشَّعِيرَاتِ وَرَغِيفَةٍ فِي الْأَرْغِفَةِ وَخَبْزِ شَعِيرَةٍ فِي الْأَخْبَازِ

اور بجر پر جووں میں اور ان کی گندم کی روٹی پر روٹیوں میں اور ان کی جو کی روٹی پر جووں کی روٹیوں میں

وَمَرَاقِهِ فِي الْأَمْرَاقِ وَخَمِيطِهِ فِي الْخَمِيطِ وَتُونِهِ فِي التَّيْنَانِ وَسَفْرَتِهِ فِي

اور ان کے شوربے پر شوربوں میں اور ان کے بھنے ہوئے گوشت پر ایسے گوشتوں میں اور مچھلی پر مچھلیوں میں دسترخوان

السَّفَرَاءِ وَبَسَلْتِهِ فِي الْبَسَلْتَيْنِ وَلَقْمَتِهِ فِي اللَّقْمَاتِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

پر دسترخوانوں میں اور بسلم اللہ بڑھنے پر بسلم اللہ بڑھنے والوں میں اور ان کے ہر لقمہ پر لقموں میں تمام تعریفیں اللہ کیسے ہیں

أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَأَوْنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور کفایت فرمائی اور پناہ دی۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى طَحْنِهِ فِي الْأَطْحَانِ وَسَوْبِقِهِ فِي السَّوَاقِ

اور آپ کی آل پر اور ان کے پے ہوئے آٹے پر ایسے آٹوں میں اور ستور پر ستوروں میں

وَقَدِيدِهِ فِي الْأَقْدَادِ وَلَحْمِهِ فِي اللَّحُومِ وَحَلْوَايِهِ فِي الْحَلَاوِيِّ وَ

اور خشک گوشت پر ایسے گوشتوں میں اور تازہ گوشت پر ایسے گوشتوں میں اور شیرینی پر شیرینیوں میں اور

عَسَلِهِ وَشَحْمِهِ فِي الشُّحُومِ وَزَبْدِهِ وَحَيْبِهِ وَشَبْعِهِ فِي الشَّبْعَانِ

شہد پر اور چربی پر چربیوں میں اور مکھن اور پنیر اور سیری پر سیر لوگوں میں

وَلَحْسِ أَصَابِعِهِ فِي الْأَحْسِينِ وَحَمْدَلْتِهِ فِي الْحَامِدِينَ وَخَلَالِهِ

اور انگلیاں چاٹنے پر انگلیوں کو چاٹنے والوں میں۔ اور ان کے الحمد کہنے پر الحمد کہنے والوں میں اور خلال کرنے

فِي الْمُتَخَلِّلِينَ وَسُورِهِ فِي الْأَسَادِ وَفَاكِهِتِهِ فِي الْفَوَاكِهِ وَتَمْرَتِهِ

پر خلال کرنے والوں میں اور ان کے بچے ہوئے کھانے پر بچے ہوئے کھانوں میں اور ان کے پھل پر پھلوں میں اور خشک کھجور

فِي التَّمْرَاتِ وَرُطْبِهِ فِي الْأَرْطَابِ وَسَفْرَجَلِهِ فِي السَّفَارِجِ وَعَنْبِهِ فِي

پر کھجوروں میں اور تازہ کھجور پر ایسی کھجوروں میں اور ان کی ناشپاتی پر ناشپاتیوں میں اور انجور پر





الْأَعْنَابِ وَخَوْخِهِ وَرُمَّانِهِ وَنَرَبِيَّةٍ وَكُونُزَةٍ وَتَيْنَةٍ وَقِثَّائِهِ وَ

انجوروں میں۔ اور آرزو پیر۔ اور انار پیر اور سوگی پیر۔ اور بادام پیر۔ انجیر پیر۔ اور گلڑھی پیر اور

تَوْتِهِ وَحَبِّبِهِ فِي الْحَبَابِ وَيَطِيخُهُ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَرِينَا

آب کے توت پیر۔ اور قلیل پانی پر ایسے پانیوں میں اور ان کے تربوز پیر۔ اے اللہ برکت عطا فرما ہمارے پھلوں میں

وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَةِ اللَّهِ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَ

اور برکت عطا فرما ہمارے مدینہ میں اور برکت عطا فرما ہمارے پیمانے اور وائے میں۔ اے اللہ برکت عطا فرما ہمارے لیے

أَطْعِمْنَا خَيْرَ أَمْنِهِ وَزِدْنَا مِنْهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانَا وَأَوَانَا وَ

اس میں (جو کھلا ہے اور کھلا ہیں اس سے بہتر اور اس میں ہمارے لیے امانہ فرما، تمام توفیق اللہ کے لیے میں جس میں کفایت

أَرْوَانَا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مَكْفُورٍ اللَّهُمَّ مَغْفِرَتِكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي

فرمائی اور میں پناہ دی اور سیراب فرمایا اور آغا لیکر اس سے بے نیازی ہے اور اس کی ناشکر گزاری۔ اے اللہ تیری مغفرت بہت وسیع ہے میرے

وَرَحْمَتِكَ أَرْجِي مِنْ عِنْدِي مِنَ اللَّهِ إِيَّا تَتُوبُ إِلَيْكَ مِنْهَا

گناہوں سے اور تیری رحمت زیادہ امید کے لائق ہے میرے نزدیک میرے عمل سے۔ اے اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں گناہوں سے

لَا أَرْجِعُ إِلَيْهَا أَبَدًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

میں ان کی طرف کبھی نہیں لوٹوں گا۔ اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى قَرَابَتِهِ فِي الْأَقْرَبَاءِ وَعَشِيرَتِهِ فِي الْعَشَائِرِ وَ

اور آپ کے اہل قرابت پر اقرباء میں اور خاندان پر خاندانوں میں اور

قَبِيلَتِهِ فِي الْقَبَائِلِ وَنَسَبِهِ فِي الْأَنْسَابِ وَأَهْلِهِ فِي الْأَهْلِينَ وَأَصْلِهِ

قبیلہ پر قبائل میں اور نسب پر انساب میں اور اہل پر اہلی میں اور اصل پر

فِي الْأَصُولِ وَفُرْعِهِ فِي الْفُرُوعِ وَكَبْنِهِ وَمَحِيضِهِ وَسَمْنِهِ فِي الْأَسْمَانِ

اصول میں اور ان کی فروع پر فروع میں اور دودھ پر اور خالص دودھ پر اور گھی پر گھی میں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي كَانَ فَخْرًا مَفْخَمًا وَسَيِّمًا

اے اللہ صلوات و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر جو کہ عظیم و معظّم تھے، خوبصورت، حسن سے عظیم حضور



قَسِيمًا رُبَعًا مِّنَ الْقَوْمِ لَا بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيرِ الْمَتَرِدِّ دَاطُولٍ

وصول کرنے والے۔ درمیان قدر بہت دراز قامت اور نہ کوتاہ قامت۔ درمیانے قد والوں سے ذرا دراز

مِنَ الْمَرْبُوعِ وَأَقْصَرَ مِمَّنْ الْمَشْدَبِ مُعْتَدِلُ الْخَلْقِ حَسِينُ الْجِسْمِ

اور طویل قامت لوگوں سے قدرے کم درازی والے۔ معتدل خلقت والے۔ حسین جسم والے

كَانَتْ غَصْنٌ بَيْنَ غَصْنَيْنِ لِمَ تَعْبَهُ تَجَلَّةٌ وَلَمْ تَذَرِ بِهِ صُعْلَةً

گویا کہ وہ شاخ ہیں درمیان دو شاخوں کے۔ نہ ان کو عیب ناک کیا پیٹ کی بڑائی نے اور نہ نقص پیدا کیا سر کی پھیڑائی نے

بَادِنٌ مُّتَمَاسِكٌ وَكَانَ أَسْمَرَ اللَّوْنِ وَأَبْيَضَ وَجْهَهُ يَتَلَاكَ الْقَمَرُ

درمیانے فرہ بدن والے بڑیوں سے چپکے مضبوط گوشت والے۔ آپ کا رنگ گندمی تھا اور چہرہ انور سفید جو چمکتا تھا مانند

فِي لَيْلَةِ الْبَدْرِ وَكَانَ فِي وَجْهِهِ تَدْوِيرٌ مَعَ التَّنْوِيرِ لَا بِالْمَطْهَمِ

چودھویں کے چاند کے۔ اور آپ کے چہرہ انور میں مناسب گولائی تھی بمع نورانیت کے نہ بہت بھاری پر گوشت

وَلَا بِالْمُكْتَمِ اللَّهُمَّ أَعْطِنِي خَلْفَةَ خُلَّةٍ فِي الدَّارَيْنِ وَخَلْعَةَ فِي

اور نہ بالکل پچکا ہوا۔ اے اللہ عطا فرما مجھے باقی رہنے والی دوستی دارین میں اور باقی رہنے والی خلعت

الْكُونَيْنِ بِحُلْيَةِ سَيِّدِ الْكُونَيْنِ وَحَلْوَةِ مَعَ اللَّهِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ

دونوں جہازوں میں بطفیل سید کونین کے جلیہ مبارک کے اور بطفیل ان کی خلوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جواہر کے

وَرَبِّ الْمَغْرِبَيْنِ اللَّهُمَّ تَفَضَّلْ عَلَيَّ وَأَحْسِنْ إِلَيَّ وَكُنْ لِي وَلَا

دونوں جانب مشرق و مغرب کا۔ اے اللہ مجھ پر فضل فرما اور میری طرف احسان فرما اور میرا ہو جا میرے

تَكُنْ عَلَيَّ اللَّهُمَّ فَرِّجْ هَيْبِي وَاكْشِفْ غَيْبِي وَأَهْلِكْ عَدُوِّي يَا

خلوت نہ ہونا۔ اے اللہ دور فرما میرے تفکر کو اور دور فرما میرے غم کو اور ہلاک فرما میرے دشمن کو اے

وَدُودُ اللَّهُمَّ وَتَقَبَّلْ حَسَنَاتِي اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوْسَعُ رِثَاكَ

ودود۔ اے اللہ اور قبول فرما میری نیکیاں۔ اے اللہ بنا اپنے رزق کو وسیع تر

عَلَيَّ عِنْدَ الشَّبَابِ وَكَبِرِ سِنِّيْ وَأَنْقِطَاعِ عُمُرِي اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي

مجھ پر میرے شباب کے وقت اور بڑھاپے اور عمر کے اختتام کے قریب۔ اے اللہ بنا مجھے



صَبُورًا وَاجْعَلْنِي شَكُورًا وَاجْعَلْنِي فِي عَيْنِي صَغِيرًا وَفِي أَعْيُنِ

بہت صبر کرنے والا اور بنا مجھے بہت شکر گزار اور بنا مجھے میری نظر میں چھوٹا اور لوگوں کی

النَّاسِ كَبِيرًا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي وَأَسْتَهْدِيكَ لِمَرَاتِدِ

نظروں میں بڑا۔ اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں اپنے گناہوں کیلئے اور تجھ سے ہدایت طلب کرتا ہوں اپنے

أَمْرِي وَأَسْتَجِيرُكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَأَتُوبُ إِلَيْكَ فَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ

امور میں درستگیوں کی اور پناہ طلب کرتا ہوں تجھ سے اپنے شر نفس سے اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں پس مجھ پر نظر رحمت فرما بیشک

أَنْتَ كَرِيمٌ اللَّهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِي فَأَحْسِنْ خُلُقِي رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ

تو میرا رب ہے۔ اے اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے پس میرے اخلاق بھی اچھے بنا۔ اے میرے رب مغفرت فرما

وَاهْدِنِي السَّبِيلَ الْأَقْوَمَ اللَّهُمَّ رَبِّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

رحم کر اور مجھے راست ترین راہ پر گامزن فرما اے اللہ اے پروردگار نبی محمد کے صلی اللہ علیہ

وَسَلَّمَ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَأَذْهِبْ عَنِّي غَيْظَ قَلْبِي وَاجْرِنِي مِنْ

و سلم میرے گناہ بخش اور مجھ سے دور فرما میرے دل کا غضب اور مجھے بچائے رکھ گمراہ

مُضَلَّاتِ الْفِتَنِ مَا أَحْيَيْتَنِي اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ

کن فتنوں سے جب تک کہ مجھے زندہ رکھے۔ اے اللہ تو سلامر سلامتی ہے اور تجھ سے سلامتی کی ابتدا اور انجام

وَإِلَيْكَ يَعُودُ السَّلَامُ حِينَئِذٍ نَبَا بِالسَّلَامِ وَأَدْخَلْنَا فِي دَارِ السَّلَامِ

اور تیری طرف ہی اس کی بازگشت ہے۔ زندہ رکھ ہمیں ساتھ سلامتی کے اور داخل فرما ہمیں دار السلام (جنت امین)

تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَ

بارکت ہے تو اے رب ہمارے اور بلند شان اے مالک جلال و اکرام کے۔ اے اللہ مجھے بخش۔

ارْحَمْنِي وَأَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ

مجھ پر رحم فرما۔ اور داخل کر مجھے جنت میں ساتھ اپنی رحمت کے اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَقْبَتَ

صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر جن کی خدمت کے لیے قائم فرمایا



بِخُدْمَتِهِ مُقَرَّبَ الْأَمْلاكِ وَجَعَلْتَهُ قُطْبًا تَدُورُ عَلَيْهِ الْأَفلاكُ

مقرب فرشتوں کو اور انہیں ایسا قطب بنا یا کہ جس پر تمام افلاک گردش کرتے ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا محمد پر اور آپ کی آل پر

الَّذِي أَجْلَسْتَهُ عَلَى كُرْسِيِّ الْمَكَانَةِ وَسِرِّ التَّيْمِينِ وَخَاطَبْتَهُ

جس محبوب کو تو نے بٹھایا عزت کی کرسی پر مطلع کیا راز تہمین پر اور خطاب فرمایا انہیں

لِلرُّشَادِ وَالتَّعْلِيمِ وَالتَّبْيِينِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا

رہبری۔ تعلیم اور اعلان حق کے لیے۔ اے اللہ صلوٰۃ و سلام نازل فرما سیدنا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي قُلْتَ لَهُ بِطَرِيقِ التَّبَجِيلِ

محمد پر اور سیدنا محمد کی آل پر جنہیں تو نے فرمایا تہجیم و تعظیم کے

وَالتَّعْظِيمِ ۗ وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ۗ

طور پر " اور البتہ تحقیق ہم نے دے دی ہیں آپ کو سات آیات جز بحراری جاتی ہیں (نمازوں میں) اور قرآن عظیم یعنی سورہ فاتحہ

قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنبَاءِ الْهَكْمِ إِلَهٍ وَاحِدٌ

فرمادیجئے حقیقت امر من یہ ہے کہ میری طرف ہی کی جاتی ہے کہ جڑا میں نہایت کہ موجود ہوتا ایک ہی ہے

فَهَلْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ ۗ قُلْ هُوَ

تو کیا تم تابعداری کرنے والے ہو۔ فرمادیجئے وہ

اللَّهُ أَحَدٌ ۗ اللَّهُ الصَّمَدُ ۗ لَمْ

اللہ یگانہ ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ اس نے

يَلِدْ ۗ وَلَمْ يُولَدْ ۗ وَلَمْ يَكُنْ

کسی کو جنم نہیں دیا۔ وہ نہیں جنا گیا۔ اور نہیں اس کا

لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

کوئی ہم پتر

